

# جادو اور جنات سے سلسلہ طریقہ بخوبی

farukh khan

جنات کے عجیب و غریب اور پراسرار حالات اور طور طریقے۔

جنات و سحر سے محفوظ رہنے اور ان کو زیر کرنے کے تباہ کن مخفی ہتھیاروں کا ذکر۔

سحر و جادو کے تائے ہوئے لوگوں کے لیے ایک آزمودہ تحفہ۔

رو جانی و جسمانی مصالح پر فیر کر کم قضا عکس دل الرُّفَعَ



کراچی بیک سٹی، اردو بازار لاہور

0333-8335011

## فہرست

27	پیش لفظ
28	سحر اور جنات کے اثرات کا بیان
28	سحر
28	سحر کی حقیقت
29	سحر کے احکام
39	مجزہ اور سحر میں فرق
30	حقیقت سحر
31	کلدانی سحر کے بڑے پکے ماہر تھے
32	کلدانی اور یونانی سحر میں فرق
33	ہندوستان میں کون سا ساحر راجح ہے
33	سحر کی دوسری قسم
33	سحر کی تیسری قسم
33	سحر کی چوتھی قسم
34	سحر کی پانچویں قسم
34	سحر کے اثرات
37	سحر و قسم کا ہوتا ہے
37	جن کے اثرات

جملہ حقوق بحق ناشر و مصنف محفوظ ہیں

نام کتاب  
جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات

تالیف  
روحانی و جسمانی معانی حکیم حافظ عبد الرؤوف

ناشر  
کراچی بک ٹی، اردو بازار لاہور

سن اشاعت

## ملنے کا پتہ

ادارہ اعلیٰ ریاض سوک سنتر نو شہرہ

کتب خانہ مظہری گلشن اقبال کراچی

مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور

مکتبہ قاسمیہ اردو بازار لاہور

اسلامی کتب خانہ بنوری ناؤن کراچی

مکتبہ رشیدیہ راجہ بازار اوپنڈی

ادارہ الرشید بنوری ناؤن کراچی

مکتبہ رحمانیہ قصہ خوانی پشاور

نیازی کتب خانہ اکوڑہ خٹک

مکتبہ لدھیانوی بنوری ناؤن کراچی

مکتبہ امام محمد بنوری ناؤن کراچی

شریروجنات کی تعداد

جنات کے رہنے سینے کی جگہ اوزان کی تسمیں

جنات انسانوں کو کیونکر تابتے ہیں

## باب ۱

فہرست	لہجہ
62	جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات
62	جادو کرنے والے کام و پڑا علم
62	شیخیں سحر کا عجیب و غریب عمل
62	نیماری یا جادو کی شیخیں کہ
	<b>باب ۲</b>
67	سحر کے چارستون اور انہیں سحر کے پانچ اور ان
69	رجھٹ و سحر و بادو کا عان
70	برائے دفع سحر جادو کا نہ
70	برائے دفع سحر
71	برائے دفع سحر
71	بڑے سے بڑے جادو کا خاص آواز
73	چیز کھلانے والے عمل
74	جانے والے عمل
76	پلانے والے عملیات
77	پلانے، باندھنے اور تسلی ملنے والا عمل
78	سحر، جگہ سے جادو ختم کرنے کے اعمال
78	سحر کیلئے والا عمل
79	نبالانے والا خاص عمل
81	پانی ملنے اور کھانے والا عمل
81	جادو کا وقایع
82	جادو (سحر) کا علاج

لہجہ	فہرست
38	ائمال رو حانی تشخیص
39	مریض پر دم کر کے تشخیص کرنا
40	کپڑا ناپ کر تشخیص کرنا
45	پہنے ہوئے کپڑے کے ذریعے تشخیص کرنا
49	کھلا کر تشخیص کرنا
51	نقش کے ذریعے تشخیص کرنا
52	بازو ناپ کر تشخیص کرنا
52	دھاگہ ناپ کر تشخیص کرنا
53	وارکر جلا کر تشخیص کرنا
54	پانی پلا کر تشخیص کرنا
54	تشخیص امرض کا عجیب و غریب عمل
55	تشخیص کرنے کا حیرت انگیز عمل ۱
56	نظر بد معلوم کرنے کا محیر العقول طریقہ
57	سحر و جادو کی معجزہ نما تشخیص اور علاج
58	تشخیص آسیب و جن
59	تشخیص کرنے کا عجیب عمل
60	
61	

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات

برائے دفعہ سحر

سحر سے حفاظت

سحر جادو کے لیے مجرب عمل

سحر پلیدی

مرد کو سحر پلیدی سے نجات دلانا

عورت کو سحر پلیدی سے نجات دلانا

سحر سے رشتہ کی بندش

جادو کے ذریعے بانجھ پن

جادو کے اثرات سے چڑچڑاہت

سحر اڑنہ کرے

جادو کے زور پر بلاک کر دینا

کالا جادو سے جسم میں سویاں چھینا

سحر بندش نکاح و شادی

شادی کی رکاوٹ میں فوری خاتمہ

سحر ایش

سحر لقوہ

سحر لقوہ کا ایک اور روحانی علاج

سحر سے یماری

سحر الفرج

سحر خمول

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات

83

83

83

84

86

88

89

89

90

92

92

94

95

97

99

100

101

103

103

105

فہرست

7

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات

107	سحر المغلون
109	سحر سام
110	سحر سام کا ایک اور روحانی علاج
111	سحر الپستان
114	سحر کا بوس
115	سحر بوس سے جلد نجات
116	سحر سدرودوار
117	سحر سدرودوار کا شافی علاج
118	سحر الخوف
120	ہر قسم کے جادو اور سفلی اعمال کا آسان علاج
121	جادو کے اثرات کا خاتمہ
121	سحر کا خاتمہ
122	سحر کا توز
123	سحر کو دور کرنے کا نقش
124	اگر لڑکی یا لڑکے کا رشتہ بند ہو
125	کالے جادو کا خاتمہ
125	رشتہ کی سحر بندش
127	سحر کے اثرات کا خاتمہ
128	سحر و جادو سے نجات
129	جادوی اثرات سے خلاصی

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات

8

فہرست

130	سحر کے اثرات دور کرنا
131	جادو کا خاتمه
131	جادو کا خاتمه
131	جادو کا خاتمه
132	جادو ٹوٹہ اڑنہ کرے
133	سحر کے اثرات دور کرنا
134	سحر کے اثرات کو ختم کرنا
135	جادو کے اثرات ختم کرنا
137	سفلی جادو کا خاتمه
139	لا علاج اور مہلک کا لے جادو کا توڑ
140	عمل کیمیائے حیات
141	کاروباری بندش ختم
142	بندش کاروبار
143	بندش فرج کا توڑ
145	سحری استھاضہ سے نجات کیلئے
146	برائے دفع سحر
147	برائے دفع سحر
147	برائے دفع سحر
149	برائے دفع سحر
149	برائے دفع سحر

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات

9

فہرست

152	برائے دفع سحر
153	برائے دفع سحر
154	برائے دفع سحر
154	برائے دفع سحر
155	برائے دفع سحر
156	برائے دفع سحر
157	برائے دفع سحر
158	برائے دفع سحر
158	برائے دفع سحر
159	برائے دفع رشتہ کی بندش
159	برائے دفع سحر
160	برائے دفع سحر
161	برائے دفع سحر
162	برائے دفع سحر
162	اگر کوئی سحر و جادو کے اثرات میں بتلا ہو
163	رنج والم و مصیبت و غم میں یا سحر میں بتلا ہو
164	برائے دفع سحر
164	برائے دفع سحر
165	سحر کرنے سے اپنی بیوی سے نفرت ہو گئی ہو
166	برائے دفع سحر بندش رشتہ

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات

10

اگر کسی کی لڑکی کا رشتہ عقد بستہ کیا ہو

اگر شوہر بیوی سے نفرت کرے

برائے بطلان سحر

بوجہ سحر اگر لڑکیاں پیدا ہوں

برائے بطلان سحر

عورت کا ہمستری سے نفرت کرنا

برائے رذہ سحر

برائے کشادی بخت

برائے جزع و فزع

برائے رذہ سحر

برائے رذہ سحر و حفاظت اطفال

برائے رذہ سحر

برائے رذہ سحر

عشق و محبت فراموش کرنے کے واسطے

برائے رذہ سحر

مریض عشق کا ایک اور آسان مجرب عمل

برائے رذہ سحر

برائے رذہ سحر بوط کا اعلان

برائے رذہ سحر بوط

برائے رذہ سحر بوط

فہرست

168

برائے رذہ سحر

169

برائے رذہ سحر

169

برائے رذہ سحر معقود

170

رذہ سحر برائے قادر ہونے

171

برائے رذہ سحر

172

برائے رذہ سحر

172

رذہ سحر برائے ظاہر کرنے پو شیدہ سحر

173

رذہ سحر برائے دور کرنے سحر ہندو سفلی

174

برائے رذہ سحر

175

جادو کے زور کا خاتمہ

175

برائے آسیب زدہ

176

گھر کو جنات، جادو اور سفلی کے اثر سے پاک کرنا

176

مکان سے جن، بخوت بھگانے کا طریقہ

176

حاسدین کے حسد اور شر سے حفاظت

176

آسیب و جنات گھر خالی کر دیں

177

جادو سفلی کی کاث کا عمل

177

جنات کی شرارت سے بچنے کا نبوی نسخہ

178

جادو کا مکمل علاج

179

ارواح سفلیہ کے مخفی نقصانات

179

سحر جادو کا خاتمہ

180

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات

11

فہرست

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات

باب ۳

- آسیب کی حاضر ہو جائے
- حاضر اسیب
- آسیب کی حاضری
- حاضر اسیب
- آسیب نقصان نہ پہنچائے
- خوبیت چڑیوں سے نجات
- جن و آسیب بھاگ جائیں
- آسیب و جنات نقصان نہ پہنچائیں
- آسیب و جنات سے چند کارا
- جن و آسیب کو جانا
- آسیب کو جانا
- آسیب بھاگ جائے
- جن و آسیب کے اثرات کا خاتمہ

فہرست

12

- 195
- 195
- 196
- 197
- 197
- 198
- 198
- 199
- 200
- 203
- 203
- 204
- 205
- 206
- 206
- 207
- 207
- 207

باب ۳

فہرست

13

- جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات
- آسیب کے اثر سے بچاؤ
- آسیب کو بھگانا
- آسیب و جنات سے نجات
- برائے دفعیہ آسیب و حرکات و خبات جنات
- ڈائن کی نظر سے محفوظ رہے
- آسیب و حرکا خاتمہ
- آسیب اثرات کا خاتمہ
- آسیب و جن فوز اخاکستر ہو
- جن و آسیب دور ہو جائیں
- آسیب و جنات کو بھگانا
- بندش آسیب
- بندش آسیب
- بندش آسیب
- آسیب و جنات تگن نہ کریں
- آسیب و جنات بھاگ جائیں
- آسیب و جنات کو بوال میں بند کرنا
- آسیب تگن نہ کرے
- آسیب کو خاکستر کرنا
- برائے دفع آسیب
- آسیب کی بندش

	جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات	فہرست
15		
236	آسیب و جنات کو بھگانا	223
237	برائے دفع آسیب	224
237	آسیب و جنات خاکستر ہو جائے	224
237	برائے دفع آسیب	225
238	برائے دفع آسیب	225
239	برائے دفع آسیب	225
240	برائے دفع آسیب	226
240	برائے دفع آسیب	226
241	برائے دفع آسیب	228
242	برائے دفع آسیب	229
248	برائے دفع آسیب	231
243	برائے دفع آسیب	231
244	برائے دفع آسیب	232
245	برائے دفع آسیب	233
245	برائے دفع آسیب	233
246	برائے دفع آسیب	239
247	برائے دفع آسیب	239
248	برائے دفع آسیب	235
248	برائے دفع آسیب	235
249	برائے دفع آسیب و جن پری	236

نمرت	مکالمات میں آئندہ آمد	نمرت
257	برائے دفعی آئندہ آمد	249
257	برائے دفعی آئندہ آمد	250
258	برائے دفعی آئندہ آمد	251
259	برائے دفعی آئندہ آمد	252
259	برائے دفعی آئندہ آمد	253
270	برائے دفعی آئندہ آمد	254
271	برائے دفعی آئندہ آمد	255
271	برائے دفعی آئندہ آمد اخیر	256
272	برائے دفعی آئندہ آمد	256
273	برائے دفعی آئندہ آمد	257
273	برائے دفعی آئندہ آمد	258
274	برائے دفعی آئندہ آمد	260
275	برائے دفعی آئندہ آمد	261
275	برائے دفعی آئندہ آمد	262
276	برائے دفعی آئندہ آمد	262
279	برائے دفعی آئندہ آمد	263
279	برائے دفعی آئندہ آمد	264
280	برائے دفعی آئندہ آمد	265
281	برائے دفعی آئندہ آمد	266
281	دفعی آئندہ آمد	266

307	برائے زن عقیمہ واستقر ارحمل	283	وفعیہ آسیب
308	برائے زن عقیمہ واستقر ارحمل	284	جنات کو جلانے کا عمل
308	برائے زن عقیمہ واستقر ارحمل	286	گھر میں اینٹ روڑے گرنا
309	برائے زن عقیمہ واستقر ارحمل	288	دفع جنات
309	برائے زن عقیمہ واستقر ارحمل	289	جنات کے عمل دخل کو ختم کرنا
310	برائے زن عقیمہ واستقر ارحمل	291	جنات، بحوث و آسیب کو بھگانا
311	برائے زن عقیمہ واستقر ارحمل	292	جنات، بحوث و آسیب کو بھگانا
311	جس عورت کو حمل قرار نہ پاتا ہو	293	گھروں میں خون کے چھینٹے پڑنا
312	اگر کسی عورت کو حمل نہ پڑھتا ہو		<b>باب ۵</b>
312	برائے زن عقیمہ واستقر ارحمل	297	مسان خام پختہ
313	برائے زن عقیمہ واستقر ارحمل	303	برائے عقیم مرد
314	برائے زن عقیمہ واستقر ارحمل	303	برائے عقیم مرد
315	برائے زن عقیمہ واستقر ارحمل	303	برائے زن عقیمہ
315	برائے زن عقیمہ واستقر ارحمل	304	برائے زن عقیمہ
315	برائے زن عقیمہ واستقر ارحمل	304	برائے زن عقیمہ
316	برائے زن عقیمہ واستقر ارحمل	305	برائے زن عقیمہ استقر ارحمل
316	برائے زن عقیمہ واستقر ارحمل	305	برائے زن عقیمہ واستقر ارحمل
317	اگر صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہوں	306	برائے زن عقیمہ واستقر ارحمل
318	عقیمہ عورتوں کے واسطے	306	برائے زن عقیمہ واستقر ارحمل
319	اولاد سے بایوس افراد کیلئے	307	برائے زن عقیمہ واستقر ارحمل

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات

20

برائے زن عقیمہ واستقرار حمل

برائے زن عقیمہ واستقرار حمل

عقیمہ عورتوں کے واسطے

شناخت برائے زن عقیمہ

دفع بانجھ پن اور اسقاط حمل

برائے اولاد نرینہ

برائے اولاد نرینہ

باب ۶

برائے حفاظت حمل

اگر کسی عورت کا حمل خام گر جاتا ہو

برائے حفاظت حمل

برائے حفاظت حمل

برائے حفاظت حمل

اگر کسی عورت کا حمل خام گر جاتا ہو

برائے حفاظت حمل

فہرست

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات

21

فہرست

جن عورتوں کو بار بار اسقاط کی شکایت ہوتی ہو

335

برائے حفاظت حمل

336

برائے حفاظت حمل

336

برائے حفاظت حمل

338

برائے حفاظت حمل

338

برائے حفاظت حمل

339

برائے حفاظت حمل

339

برائے حفاظت حمل

340

برائے حفاظت حمل

341

برائے حفاظت حمل

341

برائے حفاظت حمل

342

برائے حفاظت حمل

343

برائے حفاظت حمل

343

برائے حفاظت حمل

344

برائے حفاظت حمل

344

برائے حفاظت حمل

345

برائے حفاظت حمل

345

برائے حفاظت حمل

346

اگر کسی عورت کے شکم میں بچپ سوکھ گیا ہو

346

برائے حفاظت حمل

346

برائے حفاظت حمل

346

فہرست

320

320

320

321

321

323

324

327

327

328

329

329

330

331

332

332

333

334

334

برائے حفاظتِ حمل	347
برائے حفاظتِ حمل	347
برائے حفاظتِ حمل	348
برائے حفاظتِ حمل	349
برائے حفاظتِ حمل	349
برائے حفاظتِ حمل	350
برائے قرارِ حمل و حفاظتِ حمل	351
اگر کسی عورت کا حمل خام گرنے کا اندیشہ ہو	352
برائے قرارِ حمل	353
برائے حفاظتِ حمل	353
برائے قرارِ حمل نزینہ	354
برائے قرارِ حمل	354
برائے قرارِ حمل	355
برائے حفاظتِ حمل	355
برائے حفاظتِ حمل	356
اگر کسی عورت کا بار بار حمل گر جاتا ہو	356
جن عورتوں کو لڑکے کا حمل گر جاتا ہو	356
جن عورتوں کا حمل بار بار گر جاتا ہو	357
جن عورتوں کو اس قاطِ حمل کی شکایت ہو	357
برائے حفاظتِ حمل	358
حفاظتِ حمل کے واسطے	359
حفاظتِ حمل کے واسطے	359

برائے حفاظتِ حمل	360
جس عورت کا حمل بار بار گر جاتا ہو	361
برائے حفاظتِ حمل	361
برائے حفاظتِ حمل	362
<b>بَابُكَ</b>	
نا فرمان اولاد کے لیے	365
بیٹا نافرمان ہو جائے	365
جو بچہ ماں کا دودھ نہ پئے اس کا علاج	365
بچے کا رونا دھونا	365
بچوں کا نیند میں بڑھانے کا علاج	366
بچے کی حفاظت کے لیے تعویذ	366
بچوں کے لیے سوکھایا مسان کے لیے عمل	367
بچوں کے حفظ کیلئے	367
اغوا شدہ لڑکی یا لڑکے کی باز یابی کیلئے	368
گم شدہ لڑکی یا لڑکے کی باز یابی کے لیے	368
دانٹ جلد اور آسانی نکلنے کا نسخہ	368
نظر بد کے ازالہ کے لیے	368
بچوں کے رو نے کیلئے آیت الکری کا نقش	369
بچے کا رونا	369
دانٹ آسانی نکلنے کا تعویذ	370
نظر بد کے لیے	370

فہرست	
370	پھوں کی بد تیزی کا سبب اور اس کا علاج
370	وقت حافظہ بڑھانے کیلئے وظائف و دعائیں
371	پڑھائی میں دل لگانے کا وظیفہ
371	ذہن تیز کرنے کے لیے وظائف اور دعائیں
371	سبق یاد کرنے کے آسان عمل
372	مشکل پر چہ حل کرنے کے لیے وظیفہ
372	اعلیٰ پوزیشن کے لیے وظیفہ
372	امراض اطفال
372	سلامتی اولاد
373	بچے کو ام العصیان (مرگی) سے محفوظ رکھتا ہے
373	پھوں کو نظر بداور ہر بیماری سے حفاظت کے لیے
373	چیچک کا علاج
374	بچے کی تمام آفتوں سے بچاؤ کیلئے
374	تابع داری کے لیے
374	دماغی طاقت کیلئے
375	مسان سوکھا
375	اولاد کی نافرمانی اور شرارت سے حفاظت
376	پھوں کو بڑی عادت سے بچانا
376	دودھ نہ پینے والے بچے کیلئے
377	سوتے میں بچے کا ذرنا
377	بستر میں پیشاب کرنا

## انتساب

میں اپنی اس حقیر کاوش کو اپنے والدِ مکرم  
حضرت مولانا حکیم حافظ

قاری محمد بلاں صاحب حَفَظَ اللَّهُ عَنْهُ

(بانی و مہتمم مدرسہ دارالعلوم شیعیہ لاہور)

اور والدہ محترمہ کے نام منسوب کرتا ہوں  
جن کی دعائیں اور توجہ سے میں یہ خدمت  
سرانجام دینے کے قابل ہوا۔

## پیش لفظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

جادو ایک بہت ہی زیادہ فعل قبح ہے جو کسی پر بھی ہو سکتا ہے اس میں قطعاً ایسی کسی بھی شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا کہ فلاں کوئی افسر ہے، نواب، وزیر، بادشاہ، یا زندگی کے کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہواں کی کوئی بھی پروانہیں ہوتی بلکہ جس پر یہ گند اور پلید عمل کیا جاتا ہے وہ اس کے زیر ہو کر ہی رہتا ہے۔ اور اسکے اثرات تب تک چلتے رہتے ہیں جب تک اس کا صحیح علاج نہ کیا جائے اور صحیح علاج تب ہی ہو گا جب تشخیص بالکل ٹھیک اور واضح طور پر ہو گی۔ علاج سے زیادہ اہمیت کا حامل پیشہ، مقصد یا کام سب سے پہلے مرض کی تشخیص کا ہوتا ہے اگر تشخیص میں کوئی کمی رہ جائے تو علاج بالکل ٹھیک نہیں ہوتا اور اگر مرض کی مکمل تشخیص کر لی جائے تو علاج نشانے پر تیر مارنے والے کے برابر ہوتا ہے اور ایک ہی جھٹکے میں جادو کو توڑ کر پاش پاش کر دیتا ہے۔ اس لئے اس کتاب میں نہایت ہی زبردست قسم کے نسخے جات جادو کے مکمل اور کامیاب علاج کے نسخے جات بالکل ٹھیک اور مکمل صحت کے ساتھ بیان کئے ہیں۔

روحانی و جسمانی معالج

حکیم حافظ عبدالرؤف

صاحبزادہ حضرت مولانا حکیم حافظ قاری محمد بلاں صاحب

اللّٰهُمَّ اكْلِعْ عَلَى الْمُحَمَّلِ وَعَلَى الْمَحَمَّلِ  
كَا صَلَوةَ عَلَيْهِ وَمُمْلَأُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ  
إِنَّكَ لَمِنْ كَانَ مَبْرِيْكَا

اللّٰهُمَّ اكْلِعْ عَلَى الْمُحَمَّلِ وَعَلَى الْمَحَمَّلِ  
كَا بَارَكَتْ إِبْرَاهِيمَ وَمُمْلَأُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ  
إِنَّكَ لَمِنْ كَانَ مَبْرِيْكَا

## سحر اور جنات کے اثرات کا بیان

سحر:

سحر کے معنی لفظ میں امر مخفی اور پوشیدہ چیز کے ہیں اور علمی اصطلاح میں ایسے عجیب و غریب امور کا نام ہے، جن کے وجود میں آنے کے اسباب نظر سے پوشیدہ ہوں۔ تفسیر کبیر میں امام رازی نے فرمایا ہے۔

اعلم أن لفظ السحر في عرف الشرع مخصوص بكل ابرهخفي  
سميه و يتخيل على غير حقيقته.(تفسیر ابن کمین)

لقطہ سحر اصطلاح شریعت میں ایسے امر کے لئے مخصوص ہے جس کا سبب مخفی ہو  
اور وہ اصل حقیقت کے خلاف خیال میں آنے لگے۔

سحر کی حقیقت:

علماء اہل سنت کی رائے ہے کہ سحر واقعی ایک حقیقت ہے اور مضرت رسائی اثرات رکھتا ہے حق تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت کاملہ کے پیش نظر اس میں اس طرح مضر اثرات رکھ دیئے ہیں جس طرح زہر یا دوسری نقصان رسائی ادویات میں موجود ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ سحر بذات خود قدرت الہی سے بے نیاز ہو کر موثر بالذات ہے، سحر کو موثر بالذات سمجھنا کفر خالص ہے۔

علامہ حماد الدین ابن کثیر نے لکھا ہے۔

وقال ابن کثیر:(وقد ذکر الوزیر أبو المظفر يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة رحمه الله في كتابه الإشراف على مذاهب الأشراف باباً في السحر فقال أجمع على ان السحر له حقيقة.  
وزیر مظفر یحییٰ بن محمد بن هبیرہ نے اپنی کتاب الاشراف فی مذاہب الاشراف

میں ایک باب سحر کے متعلق بھی لکھا ہے اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ سحر کی بھی حقائق کی طرح ایک حقیقت ہے۔

سحر کے احکام:

فقہائے اسلام نے سحر کے متعلق تصریح کی ہے، کہ جن اعمال میں شیاطین ارواح خبیثہ اور غیر اللہ سے استعانت کی جائے اور ان کو حاجت رو اقرار دے کر منتروں کے ذریعہ ان کی تنجیر سے کام لیا جائے تو وہ شرک کے متراوٹ ہے، اور اس کا عامل کافر ہے اور جن اعمال میں ان کے علاوہ دوسرے طریقے استعمال کئے جائیں اور ان سے دوسروں کو نقصان پہنچایا جائے ان کا مرتكب حرام اور گناہ بکیرہ کا مرتكب ہے۔  
آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے۔ ”مہلک باتوں سے بچو یعنی شرک اور جادو سے۔ (بخاری)

علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے۔

قال نووی فی شرح مسلم: ”عمل السحر حرام، وهو من الكبائر بالإجماع، وقد یکون کفرًا وقد لا یکون کفرًا، بل معصية كبيرة فان كان فيه قول أو فعل یقتضي الكفر كفر والافلا وأما تعلمه وتعلیمه فحرام.“ (فتح الباری)

علامہ نووی کہتے ہیں کہ عمل سحر حرام ہے اور وہ بالاجماع کبائر میں سے ہے اور حضور ﷺ نے اس بات کو سات مہلک چیزوں میں شمار کیا ہے اور سحر کی بعض صورتیں کفر ہیں اور بعض کفر تو نہیں ہیں، مگر سخت معصیت ہیں، پس اگر سحر کا کوئی منتر یا کوئی عمل کفر کا مقتضی ہے تو وہ کفر ہے ورنہ نہیں، بہر حال سحر کا سیکھنا اور سکھانا قطعاً حرام ہے۔

مججزہ اور سحر میں فرق:

مججزہ اور سحر میں فرق یہ ہے کہ مججزہ براہ راست خدا کا فعل ہے، جو بغیر اسباب کے ایک صادق کی صداقت کے لئے عالم وجود میں آتا ہے اور وہ کسی اصول و قوانین پر مبنی نہیں ہوتا کہ ایک فن کی طرح سکھایا جاسکے، اور ہر وقت اس کے دکھانے پر قادر ہو، تا و قائمہ نافذ نافذ صداقت کے سامنے بطور چیزیں اس کو دکھانے کی ضرورت پیش نہ آئے، اسکی صورت میں جب نبی خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، تو خدا کی جانب سے اس کو دکھانے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔

سحر اور جادو ایک فن ہے، جن کو اس کے مقررہ اصول و قوانین کی پابندی کے ساتھ ہر فن دا ان سائز ہر وقت کام میں لا جا سکتا ہے، اس کے اسباب اگرچہ عام نظر وہ سے پوشیدہ ہوتے ہیں لیکن اس فن کے واقف کا راس سے واقف ہوتے ہیں۔

حقیقت سحر:

اللہ تعالیٰ کا توسل چھوڑ کر خفیہ اسbab کے ذریعہ خلاف عادت افعال بھیہ پر قدرت کا نام سحر ہے، نیا میں سحر کے مردج طریقوں میں خفیہ اسbab جن کے ذریعہ امور خرق عادت قیود میں آتے ہیں، یا تو روحمانیات ملکت ہیں، جیسے روحمانیات کو اک، افلاک اور عناصر کی یارو حفاظات جیسے ہیں مثلاً روحمانیات امراض یا جنات و شیاطین یا ارواح جو جسم سے عیده ہو پہنچی ہیں اور ان کو مسخر کرنے کے بعد ملک کا مول میں استعمال کیا جاتا ہے، یا تائیرات جسمانیہ لکھ جو اپنی شخصیت ترکیب یا ملک کی فیتوں کے جماع یا صورت جو جس کے نواس کی بنا پر حل میں آتی ہیں۔

روحمانیات سے منائبت یا تعلق پیدا کرنے کے طریقے ملک جس کبھی ان کا نام لے کر مقررہ طریقہ سے انجام کی جاتی ہے کہ یہ کام اسی طرح ہو جائے یا شخصی صورت میں بنائے جائے۔ بہر حال طریقہ اور ترکیبوں کے اعتبار سے سحر کی بہت سی

اقام ہیں لیکن عام طور پر دنیا میں سحر کے دو طریقے رانج ہیں ایک طرح گداہوں کا ہے اور دوسرا بامل کا ثانی الذکر کا آغاز پاروں و ماروں سے ہے۔

کلدانی سحر کے بڑے پکے ماہر تھے

معتبر تاریخوں کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ نمرود کے زمانہ میں حکماء بامل نے پچھے طسم ایسے عجیب و غریب تیار کئے تھے کہ مغل وہم کی رسائی ان تک دشوار تھی۔

(۱) کلدانیوں نے ایک بیٹھ بنا کی تھی اس بٹکی یہ خاصیت تھی کہ جب کوئی چور یا جاسوس شہر میں داخل ہوتا تو یہ خود بخود یونے لئے تھی تھی لوگ سمجھ جاتے تھے کہ شہر میں کوئی چور یا جاسوس آیا ہے وہ اس کو خلاش کر کے فوڑ اگر فتاکر لیتے تھے۔

(۲) ایک نقارہ اون قسم کا تھا کہ اگر کسی شخص کی کوئی جیج گم ہو جاتی تو وہ نقارہ پر چوٹ مارتا، تو اس سے آواز آتی تھی، کہ تمہاری گم شدہ جیج فلاں کے پاس ہے یا فلاں جگہ پر ہے۔

(۳) ایک آئینہ اس قسم کا بنایا تھا، جو عاب کا حال بتاتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔

(۴) ایک قسم کا جوش بنایا تھا جس کے کنارے جشن کے موقعہ پر لوگ جمع ہو کر مختلف قسم کے شربت اس جوش میں ڈال دیتے تھے اور جس وقت ان کو ضرورت ہوتی تھی وہ ہی شربت اس شخص کو مل جاتا تھا۔

(۵) کلدانیوں نے ایک ایسا تالاب بنایا تھا، جس سے مختلف فیہ مسائل حل کئے جاتے تھے، اگر کسی جیز کے متعلق دو شخص دعویٰ دار ہوتے تو وہ دونوں اس تالاب میں اترتے تھے جو حق پر ہوتا تھا تالاب کا پانی اس کی ناف تک آتا اور ملک اس پانی میں فرق ہو کر مر جاتا۔

(۶) نمرود کے محل کے دروازے پر کلدانیوں نے ایک ایسا درخت لگایا تھا جس کا سایہ آدمیوں کی تعداد کے مطابق لگھتا بڑھتا تھا۔

تغیر روحانیات علویہ و سفلیہ و جسمانیات وغیرہ وغیرہ کے مابین تھے، مگر یونانیوں نے تغیر روحانیات علویہ پر اکتفا کی ان کا خیال تھا کہ روحانیات علویہ کی تغیر کے بعد روحانیات سفلیہ کی تغیر کی ضرورت نہیں۔

### ہندوستان میں کون سا سحر راجح ہے:

تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ قیام ہندوستان میں سحر بابل کا راجح تھا، معتقد میں ہندوستانی روحانیات کی تغیر پر زور دیتے تھے۔

### سحر کی دوسری قسم:

سحر کی دوسری قسم جن و شیاطین کی تغیر ہے سحر کی یہ قسم پہلی قسم سے کہیں زیادہ سہل الحصول ہے، ہندوستان میں سحر کی یہ قسم کثرت سے راجح ہے، اس قسم میں بھوانی، ہنومان، وغیرہ کی دھائیاں دے کر اور ان کے استھانوں پر خوشبو اور بھینٹ وغیرہ چڑھا کر کام لیا جاتا ہے۔

### سحر کی تیسری قسم:

تغیر ارواح ہے کسی قوی دل قوی جسہ مردہ کو تلاش کر کے ایسے الفاظ پڑھ کر جن میں بڑے بڑے شیاطین کا ذکر ہوتا ہے اپنی طرف متوجہ کر کے آخر کار اپنے تابع اور مسخر کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے مثل نوکر چاکر کام لیتے ہیں۔ سحر کی اس قسم میں عام طور پر ارواح خبیثہ ہی کام آتی ہیں، چونکہ اس عمل میں خباثت کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے، اس لئے شرعاً سحر کی یہ قسم بھی منوع ہے۔

### سحر کی چوتھی قسم:

سحر کی ایک قسم یہ ہے کہ معمولی سی قوت و اہمہ بعض ارواح یا جنات کے ذریعہ سے خراب کر دی جاتی ہے، معمول کو یا تو سامنے کی چیز نظر نہیں آتی، اور اگر نظر آتی ہے تو ہولناک

یہ سب طلسمات نہروں کے دارالسلطنت بابل میں موجود تھے۔ اس فن کے علماء کا بیان ہے کہ سحر کی یہ قسم بہت ہی مشکل ہے، اس کے حاصل کرنے میں سخت سے سخت مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اتنی بات ضرور ہے کہ اس علم کا عامل اپنے علمی کمالات سے وہ وہ امور خارق عادات لوگوں کو دکھاتا ہے، کہ جن کو عقل، وہم بھی سمجھنے سے قاصر ہے مال و جاہ اس تمام ارواح عالم کی تغیر ہوتی ہے۔ جن مریض کو طبیب سال بھر میں صحتیاب نہیں کر سکتے۔ اس جادو کا جانے والا سے منشوں میں درست کر سکتا ہے۔ وغیرہ ذالک۔

اس قسم کا سحر بلاشبہ کفر ہے اس لئے کہ اس سحر کی پندرہ شرطیں ہیں۔ جن میں سے چند ایک شرائط یہ ہیں۔

ارواح کو دلوں کے حالات پر مطلع ہونے کا یقین ارواح کے متعلق ذرا بھی بد عقیدگی پیدا ہو گئی تو سارا کام بنا بنا یا بگزگیا، روحانیات کو سب کی تغیر میں سب سے پہلا عمل قمر کا ہے، قمر کی دعوت میں یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔

ایها الْمُلْكُ الْكَرِيمُ وَالسَّيِّدُ الرَّحِيمُ مَرْسُلُ الرَّحْمَةِ مَنْزُلُ النِّعَمَةِ.

عطارد کی دعوت میں یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔

كُل حاصل لِي مِنْ خَيْرٍ فَهُوَ مِنْكَ وَكُلُّ مَا يَنْدُفعُ مِنْ الْمُشَرِّمَتِي فَهُوَ مِنْكَ.

اسی طرح یہ الفاظ بھی کہتے جاتے ہیں۔

ایها السَّيِّدُ الْفَاضِلُ النَّاطِقُ الْعَالَمُ عَقْبَ ادْنَتِ الْاَمُورِ الْمَطْلَعِ عَلَى السَّرِيرِ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ.

کو اکب کی دعوت میں یہ الفاظ و اقوال صاف طور پر اسلام اور توحید کے منافی ہیں۔

لَهْدَانِي أَوْ يُونَانِي سَحْرٌ مِّنْ فَرْقٍ:

یہاں یہ بات دیگر سے خالی نہیں کہ اہل بابل ہاروت ماروت کی تعلیم کے مطابق

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات 35 سحر کے اثرات کا بیان

محبوب ہوتی ہے، یہ تکلیف اس وقت تک رفع نہیں ہو سکتی جب تک کانے کو نکال نہ دیا جائے۔

بادشاہ دہموش نے بتایا کہ سحر زدہ مریض حسب ذیل علامات سے پہچانا جاتا ہے۔

۱۔ سحر کی ایک قسم یہ ہے کہ میاں بیوی محبت پیار سے رہتے ہوں، یا کیک مرد اپنی بیوی سے برگشته ہو جائے، اس مقصد کے لئے سحر کا عمل مرد کیلئے کیا جاتا ہے۔

۲۔ عورت اپنے شوہر کو بغرض کی نظر سے دیکھنے لگتی ہے، سحر سے پہلے اپنے شوہر کی عاشق زار ہوتی ہے، اس صورت میں سحر کا عمل عورت کیلئے کیا جاتا ہے۔ یا عورت اپنے شوہر کو سور، کتنے سے زیادہ حقیر اور مبغوض سمجھنے لگتی ہے اور اس کی نظر جس وقت بھی شوہر پر پڑتی ہے، وہ اس کو خنزیر یا کتا نظر آتا ہے۔

۳۔ عورت کو بیاہ شادی سے سحر کے ذریعہ روک دیا جاتا ہے، لوگ اس کے پاس نکاح کا پیغام لے کرتے ہیں، مگر انکار مایوسی کے عالم میں واپس ہو جاتے ہیں۔

۴۔ سٹواری لڑکیوں کا پیغام آنا ہی بند ہو جاتا ہے کہیں سے رشتہ ہی نہیں آتا۔

۵۔ مرد اپنے گھروالوں، بیوی پتوں سے بغض کرنے لگتا ہے۔

۶۔ ایک قسم کا سحر بکریوں کے لئے کیا جاتا ہے، بکریوں کے بچے مرنے لگتے ہیں دہموش نے کہا کہ سحر کا عمل راستے میں ڈال دیا جاتا ہے، تو جس بکری کی لکھن میں وہ عمل آ جاتا ہے، اس کے بچے مر جاتے ہیں۔

۷۔ ایک خاص کا سحر چوپایوں کے لئے مخصوص ہے اس عمل سے چوپاؤں کے جوڑوں میں ایک خاص قسم کی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے۔

۸۔ ایک قسم کا سحر بکری یا دودھ دینے والے جانوروں کے لئے کیا جاتا ہے یہ عمل براہ راست ان جانوروں کے رحم پر اثر انداز ہوتا ہے، بچہ اور پھر اساقط ہو جاتا ہے۔

۹۔ ایک قسم کا سحر گائے کے لئے کیا جاتا ہے، کہ وہ کسی شخص کو اپنے تھنوں کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی، دہموش کا بیان ہے کہ یہ عمل گدھے، گھوڑے اور پھر پر نہیں چلتا۔

صورت میں، فرعون کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں اس قسم کے سحر سے بنائے ہوئے سانپ چھوڑے تھے۔

اس قسم کا سحر اگرچہ کفر نہیں چونکہ اس کو انہیاً علیہم السلام کے معجزات کے مقابلہ میں لا یا جاتا ہے، حرام اور گناہ کبیرہ ہے، ظاہر ہے کہ اس قسم میں بھی ارواح سے استمداد کی جاتی ہے، اور ارواح خبیثہ یا جنات کے ناموں کی دہائی دی جاتی ہے اور ان کی حد سے زیادہ تعظیم کی جاتی ہے، اس لئے سحر کی یہ قسم بھی حرام ہے۔

### سحر کی پانچویں قسم:

سحر کی ایک قسم نیرنگ ہے، اس قسم میں خاص اشیاء عجیب عجیب نظارے لوگوں کو مشاہدہ کرائے جاتے ہیں۔

سحر کے متذکرہ بالا اقسام مثال یا نمونہ کے طور پر ذکر کئے گئے ہیں، تفصیلات کے لئے ایک دفتر درکار ہے، سحر کی پوری تفصیل چونکہ موضوع بحث سے خارج ہے، اس لئے سحر کی حقیقت پر رoshni ڈالنے کے لئے متذکرہ طور ہی کافی ہیں۔ اب آپ سحر سے پیدا شدہ امراض پر بھی نظر ڈالئے۔

### سحر کے اثرات:

علامہ ابن الحاج علمسانی تحریر فرماتے ہیں، کہ ایک غیر آباد مقام پر کچھ دن ریاضت کرنے کے بعد بادشاہ جنات دہموش سے میری ملاقات ہوئی، دوران ملاقات میں کئی مسائل پر گفتگو ہوئی بادشاہ دہموش سے میں نے علامات سحر کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے مجھ سے خدا اور سلیمان کی قسم لی کہ ان باتوں میں کبھی دروغ بیانی سے کام نہ لوں گا، مجھ سے کہا کہ سحر کی مثال ایسی ہے، جیسے کسی شخص کو جھرہ مسقف میں بند کر کے اس کے آگے دروازہ بند کر دیا جائے، ایسی حالت میں جب تک کہ اس جھرہ کا تالانہ کھول دیا جائے باہر نکلا نا ممکن ہے، اور جب کسی انسان کے ہاتھ پاؤں میں کائنات چھپ جاتا ہے تو اس کو تکلیف

۱۰۔ ایک عمل انسان کی اولاد کو مارنے کے لئے کیا جاتا ہے، سحر کرنے کے بعد اولاد مر جاتی ہے۔

۱۱۔ سحر کی ایک قسم انسان کے شیر خوار اور چھوٹے بچوں کے لئے ہے اس عمل کے موکل شیاطین بچے کو بیکرہ قلزم کے پانی پلا دیتے ہیں، وہ پیتے ہی بیمار ہو جاتے ہیں، یا مر جاتے ہیں۔

۱۲۔ طالع سنبلہ میں منگل یا جمع کے دن عورت کا پتلا بنانا کر راستہ میں ڈال دیا جاتا ہے یہ پتلا جس عورت کے لکھن میں آ جاتا ہے، اس کے پیٹ سے لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں، لڑکا پیدا نہیں ہوتا، بادشاہ دہموش نے بتایا کہ اس عمل کے موکل مغرب اقصیٰ کی ایک بوٹی جودریا کے کنارے پیدا ہوتی ہے عورت کو کھلادیتے ہیں، اس بوٹی کی یہ تاثیر ہے، کہ زراولاد کی پیدائش بند ہو جاتی ہے۔

۱۳۔ مرد کو اپنی بیوی کی طرف سے باندھ دیا جاتا ہے، وہ اپنی بیوی سے ہمبتری پر قدرت سے محروم ہو جاتا ہے۔

۱۴۔ ننی دہمن کے لئے بھی سحر کیا جاتا ہے، دہمن اپنے شوہر کو بڑی اور غصہ کی نظر سے دیکھنے لگتی ہے۔

۱۵۔ ایک قسم کا سحر عورتوں کے لئے مخصوص ہے، کہ وہ اپنے شوہر کی ہمبتری کو برا بخھن لگتی ہے۔

۱۶۔ مرد کے مفاصل (جوڑوں) میں یک یا کیک تکلیف پیدا ہو جاتی ہے۔

۱۷۔ ایک قسم کا سحر ایسا ہے کہ عورت کے پیٹ اور سر میں پانی پیدا ہو جاتی ہے،

۱۸۔ ایک قسم کا سحر ایسا ہے کہ عورت کی شکل و صورت تبدیل ہو جاتی ہے۔

۱۹۔ عورت کے اولاد کی پیدائش بند ہو جاتی ہے، ماہواری آتی رہتی ہے مگر استقرار حمل نہیں ہوتا۔

۲۰۔ ایک قسم کا سحر ایسا ہے جس کے ذریعہ انسان سکھا مال مویشی وغیرہ سب تلف ہو جاتے ہیں۔

۲۱۔ میاں بیوی میں تفریق پیدا ہو جاتی ہے۔

۲۲۔ گھروالوں میں محبت و خلوص نہیں رہتا، ایک دوسرے کو برا اور دشمن بخھن لگتے ہیں۔

۲۳۔ مرد یا عورت کسی ایسی بیماری میں بستلا ہو جاتے ہیں، کہ وہ کسی علاج سے صحت یا ب نہیں ہوتے۔

۲۴۔ ایک قسم کا سحر ایسا ہے جس سے میاں بیوی لوگوں کی نظروں میں حقیر ہو جاتے ہیں۔

۲۵۔ مرد اپنے عہدہ اور مرتبہ سے تنزل پر آ جاتا ہے۔

۲۶۔ مرد کے پاس کوئی مال و دولت نہیں رہتا، خالی ہاتھ ہو جاتا ہے۔

۲۷۔ ایک قسم کا سحر عورتوں کے لیے ایسا ہے، کہ وہ کسی ایک شوہر کے ہاں جنم کرنے نہیں رہتی، طلاق لیتی رہتی ہیں، اور لوگوں سے نکاح کرتی رہتی ہیں۔

۲۸۔ جو عورت صاحب جمال ہوتی ہے، سحر کے ذریعہ اس کا حسن و جمال مسخ ہو جاتا ہے، اور وہ لوگوں کی نظروں سے گرجاتی ہے۔

### سحر و قسم کا ہوتا ہے:

ملک وہموش نے مجھے یہ بھی بتایا کہ سحر و قسم کا ہوتا ہے، ایک قسم تو تکاتب خواتم، طسمات عزائم سے متعلق ہے، دوسری قسم سحر کی وہ ہے کہ اس فن کو جانے والی عورتیں کسی دھاگے وغیرہ پر گر جیں لگا کر سحر کا کلام پڑھتی ہیں، ان دونوں صورتوں میں طسمات یا کلام کے موکل اپنی مقررہ خدمت انجام دیتے ہیں، (شمس ا . ارونو نوز الاسرار)

### جن کے اثرات:

جنات چونکہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، اس لئے نہ اس مخلوق کی صحیح تعداد کا علم ہو سکتا ہے، اور نہ اس قوم کے تفصیلی حالات ہی معلوم ہو سکتے ہیں، احادیث رسول کے

مطالعہ سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے، کہ عبید رسالت میں جنات کی کثیر تعداد اسلام قبول کر کے مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہو گئی تھی، پھر بھی انسانوں کی طرح بیاہ شادی تو والوں تناول سے اس قوم کی تعداد دنیا کے کل انسانوں سے زیادہ نہیں، تو کم بھی نہ ہو گی۔

جس طرح انسانوں میں کوئی کسی مذہب کا پیروکار ہے، اور کوئی کسی کا اسی طرح جنات کے مذاہب بھی انسانوں کی طرح مختلف ہیں کوئی صحیح راستہ پر ہے کوئی غلط راستہ پر، کوئی نیک بخت ہے کوئی بد بخت، کوئی نیک ہے تو کوئی بد معاش۔

دنیا میں نیک انسان جس طرح اپنی جنس کے افراد کو ستانا ساخت گناہ تصویر کرتے ہیں، اُنی طرح نیک جنات بھی انسانوں کی آزار تیس پہنچاتے، ایذا رسانی شریر نفوس کا خلاصہ ہے خواہ وہ انسان ہوں یا جنات، انسان کی ایذا رسانی تے محفوظ رہنے کے لیے حکومت کی ہرف سے انتظامات ہوتے ہیں اور ہر شخص قانون حفاظت خودا ختاری کے تحت اپنی حفاظت کا کچھ نہ کچھ انتظام رکھتا ہے۔ لیکن جنات پوتوں کے ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتے، اور نہ ان کو ایذا پہنچاتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے، اس لئے جنات کے شر سے حفاظت ایک لیٹر حاصل ہے۔

### شریر جنات کی تعداد:

ساتوں قلیم کے باشہ جنات اور مسلمان جنات سے ملاقات کے نتیجہ تین عالم مغربی علمانی کو شریر جنات کی ایذا رسانی کے متعلق جو معلومات حاصل ہوئے تھے، اس مسلم میں انہوں نے اساعیل وزیر شاہ جنات کا قول نقل کیا ہے۔

قال اساعیل انواع من الجن يصرعون النساء و الرجال  
و هم مختلفون اعرف منهم خلقاً كثيراً ولكن اعرقث  
يسبعين رهطاً تقرباً للك و تعيوك وكل اهط منها فيها سبعون  
الف قبيلة وكل قبيلة فيها سبعون الفاً و وقعت ابرة من  
السماء ما وقعت الا على يهم.

اساعیل کہتے ہیں کہ جنات عورتوں اور مردوں کو ستایا کرتے ہیں وہ بہت سے قسم کے ہیں مجھے ان میں بہت سوں کا حال معلوم ہے ایسے جنات کی ۰۰۰۰۰ قومیں ہیں، اور ہر قوم میں ستر ہزار قبیلہ ہیں اور ہر قبیلے میں ۰۰۰ ہزار افراد، اگر آسمان سے سوئی چھینکی جائے تو وہ زمین پر نہ گرے گی ان کے سروں پر رک جائے گی۔  
جنات کے ایک بہت بڑے ذمہ دار افسر کے یہ الفاظ یقیناً اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ جنات میں بھی انسانوں کی طرح نیک لوگوں سے زیادہ بد کار جنات کی تعداد زیادہ ہے، جب ایذا رسان جنوں کی کثرت تعداد کا یہ عالم ہے تو نیک جنات بھی یقیناً بڑی تعداد میں ہوں گے، اس لئے صحیح تعداد معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ انسان کے پاس نہیں ہے، جس سے وہ انسانوں کی طرح جنات کی نفس شماری کر سکے۔

### جنات کے رہنے سہنے کی جگہ اور ان کی قسمیں:

اساعیل وزیر شاہ جنات کا بیان ہے کہ:

فالعفاریت منهم سکنوا العيون الکھوف والشیاطین  
سكنوا الدیار وعمرو القبور یعنی نزلوابقوع قبور الانس فاما  
الطواغیت سکنوا بقرب الدم وبعض الزوابعه سکنوا الریاح  
وبعض کبارا لشیاطین بقرب النار وبعض التواقیف  
العقاریت یعنی المتشکلین بصورة الانثی سکنوا بقرب  
الاشجار العالیة ودخلو فی البساطین وبعض من السياس  
سكنوا الجبال والغرائب العالیة

وکثرة هؤلاء مصر يا لرجال والنساء من بني ادم وفي شیاطین  
العفاریت من يجتمع نساء الانس وبعض هم يحب ان تكون  
الانسية زوجة لهم وبعضهم يفسدون حلقة الانس ويقطلون  
عضو امن اعضاء هم۔ (کنز الاسرار)

محر کے اثرات کا بیان  
عفریت چشموں اور گردنچوں میں رہتے ہیں اور شیاطین شہروں اور مقبروں دونوں جگہ آباد ہیں، اور طواغیت ایسی جگہ جہاں خون پڑا ہو بودو باش رکھتے ہیں، اور بعض تزویعہ ہوا میں رہتے ہیں، اور بعض بڑے بڑے شیطان آگ کے قریب بودو باش رکھتے ہیں، اور بعض تو اقیف عفاریت یعنی وہ جنات جو عورتوں کی شکل میں متخلل ہوتے ہیں بڑے بڑے درختوں کے پاس مقام رکھتے ہیں اور باغات میں بھی اور بعض سیاست پہاڑوں اور ویران مقامات پر بودو باش رکھتے ہیں۔

جنات کی تمام قسموں میں اکثر افراد انسان مرد اور عورت کوستایا کرتے ہیں بعض شیطان عفریت کی توبیہ حالت ہے کہ وہ انسان عورتوں پر شیدا اور فریفہ ہیں اور وہ انسان عورت کو اپنی بیوی بنانا بہت ہی پسند کرتے ہیں بعض شیطان انسان کی پیدائش میں خلل انداز ہوا کرتے ہیں اور اعضاء کی بیت بگاڑ دیتے ہیں۔

اس اعلیٰ کے اس قول سے جہاں جنات کے رہنے کے مقامات کا پتہ چلتا ہے، وہاں ان کی مختلف اقسام اور ان کی مخصوص صفات و افعال پر بھی روشنی پڑتی ہے۔

### جنات انسانوں کو کیونکرتاتے ہیں:

اس اعلیٰ وزیر مذکور نے علامہ مغربی تلمذ ای کو انسانوں کو مختلف طریقوں سے تانے کی تفصیلات بھی بتائی ہیں، ذیل میں اسی تفصیل کا لاب لباب درج ہے۔

۱۔ ایک صورت جن کے اثر یا ستانے کی یہ ہے کہ مرد یا عورت، لڑکا یا لڑکی جن کے زیر اثر ہوتے ہی بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اس کی حالت مرگ کے مریض کی اسی ہو جاتی ہے۔

۲۔ عفریت زوائع عام طور پر انئی دلہنوں کوستایا کرتے ہیں، جو ایک دو دن کی بیاہی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کی حالت مثل حالت مذکور ہو جاتی ہے۔

۳۔ شیطان عفریت عام طور پر میاں بیوی میں کھٹ پر رہتے ہیں۔

۴۔ شیاطین مذکور حسین و حبیل عورتوں کو زیادہ ستایا کرتے ہیں یا ایسی عورتوں پر اس حالت میں زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں جن کے بچے پیدا نہ ہوا ہو۔

۵۔ میمون اسود کی پارٹی کے جنات پر اس حالت میں زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، جب وہ غسل کر کے اچھے کپڑے پہنچتی ہیں، یا خوشبوواگا کر چلتی پھر تیس ہیں۔

۶۔ یا یہی شیطان عفریت حد سے زیادہ حسین عورت کو بد کاری کے لئے مجبور کرتے ہیں۔

۷۔ یہی مذکورہ بالا شیاطین گندمی رنگ کی متوسط قامت عورت کے پیٹ پر پھونک مار دیتے ہیں جس سے بعض اوقات ان کے پیٹ میں تکیف وہ لفخ پیدا ہو جاتا ہے، یا اس عورت کا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، ایسی عورتوں کے جسم کے مختلف حصوں میں بھی کبھی درد ہونے لگتا ہے، کبھی ہاتھوں میں کبھی پیروں میں، کبھی نمر میں، کبھی جسم کے دوسرے حصے میں۔

۸۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، کہ یادل میں اڑنے والا کوئی جن کسی عورت پر اثر انداز ہو کر عورت کی ایذا رسانی کا باعث ہوتا ہے۔

۹۔ پانی کے رہنے والے عفریت بعض اوقات عورت کے سر یا شرمگاہ پر کوئی چیز مار دیتے ہیں، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عورت اول تر ہم بستری کے آمادہ ہنئیں ہوئی، اگر زور جبر کیا گیا تو اس کو سخت تکیف محروس ہوتی ہے۔

۱۰۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھوں، پیروں، ہزارین پر مارنے کیلئے یا اپنا ہڈ سونے کی تفصیلات بھی بتائی ہیں، ذیل میں اسی تفصیل کا لاب لباب درج ہے۔

۱۱۔ ایک صورت جن کے اثر یا ستانے کی یہ ہے کہ مرد یا عورت، لڑکا یا لڑکی جن کے زیر اثر ہوتے ہی بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اس کی حالت مرگ کے مریض کی اسی ہو جاتی ہے۔

۱۲۔ عفریت زوائع عام طور پر انئی دلہنوں کوستایا کرتے ہیں، جو ایک دو دن کی بیاہی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کی حالت مثل حالت مذکور ہو جاتی ہے۔

(مانو: شمس الدار و نور)

باب نمبر ۱

جادو سے متاثرہ

مریضوں کی تشخیص کرنے کے

محبوب ترین اعمال

## پیغام شفاء

جسمانی بیماریوں کا روحانی علاج  
ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مندرجہ ذیل جسمانی  
بیماریوں سے صرف ایک ہی بار دم کروانے سے فوراً مکمل  
شرطیہ نجات حاصل کریں۔

بلڈ پریشر

کالا یرقان

شوگر

بواسیر

دمہ

ہر قسم کی پتھری

انشاء اللہ تعالیٰ صرف پہلے ہی ہفتے میں رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا  
ہمارے علاج و طریقہ کار کا پہلے تجربہ کریں اور بعد میں دنیا کو بتائیں۔

ہمارے ہاں مندرجہ بالا جسمانی بیماریوں سے نجات حاصل کرنے  
کے عملیات و تعویذات بھی سکھائے جاتے ہیں، فوری اثر کرنے  
والے عملیات و تعویذات سیکھنے کے خواہش مند حضرات رابطہ کریں  
ہدیہ یہ **4000** ہزار روپے

روحانی و جسمانی معالج حکیم حافظ عبدالرؤف یا ہر عملیات  
و تعویذات

مرکز علمی و روحانی دارالشفاء توحید پارک نزدِ گول مسجد امامیہ کالونی شاہدرہ لاہور

0300-4347214-0345-4190427

عملیات و تعویذات سکھنے کے خواہش مند حضرات متوجہ ہوں  
ہم آپ کو سچا ماہر عملیات و تعویذات بناسکتے ہیں

پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں عملیات و تعویذات کے ماہر ہونے کے دعویٰ دار ایک بڑی تعداد میں سامنے آ رہے ہیں لیکن وہ جو حقیقت کے مตلاشی ہیں ان کو دعویٰ نہیں علم چاہیے ہوتا ہے۔ جو درود کی ٹھوکریں کھانے کے باوجود نہیں ملتا۔ اگر آپ بھی بڑے بڑے دعویٰ داروں کے شرطیہ کمالات آزمائچے ہیں اور تلاش حق کی راہ میں مارے مارے پھر رہے ہیں تو پھر ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ مرکز طبی و روحانی دارالشفاء میں تشریف لا سکیں اور دعویٰ نہیں حقیقت جانیے۔ جس میں ہم آپ کو سکھائیں گے۔

\* ساعات، حلیث، تدیس، قرآن، تربیع، مقابلہ، معلوم کرنے کا آسان طریقہ کاری یعنی یہ وقت کب شروع ہوگا اور کس وقت ختم ہوگا۔

\* عشق و محبت و حاضری مطلوب کے مجرب ترین اعمال

\* عداوت و بغضہ کے مجرب ترین اعمال

\* جادو و جنات سے فوراً نجات حاصل کرنے کے مجرب ترین اعمال

\* ان عملیات و تعویذات میں چلہ کشی کی ضرورت نہیں، ہجض وقت اور ترکیب سے ہی عملیات و تعویذات میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔

روحانی و حکیم حافظ عبد الرؤوف  
جسمانی پر معالج یا ہر عملیات و تعویذات

مرکز طبی و روحانی دارالشفاء توحید پارک نزدِ گول مسجد امامیہ کالونی شاہدرہ لاہور

0300-4347214-0345-4190427

## اعمال روحانی تشخیص

روحانی تشخیص کرتے وقت عموماً صرف تین وجوہات ہی دیکھی جاتی ہیں: (۱) جادو، (۲) جنات (۳) جسمانی مرض

جب کہ ایک ماہر انہ روحانی تشخیص اس سے کہیں آگے ہوتی ہے۔ افسوس کہ اس بارے میں نہ ہی کتابیں موجود ہیں نہ ہی اس فن کے موجودہ اساتذہ اس طرف توجہ دیتے ہیں۔ اور نہ ہی اس فن کے سکھنے والے طالب علم اس طرف توجہ دیتے ہیں۔ یہ بات بھی نہیں کہ ایسے طریقے موجود ہیں۔ بس توجہ کی ضرورت ہے۔ اور بار بار کر کے مہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔

کسی سائل کی تشخیص کرتے وقت ایک ماہر انہ تشخیص میں درج ذیل امور کو دیکھا جاتا ہے۔

### نوعیت مرض:

(۱) روحانی (۲) جسمانی (۳) نفیاً

مریض کی تمام علامات لے کر عامل تشخیص کرتا ہے کہ کوئی علامات کا درج بالاتین قسموں میں سے کس سے تعلق ہے۔ پھر وہ روحانی علامات کی تفصیل دیکھتا ہے جو کہ درج ذیل ہے:

### روحانی امراض:

- (۱) نظر بد (۲) جنات و آسیب (۳) شیاطین (۴) جادو (۵) حسد (۶) رجعت
- (۷) نحوس (۸) شامت اعمال

دہاں شروع ہی سے سخت علاج کرنا چاہیے۔ کیونکہ ان پر کسی کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ شیاطین ہی کی آگے سخت قسم میں ”خوبیت“ ہوتا ہے۔ جس کا علاج کرنے کافی مشکل ہوتا ہے۔ اور دوسرا قسم میں ”ہمزاد“ بھی ہوتا ہے اس کا علاج کرنا خوبیت کے مقابلے میں آسان ہے۔ نیز یہ بات بھی واضح ہونی چاہئے کہ صرف اثرات ہیں یا شیاطین بھی موجود ہیں۔

### (۲) جادو:

جادو کے بارے میں پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ جادو کس طرف سے ہو رہا ہے۔ یعنی انسانی ہے، جناتی ہے، یا پھر پکڑ ہے۔ انسانی جادو کی صورت میں عامل دشمن ہے یا پھر کوئی دشمن عامل سے کروارہا ہے۔ عامل دشمن کی صورت میں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے جب کہ اگر کوئی انسان کسی عامل سے کروارہا ہے تو کاث ہونے پر جادو گر خود سے بار بار عمل نہیں کرے گا۔

جناتی جادو ایک خطرناک قسم ہے۔ اور اس کا علاج کرتے وقت مریض پر بہت توجہ اور حصار کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں یہ بات بھی مد نظر رکھنی ضروری ہے کہ جناتی جادو میں چونکہ جنات عاملوں سے واسطہ پڑتا ہے، وہ علاج کرنے والے عامل کے لئے بھی بہت نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ عامل کو ایسے کیس کا علاج کرتے وقت اپنے اہل و عیال کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ورنہ کوئی نہ کوئی نقصان، چاہے کسی درجہ میں ہو، ہو جاتا ہے۔ علاوہ ان عاملیں کے جن کے حصارات بہت ہی مضبوط ہیں اور جنات کی ایک بڑی فوج ان کی معاون ہے۔

پکڑ سے مراد یہ ہے کہ اور کے جادو کی پکڑ میں آگئے۔ کسی جگہ کوئی جادو کا وار ہوا تھا، وہاں سے گزر ہوا اور خود اس جادو میں گرفتار ہو گئے۔ یا کسی نے اپنا جادو اتر واکر کوئی سری یاداں یا گوشت چورا ہے یا سڑک پر رکھا تھا اور مریض اس کے اوپر سے گزر ا تو وہ جادو اس مریض پر چڑھ گیا۔

(۱) نظر بد:

سب سے پہلے اس کی تشخیص کرنا چاہیے۔ کیونکہ نظر بد ہونے کی صورت میں نہ ہی رو جانی علاج سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے نہ جسمانی علاج سے۔ پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ نظر انسانی ہے یا جناتی۔ جس طرح انسانوں کی نظر لگتی ہے، اسی طرح جنات کی بھی لگتی ہے۔ اور جنات کی لگنی ہوئی نظر دیرے سے جاتی ہے۔ اگر نظر بد کا اثر آئے تو سب سے پہلے اس کا علاج کیا جائے۔

### (۲) جنات و آسیب:

دوسری وجہ جنات اور آسیب کی ہے۔ جنات سے مراد تو جن ہیں۔ آسیب میں جنات کی دیگر اقسام آجاتی ہے۔ مثلاً دیو، پری، بھوت، چڑیل وغیرہ۔ عموماً اسفلیات اور کالے علم والوں کے پاس آسیب ہی کی اقسام میں سے مخلوق ہوتی ہے۔ جنات بھی ہوتے ہیں مگر آسیب زیادہ ہوتے ہیں۔ یہاں ایک ماہر یہ بھی دیکھتا ہے کہ جن یا آسیب کا مذہب کیا ہے؟ تاکہ وہ اسی کے مطابق اس کو قسم دے اور علاج کر سکے۔ جس طرح ایک مسلمان اور حافظ جن پر قرآن پڑھنے کا مٹوماً فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ بھی ساتھ پڑھتا ہے۔ آپ ایک بار پڑھیں گے، وہ دس بار پڑھ لے گا۔ اسی طرح اگر کثرہ بند و قسم کے جنات ہیں اور مریض گائے کا گوشت کھائے تو وہ بہت نقصان دیتے ہیں کیونکہ وہ گائے کو بھگوان مانتے ہیں۔

نیز یہ بات بھی واضح ہونی چاہئے کہ صرف اثرات ہیں یا مخلوق بھی موجود ہے۔ اثرات کا علاج اور ہے اور مخلوق مسلط ہونے پر اور۔

### (۳) شیاطین:

ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ان کا خدا، پیر، مرشد بس ابلیس ہی ہے۔ یہ انسان کو گمراہی کی طرف ہتی ڈلتے ہیں۔ اس کا نقصان ہی کرتے ہیں۔ ان سے کسی اچھے کی امید کرنا بے وقوفی ہے۔ ان سے سچائی کی امید کرنا عبشت ہے۔ جہاں شیاطین کا معاملہ ہو،

درج بالاتینیوں قسموں کا علاج ایک بھی ہو سکتا ہے، اور فرق بھی۔ یہ مریض کی کیفیت پر منحصر ہے۔ بس پکڑوالے جادو کا علاج سب سے آسان ہوتا ہے، پھر انسانی جادو کا اور سب سے مشکل جناتی جادو کا۔

ڈاکٹروں سے علاج کروائے۔ بڑی بھائی پونچیس کی ادویات استعمال کرے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس مریض کا معدہ شدید خراب ہو جائے تو ایسی حالت میں اسے سونے کے کشے بھی بے کار ہیں۔ ہومیوپیٹھی میں ایک دو نکس و امیکا کے نام سے ہے یہ دوا ایسے مریضوں کو دی جاتی ہے جن پر انگریزی ادویات کے برے اثرات ہوں۔ مریض چاہے کسی بھی عرب عاملین کے ہاں باقاعدہ الگ قسم ہے۔ عربی میں اس کے علاج کے لئے اعمال بھی دیئے گئے ہیں اور کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ حسد را صل نظر بد کی سخت ترین قسم ہے۔ نظر بد میں ضروری نہیں کہ تباہی یا بر بادی کی نیت ہو۔ انسان کو اپنی بھی نظر لگ سکتی ہے، پچ کو ماں باپ کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ مگر حسد میں ہر صورت نقصان ہی کا راد ہوتا ہے۔ اور اس پر ہمارے ہاں نہ کوئی تحقیق ہے، نہ ہی کوئی کتابیں، نہ ہی عاملین کو اس کا پتہ ہے۔


#### (۷) نخوست:

نجوم سے متعلق ہے کئی حضرات کا اس میں اختلاف ہے۔

#### (۸) شامتِ اعمال:

حقیقت میں تمام تکالیف ہی شامتِ اعمال کا نتیجہ ہیں۔ اس کی تشخیص کرنا اولیاء کا کام ہے۔

درج بالاتمام وجوہات کی تشخیص کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں۔ مگر ہر کسی کو سکھایا بھی نہیں جاتا کیونکہ ہر کوئی اس کا اہل نہیں ہوتا۔۔۔



مریض پر دم کر کے تشخیص کرنے کے سلسلے میں درج ذیل ہدایات کی پابندی کریں:  
\* دم کرتے وقت مریض پاک، کپڑے بھی پاک ہوں، اگر باوضو ہو تو اچھا ہے، کوئی علاج کی رجعت:

اس سے مراد یہ ہے کہ مریض نے کئی عاملین سے علاج کروایا۔ اب زیادہ علاج کروانے کی وجہ سے اس مریض پر بندشیں اور بیماریاں لگ گئیں۔ جیسے ایک مریض کئی

کرتے وقت حاضری بھی ہو جاتی ہے۔ اس لئے اپنا حصار کر کے دم کریں۔  
یہ تشخیص صرف اور صرف اس مریض پر کارگر ہوتی ہے جس پر سحر الامراض یعنی یا  
کرنے والا جادو کیا گیا ہو یا پھر جسمانی اثرات شدید ہوں (چاہے جنات کے ہوں  
یا جادو کے)۔

## عمل ۱:

مریض کو اپنے سامنے بٹھا کر اس پر مندرجہ ذیل قرآنی دم کریں:

درود شریف      ایک بار

سورة الفاتحہ      سات بار (بوصل میم بسم اللہ)

درود شریف      ایک بار

\* اگر مریض کے بدن پر بوجھ محسوس ہو یا مریض جھوم اٹھے تو آسیب کا اثر ہے۔

\* اگر مریض کا جسم ہلاک محسوس ہو تو اثر جادو کا ہے۔

\* اگر ان دونوں علامتوں میں سے کوئی ظاہرنہ ہو تو جسمانی مرض ہے۔

## عمل ۲:

سورة الفاتحہ      بمعہ تسمیہ سات مرتبہ

آیت الکرسی      سات مرتبہ

سورة الکافرون      بمعہ تسمیہ سات مرتبہ

سورة الاخلاص      بمعہ تسمیہ سات مرتبہ

سورة الغلق      بمعہ تسمیہ سات مرتبہ

سورة الناس      بمعہ تسمیہ سات مرتبہ

دم کر کے مریض سے اس کے مرض کی کیفیت پوچھیں۔


\* اگر مرض بڑھ جائے تو آسیب ہے۔

باب ۱:  
جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات 51

\* اگر مرض کم ہو جائے تو جادو ہے۔

## نوٹ:

درج بالا عملیات کی باقاعدہ زکوٰۃ ادا کروائی جاتی ہے تاکہ عامل حضرات جب تشخیص  
کریں تو اس کی تشخیص صحیح ہو اور مخالفین (جنات) دورانِ تشخیص غالب آ کر تشخیص کو خراب نہ  
کر سکیں۔ بغیر زکوٰۃ نکالے ان اعمال کو کرنا مناسب نہیں۔



کپڑا ناپ کر تشخیص کرنے کے بارے میں مندرجہ ذیل بداعیات پر عمل کریں:

مریض کے پہنے ہوئے کپڑے کی تشخیص کرنا:

\* مریض کے جسم کے اوپر والے حصہ کا کپڑا لیں یعنی مرد کا بنیان یا کرتہ وغیرہ اور عورت  
کی شیزی قمیض۔

\* مریض کو بداعیات کریں کہ ایک رات کا پہننا ہوا کپڑا لے کر اگلے دن آپ کے پاس  
آئے۔

\* مریض کپڑا اتار کر رکھنے نہیں بلکہ ایک لفافے میں ڈال کر بند کر دے، اور ایک بار  
آیت الکرسی پڑھ کر لفافے پر دم کر دے۔

\* کپڑے کی پیمائش مریض سے یا اس کے حوالے سے جو آدمی آیا ہے، اس سے  
کروائیں۔ کپڑے کی پیمائش خود نہ کریں تاکہ بدگمانی پیدا نہ ہو کہ عامل نے باشت  
جان بوجھ کر چھوٹی بڑی کی ہے۔ جہاں مریض آپ پر اعتماد کرے وہاں تشخیص خود  
کریں۔

\* پیمائش کے بعد نشان لگائیں۔ پھر دم کریں۔

\* اگر مریض دور ہو اور قمیض وغیرہ لانا ممکن نہ ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک فٹ لمبی

اور دو انج چوزی سفید کپڑے کی پٹی لے کر رات سونے سے پہلے مریض اپنے دائیں بازو پر باندھے۔ پھر اگلے دن صبح کو اتار کر عامل کوارسال کر دے۔

### جلہ کی کپڑے کے ذریعے تشخیص کرنا:

جلہ کی تشخیص کا طریقہ یہ ہے کہ جس کمرے یا گھر کی تشخیص کرنا ہو تو ایک کپڑا لے کر اس کے چاروں کونوں میں رگڑیں اور کمرے کے درمیان میں رکھ دیں۔ ساری رات کپڑے رکھا رہے گا۔ صبح کو پھر چاروں کونوں میں کپڑا رگڑ کر عامل سے اس کی تشخیص کروائیں۔ غسل خانہ اور باتھروم کی تشخیص کرنے کے لئے بھی یہی طریقہ ہوگا۔ بس کپڑا رات کو باتھروم میں کسی اوپنی جگہ پر رکھیں جو پاک ہو۔

### پہنے ہوئے کپڑے کے ذریعے تشخیص کرنا

مریض کا ایک رات کا پہننا ہوا اور پری حصہ (بنیان، قمیض، یا شیز) کا کپڑا لیں اور اس پر بالشت سے نشان لگائیں۔ پھر اس پر سات بار چھل کاف پڑھ کردم کریں اور پھر ناپیں۔ اگر کپڑا بڑھ جائے تو اثر جنات کا ہے۔ کم ہو جائے تو جادو کا ہے۔ کچھ تبدیلی نہ ہو تو مرض جسمانی ہے۔ جو نتیجہ نکلے اس کو نوٹ کر لیں پھر دوبارہ کپڑے پردم کریں۔ مذکورہ اصول پر دوبارہ نتیجہ دیکھ لیں۔ اسی کے مطابق علاج کریں۔

### کھلا کر تشخیص کرنا

مرض کے متعلق معلوم کرنا مقصود ہو کہ روحانی ہے یا جسمانی تو نیم کے چار عدد پتے لے کر ہر ایک پتے پر یہ آیت ۳۔ ۳ بار پڑھ کردم کریں اور مریض کو کھلادیں۔ آیت یہ ہے۔ **لَا يُجْلِيهَا لَوْقَتِهَا إِلَّا هُوَ**۔

\* اگر ذائقہ کڑا ہے تو مرض بدینی ہے

\* اگر ذائقہ تمکین ہے تو علامت سحر یا جادو ہے۔  
\* اگر ذائقہ میٹھا ہے تو اثر آسیب ہے۔

### الله۔ التَّعَصُّ۔ التَّرَا

تین بار چینی پردم کر کے مریض کو کھائیں۔  
\* اگر کڑوا ہو تو سحر ہے۔  
\* اگر زیادہ میٹھا ہو جائے تو سایہ ہے۔

### نقش کے ذریعے تشخیص کرنا

آسیب و سحر و مرض کو معلوم کرنے کے لئے باوضو یہ نقش لکھئے۔ اور یہ اسماء سات مرتبہ پڑھ کر تعویذ پردم کر کے مریض کے ہاتھ پر رکھ دے۔ اور یہی اسماء سات مرتبہ پڑھ کر مریض پر پھونک دے۔ اگر سحر (جادو) ہو گا تو سرا اور کان (گوش) بھاری ہوں گے۔ اگر آسیب ہے تو مریض کا ہاتھ کا پنے گا۔ اگر بدینی مرض ہے تو کچھ اثر نہ ہو گا اور مریض حسب حال رہے گا۔ نقش یہ ہے:

۷۸۶

۳۲۲	۳۲۷	۳۳۰	۳۱۷
۳۲۹	۳۱۸	۳۲۳	۳۲۸
۳۱۹	۳۳۲	۳۲۵	۳۲۲
۳۲۶	۳۲۱	۳۲۰	۳۳۱

مَلْعُخْفَا مَلْعُخْفَا مَلْعُخْتَهَا لَنَا تِنَا أَنْمَ عَلَقْ بِعَقْ  
سُلَيْمَانْ بْنَ دَاؤِدَ عَلَيْهِ السَّلَام حاضراً بِنَدْبَنْد شوند.

### باز و ناپ کرتشیص کرنا

مریض کے دابنے بازو پر مریض کی بائیں بالشت رکھا کرنٹان لگائیں۔ پھر سات مرتبہ چہل کاف پڑھ کر دم کریں۔ اس طرح تین بار دم کریں۔  
اگر نٹان بڑھ جائے تو جنات کا اثر ہے۔  
اگر کم ہو جائے تو جادو کا اثر ہے۔

اگر برابر ہے تو مرض جسمانی ہے۔

عامل اپنی بالشت بھی مریض کے بازو پر رکھ کر تشیص کر سکتا ہے۔

### دھاگہ ناپ کرتشیص کرنا

مریض کے پاؤں کے ناخن سے سر کے بالوں تک ایک ڈورا (دھاگہ) ناپیں۔  
پھر دھاگے پر سات مرتبہ سورۃ المزمل (پ ۲۹) اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف  
پڑھ کر دم کریں اور دوبارہ اس ڈورے کو ناپیں۔  
اگر کم ہو جائے تو سحر کا اثر ہے۔  
اگر بڑھ جائے تو جنات کا اثر ہے۔  
اگر دھاگا قدم کے برابر ہے تو مرض جسمانی ہے۔

### وارکر جلا کرتشیص کرنا

یہ عمل حضرت شیخ محمد محدث تھانوی نوراللہ مرقدہ کا ہے حضرت رحمہ اللہ حاجی امداد اللہ

مہاجر بکی نوراللہ مرقدہ کے ہم عصر تھے۔

ایک کورہ سکورہ لے کر اس پر اس نقش کو لکھتے اور سات مرتبہ مریض پر سے اتارتے۔

پھر آگ میں ڈالے اور آگ کو خوب روشن کرے۔

\* اگر حروف سفید ہو جائیں تو مریض پر سحر ہے۔

\* اگر سرخ ہو جائے تو چذیل کا اثر ہے۔

\* اگر حروف غائب ہو جائیں تو آسیب پری ہے۔

\* اگر حروف سیاہ رہیں تو مرض بدندی ہے۔

\* نقش معظم یہ ہے۔

۳۳۱۱۲۴ ع۹۵ ح۱۸۳۱۱

اس نقش کو لکھ کر مریض پر سے وار کر آگ میں ڈال دے۔ نقش یہ ہے۔

للوط عوط

عوط للوط

\* اگر حروف کارنگ سفید ہو تو سحر ہے۔

\* اگر حروف غائب ہوں تو زبردست جن کا اثر ہے۔

\* اگر حروف سرخ ہوں تو آسیب ہے۔

\* اگر حروف سیاہ رہیں تو جسمانی بیماری ہے۔

### پانی پلا کرتشیص کرنا

پانی پر ذیل کے کلمات کو سات مرتبہ پڑھ کر پھونکئے اور جس مریض کی تشیص کرنی ہو اسے پلائے۔ سحر زدہ ہونے کی صورت میں وہ پانی سخت قسم کا کڑوا ہو جائے گا۔ جس کے پیمنے سے سحر زدہ مریض انکار کر دے گا۔ جبکہ یہی پانی عام لوگوں کے لئے کسی قسم کی

## تَشْخِيصُ كَارِبَةِ الْجِنِّيْزِ عَمَلٍ

یہ جانے کے لیے کہ مرض کا سبب جسمانی ہے یا آسیبی و سفلی؟ تو مریض کے دونوں ہاتھوں میں سرخ رنگ کا کوئی سامناب کپڑا دے دیں اور ذیل کے طسماتی عمل کو درود پاک کے ساتھ مسلسل تلاوت کر کے مریض پردم کریں۔ چند ہی ساعتوں کے بعد مریض کے جسم پر ایک لرزہ ساطاری ہو جائے گا۔ اگر مریض کے مرض کا سبب آسیب ہے تو مریض کے کپڑے سے خوفناک قسم کے گزیہ و بکاء کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائیں گی اور آسیب غامل کے سامنے آموجود ہوگا۔ جس سے مناسب شرائط طے کر کے اسے آزاد کر دیا جاتا ہے۔

عمل کے دوران اگر مریض کے کپڑے سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگیں تو مرض کا سبب سفلی عملیات کے اثرات میں جو آگ کے نمودار ہونے کے ساتھ ہی مریض سے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔

اگر گزیہ و بکاء یا پھر خوفناک آگ کے شعلے بلند نہ ہوں بلکہ صرف مریض کا جسم ہی لرزہ میں رہے تو مرض کا سبب جسمانی ہے جس کی تشخیص کر کے مناسب علاج معالج تجویز کیا جاسکتا ہے۔ عمل یہ ہے۔

تشخیص کے اس عمل کے عامل کیلئے طہارت قلب کا پابند ہونا ضروری ہے۔ پختہ عزم کے ساتھ عمل کی نیت سے سب سے پہلے سات یوم تک ترک حیوانات کرے اور عروج ماہ میں اتوار کے دن غروب آفتاب کے بعد کسی تہما مقام پر ذیل کے عمل کو سات سو مرتبہ روزانہ تلاوت کرے۔ عمل کی کل مدت سات یوم ہے۔ عمل کی عبارت یہ ہے۔

عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا صَاحِبَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ يَا دَافِعَ السِّحْرِ وَالْغَنِينَ  
يَا بُرْهَانَ الْكَبِيدِ وَالسِّتَّارِ يَا سَائِرَ الْحُكْمِ الْمُعَايَنَةَ أَخْبِرُنِي

بُو اور ذائقہ کے بغیر عام پانی کی طرح ہوگا۔ کلمات عمل یوں ہیں۔

نَهْوًا تَهْوَا بَهْوَا قَهْوَا حَيَا جَرْهُو تَيَا حَرْ بِالسِّحْرِ وَالْوَسْوَاسِ  
مَهَاظُوْثُ قَهَاظُوْثُ قَرْ هَرْ تَرْوَثَا آيَا جَنْوَدَا لَجِنْ وَالشَّيَاطِينِ  
هَرِيرَا قَرِيرَا سَرِيرَا.

## تَشْخِيصُ امْرَضٍ كَعَجِيبٍ وَغَرِيبٍ عَمَلٍ

ذیل کا عمل مجھے ایک بزرگ صورت ویرت درویش سے عطا ہوا تھا جسے میں نے آزمایا اور تجربہ کے بعد صحیح پایا ہے۔ اس عمل کی برکت سے مرض کے جسمانی یا روحانی ہونے کی نہایت آسان طریقے سے تشخیص کی جاسکتی ہے۔

سات عدد تار نیلے یا سرخ سوت کے بینجا کر کے مریض کے سر کے بالوں سے پاؤں کے انگوٹھے تک بالکل صحیح کر کے ناپیں اور اس دھاگہ پر سات مرتبہ یہ عزیمت پڑھیں اور دوبارہ ناپیں۔ مرض کے روحاں ہونے کی صورت میں یہ دھاگہ بحکم خدا ایک باشت تک بڑھ جائے گا۔ اس زائد حصے کو کاٹ دیں اور پھر عمل کرنے کے بعد ناپیں تو بھی یہ دھاگہ بڑھا ہوا ہوگا۔ اس عمل کو آپ جتنی بار دھاگہ میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ عجیب عمل ہے عزیمت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَزَّمْتُ عَلَيْكُمْ يَا مَغْشَرَ الْجِنِّ  
وَالْإِنْسِ وَالْأَزْوَاجِ وَالْوَسْوَاسِ الْغَنَّاَسِ مِنْ كُنُوزِ الْمَلِكِ بَحْتَ  
مَيْمُونَ زَنجِي وَبَحْتَ مَيْمُونَ حَبْشَى أَخْرُجُ الْجِنِّ وَالْجِنَّى وَأَخْرُجُ  
مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يَا قَوْقَلَ قَوْقَلَنَ وَيَا هَرْقَلَنَ هَرْقَلَنَ يَا عَجُوزَ أَقْرَبِ  
الصَّنْيَانَ خُذْ هَذِهِ بَحْتَ تُورَّاَةِ مُوسَى وَبَحْتَ إِنْجِيلِ عِيسَى  
وَبَحْتَ زَبُورِ دَاؤَدَ وَبَحْتَ فُرْقَانَ حَضْرَةِ مُحَمَّدِ ﷺ.

مَجْصَلَمُشْ مَلْكَعَجْ مَضْطَبْلَجْ مَضْظَهْلِيْصَعْ مَغْلَفْصَلِصْ  
مَغْلَصِطْ سَطْلُوْا آتِيْهُوْا هَيَالْ الْعَجَلَ يَكْلَهُوْا يَنِيْقَا الْخَيْرَ هَيَالْ  
الْعَجَلَ الْوَحَا السَّاعَةَ الْلَّعْنَةَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِتَا يَكَادُ الْنَّظَرِ  
وَالْعَيْنِ الْعَامِلِ.

## سحر و جادو کی معجزہ نما تشخیص اور علاج

جس شخص یا مریض کو اس بات کا شک ہو کہ اس پر سحر و جادو کا اثر ہے تو تشخیص کے لئے عامل اس شخص کو اپنے سامنے بٹھائے اور ذیل کے اسماء کو سات بار تلاوت کر کے اس کے منه پر پھونکئے اور سات بار تلاوت کر کے اس کے دونوں کانوں، ناک کے نقطوں، دونوں آنکھوں اور اسی طرح سات بار اس کے سینہ پر یعنی مقام دل پر پھونکئیں۔ اور سات بار ہی پانی پر دم کر کے پلاعیں۔ سحر جادو کا اثر ہونے کی صورت میں پانی کے طلاق سے نیچے اترتے ہی مریض غش کھا جائے گا اور زمین پر الوٹ پوٹ ہونے لگے۔ عامل مریض کی اس حالت پر کوئی فکر و اندیشہ دل میں نہ لائے بلکہ مریض کے جسم پر اسماے عمل پڑھ کر پھونکتا جائے۔ کچھ ہی دیر بعد اچانک غشی کا دورہ جاتا رہے گا اور مریض کا دل متلانے لگے گا اور اس کے ساتھ ہی مریض کو قے آنا شروع ہو جائے گی۔ قے کے پانی کو کسی برتن میں جمع کر لیں اس پانی کو غور سے دیکھنے پر ہر شخص ورطہ حیرت میں گم ہو جائے گا کیونکہ قے کے پانی میں خون کے مخدوم لکڑے جلی ہوئی را کھکے ذرات، بو سیدہ اور پھٹے پرانے کاغذات کی صورت میں تعویذات اور غلیظ و بمکروہ قسم کا مواد نظر آئے گا۔ قے کا پانی گرم اور جھاگ دار ہو گا۔ جس میں آگ اور دھوکیں کا دیز سا غبار نمایاں طور پر دیکھنے میں آئے گا۔ محور اس وقت تک قے کرتا رہے گا جب تک کہ سحر جادو کا تمام اثر مکمل طور پر باطل ہو کر اس کے جسم سے خارج نہ ہو جائے۔ اس عمل کے نتیجے میں مریض خود بخود ٹھیک

بَابٌ  
يَا نُورُ السَّلَوَتِ وَالْأَرْضِ يَا مَالِكَ الْمُلْكِ وَالْمَلْكُوتِ هَلْجَمَتْ  
ظَرْفَبَاشِ عَلَطِيشِ يَا كَافِرَ الدَّنُوبِ وَالسَّمَاتِ يَا أَفَى الدَّهْرِ  
وَالنَّشَاطِ جَلْمَدْهُوبِ تَرْفُوْطُوبِ هَلْ عَمُوشِ يَا دَافَعَ الظَّلَّ  
وَالْعَزُورِ حَرَقَتْ أَوْ يَابِكَتْ بِمَا سُلَّطَتْ عَلَى الْعَبْدِ يَا زَارَ بِيَشِ بِعَزَّةِ  
وَالْغَيْثِ ضَبْحَا يَا جَيْعَ الْجَنَانِ وَالشَّرُورِ.

## نظر بد معلوم کرنے کا محیر العقول طریقہ

یہ بات اکثر دیکھنے میں آئی ہے کہ بعض اوقات انسان اچانک کسی ایسے مرض کا شکر ہو جاتا ہے جس کی نہ تو تشخیص ہی ممکن ہوتی ہے اور نہ ہی اس مرض کا ازالہ ممکن ہوتا ہے۔ روحمانیات سے دلچسپی رکھنے والے احباب کے نزدیک ایسے مرض کا سبب نہ تو جسمانی ہوتا ہے اور نہ ہی آسیں وسغلی بلکہ ایسا مریض نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے۔ جس کا جلد اور صحیح حلائق نہ ہونے کے باعث مرض علاج معا الجہ کے باوجود شدت اختیار کرتا جاتا ہے۔ اس مرض کا شکار ہر شخص ہو سکتا ہے، خصوصاً بچے اور عورتیں اس مرض کا اثر فوراً اقبال کر لیتی ہیں۔ نظر بد کا اثر معلوم کرنے کا ایک سو فیصد کامیاب طریقہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ جسے آزمائ کر بعیان بیانات خداوندی کا نظارہ کریں۔

ایک عدد بیضہ مرغ لے کر اس پر درج ذیل عبارت تحریر کریں۔ اس کے بعد بیضہ مرغ کو خشک دھنیا کی دھونی دے دیں اور سات مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر انڈے کو توڑا دلیں۔ عمل کی برکت سے انڈے میں زردی سفیدی کی بجائے تازہ خون نظر آئے گا اس خون سے مریض کی پیشانی پڑنے لگادیں۔ نظر بد کا اثر فوراً ازائل ہو کر مریض تدرست ہو جائے گا۔ عبارت یہ ہے۔

لَنَشَلَجْ مَهْقَلَشْ مَغْلَشَلَجْ بِجَمِيلَشْ مَغْلَشَلَجْ بَجْمَتَمَلَشْ

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
تَعَادِيْشَا تَعَادِيْشَا شَالُو شَيَّاً لُو شَيَّوْشِ تَرْشِيْشَا تَرْشِيْشِ شِشِ مَلْيُوشَا  
كَلْيُوشَا ظَلْيَتَا هَيَّا أَهْيَا هَمْيَا أَهْيَا أَهْيَا كَخْفَا كَخْفَا كَشْوَكَا  
قَلْوَيَا أَظْرَدُوا أَمْلِيَّا مَلِيَّا مَلِيَّا يَزْمُونَا جِيَا هَيَّا آَظَا آَظَا لُو  
آَبْرَهَشَا بَرْهِيُّوْ غَيَّا هَيَّا.

### تشخیص کرنے کا عجیب عمل

عمل اگرچہ طریقہ تشخیص کے اعتبار سے پہلے عمل سے مختلف نہیں ہے لیکن نتائج کی نوعیت کے اعتبار سے بالکل جدا ہے۔ بلکہ طسماتی اعمال کی حقیقت کے مشاہدہ کا ایک حیرت انگیز کرشمہ بھی ہے۔ ترکیب عمل میں حکیم قطبی تحریر کرتے ہیں کہ جب کسی مریض کے مرض کی تشخیص کرنا مطلوب ہو تو زعفران و عرق گلب کی سیاہی سے ذیل کے طسمات کو کاغذ پر تحریر کریں۔ اس کے بعد اس کا غذ کو تعویذ کی طرح پارچہ حریر یا کسی چڑے کے نکڑے میں لپیٹ کر مضبوطی سے سی دیس اور رات کو سوتے وقت مریض کے گلے میں پہنادیں۔ یا اس کے بازوئے راست پر باندھ دیں۔ مریض کے جناتی و آسمی اثرات کے زیر اثر ہونے کی صورت میں دوسرے روز جب وہ صبح کے وقت بیدار ہو کر دیکھنے گا تو چڑے کا نکڑا یا کپڑا تو اپنی اصلی حالت میں جوں کاتوں ہی موجود ہو گا لیکن اس میں باندھا ہوا تعویذ ہے۔ اس عمل کے انگیز طور پر غائب ہو چکا ہو گا۔ حسب ضرورت جتنی مرتبہ اور جس وقت بھی اس عمل کا آسیب زدہ مریض پر تحریر کیا جائے گا اسی عجیب و غریب کرشمہ کا مشاہدہ عمل میں آئے گا۔ طسمات کی عبارت یہ ہے۔

أَهْنُوا بِحَا هُوتِيَا چِيَا تَغْرِيْطاً تُوتِيَا دَحَا أَكْرِيدِيِّ رَحَاثُونَ هُوُ  
يَا أَرْوَاجَ أَظْلَفَ طَيْرَادِيِّ هَمْيُونَا أَهْيُونَا الْأَنَّ دَحَا أَحَا مِنْ  
الْأَرْضِ وَلَا آسَمَاءُ وَالْبَخْرِ وَالْبَرْ وَالْجِنْ وَالْأَنْسِ جَرْجِيَا طَاجِجا  
مرجیا۔

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
ہو جاتا ہے۔ اور اس پر کئے گئے سحر و جادو کا اثر ہمیشہ کے لئے جاتا رہتا ہے۔ اسماہ حرب ذیل ہیں۔ (عمل میرے روزانہ کے معمولات و مجربات میں سے ہے)

أَيَا تَعَالُوا كَلِمَةٌ هَيَّا نُوا مَجَانُو اعْظَيَّةٌ وَيَنْوَابِهَا السِّحْرِ الْكُلِّيَّةُ  
وَالْجُزْيَّةُ وَأَمْدَافُ مِنَ الْعَيْنِ وَالْبَلَاءُ تَرَوْسَا تَكَرَّأْبِهَا يَلَوْقُ أَعْوَذُ  
مَسِيَّتَا مَهِيَّتَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ بِحَقِّ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْوَحَا الْعَجَلُ الْسَّاعَةُ

### تشخیص آسیب و جن

آسیب و جن کی تشخیص کرنے کا طریقہ:

جو اس طرح پر ہے کہ اذراتی یعنی کچلہ کو جلا کر اس کی راکھ میں عرق گلب شامل کر کے اس کی سیاہی تیار کریں۔ اور ذیل کی طسماتی عبارت کو اس سیاہی سے کسی صاف سفید کاغذ پر تحریر کریں اس کے بعد اس کا غذ کو بطور تعویذ لپیٹ کر جس مریض کے مرض کی تشخیص کرنا ہو۔ اسکے سر سے پاؤں تک تمام جسم پر سے اتار کر اس کے ہاتھ میں دے دیں۔ اس عمل کے کچھ ہی وقت بعد جب تعویذ کو کھول کر دیکھیں گے تو مریض پر آسمی و جناتی اثرات کا غالبہ ہونے کی صورت میں اس کی تحریر مث کر کا غذ پہلے کی طرح بالکل صاف و سفید ہو چکا ہو گا کہ جیسے اس پر کچھ تحریر ہوا ہی نہیں تھا۔ تشخیص کے اس سریع التاثیر مجرب المجرب عمل میں بعض اوقات یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ عامل عبارت کو ابھی مکمل طور پر تحریر ہی نہیں کر پاتا کہ تحریر کردہ عبارت عمل خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی پوشیدہ قوت نے زبان سے عبارت عمل کی سیاہی چاٹ کر رکھ دیا ہے۔ عامل جب تک اس عمل کو بجالاتا رہے گا یہی حیرت انگیز تماشہ دیکھنے میں آئے گا۔ عبارت طسمات ملاحظہ ہو۔

## جادو کرنے والے کا نام و پتہ معلوم کرنا

اگر مریض کو شک ہو کہ اس کی بیماری کا سبب سحر و جادو ہے لیکن جادو کرنے والے کیا عورت کا نام و پتہ معلوم نہ ہوتا یہ جاننے کے لیے کہ مریض کا مرض قدرتی ہے یا حزن و سُخْلی؟ اور اگر سحری و سُخْلی قسم کا مرض ہے تو اس بات کا پتہ چلانے کے لیے کہ ساحر کون ہے؟ عورت ہے یا مرد، اپنا ہے یا غیر یا اجنبی۔ تو عامل درج ذیل کلمات کو سات دفعہ تلاوت کر کے مریض کے دامن ہاتھ کے ناخن پر پھوٹئے اور ناخن پر سیاہی لگا کر مریض کو تم دے کہ وہ کسی صاف کاغذ پر انگوٹھے کو لگائے۔ اس دوران بھی عامل کلمات عمل جاپ کرتا رہے۔ مریض کے انگوٹھے کے نشان بغور دیکھنے پر سحری و سُخْلی اثرات ہونے کی صورت میں ساحر عورت یا مرد جو بھی ہو گا اس کی تصویر واضح طور پر ابھری ہوں۔ نظر آئے گی جسے دیکھ کر مریض باسانی پیچان سکتا ہے کہ وہ تصویر کس عورت یا مرد کی ہے۔ انگوٹھے کے نشان سے ابھرنے والی اس ظلمی تصویر کی کمربہ کی مدد سے زیادہ واضح تصویر اتاری جاسکتی ہے۔ کلمات یہ ہیں۔

**هَمَّ وَظَهَّرَةُ قُولُّ چَسَّاجِمَ لَمْ حَنْقَطَمْ**

## تشخیص سحر کا عجیب و غریب عمل

سحر و جادو کا اثر معلوم کرنے کا ایک کامیاب طریقہ تشخیص ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ تشخیص کے اس عمل کے لئے عامل ذیل کے کلمات کو ایک سو دس بار تلاوت کر کے مریض کو دم کرے اور اس کے ساتھ ہی اس کے دامن ہاتھ کے انگوٹھے کو پکڑ کر کاغذ پر لگائے۔ اس کے بعد انگوٹھے کو اٹھا کر دیکھئے۔ مریض پر سحر و جادو کے اثرات ہونے کی صورت میں بحکم خدا مریض کے انگوٹھے کے نشان پر تازہ اور سرخ رنگ کے انسانی خون کا دھبہ نمودار ہو جائے گا جبکہ انگوٹھے کی جلد بالکل صاف ہو گی۔ عامل جتنی بار اس عمل کو بجالائے گا۔ ہر بار انگوٹھے کے نشان پر خون کا دھبہ واضح طور پر ابھرا ہو اور نظر آئے گا۔ یہ عمل نہایت مجرب ہے لیکن بطور تماشہ اس عمل کے بجالانے کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ کیونکہ اس طرح عمل کی قوت و تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ عمل کی عبارت یہ ہے۔

**وَنَادُوا يَا إِيَّاهَا السِّحْرُ وَالسَّاجِرَةُ مِنَ الدَّعَوَاتِ وَالنَّشَّارَاتِ مَا كُنْتُونَ مَكْثًا يَا فَرَخْشُ وَيَا شِينُ حَلْفُتْ حَامِلَ هَذَا لِكِتَابٍ**

اسکے ذیل کو پانی پر پڑھ کر سحر زدہ مریض کو پلاکیں اس کے فوز ابعاد ایک صاف اور عمده قسم کا آئینہ مریض کے سامنے کر دیں اور اسے آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھنے کے لئے کہیں۔ مریض پر سحر و جادو کا عمل ہونے کی صورت میں مریض کو آئینہ میں اپنا چہرہ ظاہری صورت کی بجائے جبشی انسان کے چہرہ کی طرح مسخ و مکروہ اور سیاہ رنگ کا خوفناک دکھانی دے گا۔ جس سے مریض خوف کھائے گا اور ایک دفعہ آئینہ میں اپنی شکل و صورت کو اس


بَابٌ  
مِنْ جِيْنِيْعِ الْأَخْوَالِ وَالْعَقُوبَاتِ مَا تَرَى لَهِيْمَةُ الْبَلَاءِ وَالْوَبَاءِ  
عَلَى الْعَلَائِقِ أَجْمَعِينَ مَلْعُونًا مَدْحُوًّا يَا كَفِيَايَيْلُ ظَاهِرًا  
وَيَا ظَاهِرًا تَفْوِشَا مَا اسْتَطَاعُوا لَهُ أَفْسَسًا نَفْسًا دَا فِسًا وَمَا  
هِيَا نَفْوِشًا جِيْنِيْعُ الْأَزْوَاجِ الْمُؤْذِيْدِ وَالْقُرْآنُ السُّوءُ وَجَنْوَدُ  
إِبْلِيسُ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إَبَدًا.

باب نمبر 2

جادو سے متاثر مرضیوں

کا

محبِ ترین علاج



سحر کے چارستون اور ازالہ سحر کے پانچ اركان

### سحر کے چارستون کیا ہیں؟

سحر میں چار عناصر اپنا اپنا الگ اور مستقل وجود رکھتے ہیں۔ ان چار حقائق کو سامنے رکھ کر مسحور کا علاج کرنا ضروری ہے۔ (۱) ساحر (۲) وہ عمل جو ساحر نے کیا۔ کچھ پڑھایا لکھا اور لکھ کر کھلایا، پلا یا، ہوا میں لٹکایا، پانی میں بھایا، زمین میں دفن کیا، آگ میں جلایا وغیرہ۔ اس عمل کو سحر یا جادو کہتے ہیں۔ (۳) اس عمل یعنی سحر یا جادو کی وجہ سے جو شیاطین اور سفلی مؤکلات مسحور پر مسلط کئے گئے (۴) اس سحری عمل اور اس سے اٹھنے والے شیطانی مؤکلات کی وجہ سے مسحور کو جو تکلیف اور نقصان ہوا۔

### ازالہ سحر کے پانچ اركان:

جب آپ کو سحر کے چار بنیادی اركان و عناصر سے آگئی حاصل ہو گئی تو اب یہ سمجھنا دشوار نہیں ہو گا کہ اس کو ختم کر کے مسحور کو اس کی تباہ کاریوں سے نکالنے اور آئندہ اس قسم کے شر سے بچانے کے لئے معانج کو پانچ پہلوؤں پر بڑی چاکدستی، ہوشیاری اور فنی مہارت کے ساتھ نظر رکھنا ہو گی۔

۱۔ معانج کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اصل سحر کو باطل اور ناکارہ بنادے، جس سے ساری تباہی پھیل رہی ہے۔ جیسے بم ڈسپوزل سکواڈ کسی بم کو ناکارہ کر کے قوم کو اس سے ہونے والی متوقع تباہ کاری سے بچاتے ہیں۔

اگر اصل سحر باطل نہ کیا اور محض اس کے اثرات و نتائج اور مریض کے جسمانی درد وغیرہ کا علاج کرتے رہے گئے تو عارضی افاقہ تو ہوتا رہے گا لیکن اصل مسئلہ جوں کا توں رہے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہو گا کہ کنویں میں کتا گر گیا۔ علماء سے فتویٰ لے کر وسوڈوں

### پیغام شفاء

#### جسمانی بیماریوں کا روحاںی علاج

ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مندرجہ ذیل جسمانی بیماریوں سے صرف ایک ہی باردم کروانے سے فوراً مکمل شرطیہ نجات حاصل کریں۔

بلڈ پریشر

کالا یرقان

شوگر

بواسیر

دمہ

ہر قسم کی پتھری

انشاء اللہ تعالیٰ صرف پہلے ہی ہفتے میں رزلٹ آپ کے سامنے ہو گا ہمارے علاج و طریقہ کار کا پہلے تجربہ کریں اور بعد میں دنیا کو بتائیں۔

ہمارے ہاں مندرجہ بالا جسمانی بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے عملیات و تعویذات بھی سکھائے جاتے ہیں، فوری اثر کرنے والے عملیات و تعویذات سیکھنے کے خواہش مند حضرات رابطہ کریں ہدیہ یہ 4000 ہزار روپے

روحاںی و جسمانی معانج حکیم حافظ عبدالرؤف میاہ عملیات و تعویذات

مرکز طبی و روحاںی دارالشفاء توحید پارک نزد گول مسجد امامیہ کالونی شاہدرہ لاہور

0300-4347214-0345-4190427

تو کنویں سے نکال لئے مگر کتنے کو نویں سے نہیں نکلا۔ اس طرح توروزان کی بیانات  
باہم دوسروں نکلتے رہیں تب بھی پانی ناپاک کاناپاک ہی رہے گا۔  
۲۔ اصل سحر کو باطل کرنے کے بعد دوسرا ذمہ داری عامل کی یہ ہے کہ اس سحر سے اٹھ  
اور مسحور پر مسلط ہونے والے تمام شیاطین و موکلات کا رابطہ مسحور سے منقطع کرے  
تاکہ اگر وہ اس کی نظر سے اوچل ہونے کی وجہ سے نج بھی جائیں تو مریض کو آنکہ  
نقصان نہ پہنچا سکیں۔

۳۔ تیرے مرحلے میں سحری عمل سے پیدا کردہ وہ تمام سفلی موکلات کا حتمی اور کلی خاتم  
ہے۔ اور ان کو ختم کرنے بغیر مریض کے بارے میں عامل بھی بے فکر اور مطمئن نہیں ہو  
سکتا۔ ہاں مریض کوڑ خادے تو اور بات ہے۔

سحری موکلات گائیڈ میزائل کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کی جوڑیوںی لگ گئی، وہ الگ  
گئی۔ ان کا کام صرف اس شرکوپاری تکمیل تک پہنچانا ہے جس کی خاطر انہیں مطلوبہ  
هدف پر مسلط کیا گیا ہے۔ اس شرکی تکمیل کے سوا وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ نہ ہی وہ اس  
کے سوا کچھ کر سکتے ہیں۔ اور یہ تکمیل انہوں نے ہر صورت کرنی ہی کرنی ہے۔ اس  
لنے ان کے خاتمے کے سوا عامل کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ کیونکہ یہ جب تک زندہ  
ہیں، کبھی بھی مسحور کے لئے خطرہ بن سکتے ہیں۔

۴۔ چوتھے نمبر پر ان شیاطین اور سحری عمل کے نتیجے میں جو اثرات مسحور پر مرتب ہوئے  
ہیں۔ (وہ بیمار پڑ گیا ہے، اسکا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی  
وغیرہ) ان کا مکمل خاتمہ ہے۔ محض سحر کو باطل کرنے یا سحری موکلات یا شیاطین کو ختم  
کرنے سے جسمانی و روحانی اثرات ختم نہیں ہو جاتے۔ ان کے لئے عامل کو الگ  
سے توجہ دینی ہوتی ہے۔ اور اگر جادو کی وجہ سے کوئی خاص جسمانی بیماری لگ گئی ہو تو  
روحانی علاج کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر یا حکیم کا علاج بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ روحانی

علاج کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ بیمار صرف اسی سے ٹھیک ہو گا۔ اس کا مطلب صرف  
یہ ہے کہ جو بیمار پہلے کسی دوسرے سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اب اسے دو الگنا شروع  
ہو جائے گی۔ اور جادو کے ذریعے اس کی شفایا بی کے آگے مضبوط دیوار کھڑی کر دی  
گئی تھی، ہم نے اسے توڑ دیا ہے۔ لہذا اب اسے دوسرے وہ فائدہ منا شروع ہو جائے  
گا جو پہلے نہیں مل رہا تھا۔

۵۔ ان چاروں مرحلوں کے بعد پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ جب سحر اور جادو بھی ختم ہو جائے،  
اس کے موکلات کا بھی خاتمہ ہو جائے اور مسحور پر مرتب ہونے والے اس کے  
اثرات و عواقب بھی زائل کئے جا چکیں تو اب اس مریض کو کوئی ایسی حفاظتی چیز دی  
جائے کہ آئندہ اس پر سحر اور جادو کا وار اس طرح نہ چل سکے جس طرح پہلے چلا ہے۔  
عام طور پر حفاظت کے لئے تعویذات کا سہارا لیا جاتا ہے اور کامیں کے نزدیک سب  
سب سے آخری مرحلہ ہے۔

## رجعت و سحر و جادو کا علاج

اگر کسی کا کوئی عمل خراب ہو گیا ہو اور اس کی رجعت و نجاست میں بتلا ہو یا سحر جادو  
ثونہ کی مصیبت میں بتلا ہو تو تین سو ساٹھ (۳۶۰) مرتبہ روزانہ بلا ناغہ پڑھیں۔ ان شاء اللہ  
کیس (۲۱) روز کی مدد و مدد سے رجعت عمل اور سحر و نجاست اور بلا ناگہانی و مصیبت

دور ہو گی۔ وہ عزیمت یہ ہے:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَبِهِ نَسْتَعِينَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا  
بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ - صَمَّ  
بُكْمَمْ عُمَّى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ -

## برائے دفع سحر جادو، ٹونہ

اس عمل میں الحمد شریف کو ایک سو (۱۰۰) مرتبہ چالیس (۳۰) روز تک پڑھیں۔  
ترک حیوانات کریں۔ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ بوقت ضرورت گیارہ مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے  
محور کو پلاٹیں اور گلے میں باندھیں۔ ان شاء اللہ کیسا ہی سخت جادو سحر علوی یا سفلی ہو گا  
دور ہوگا۔ روزانہ پانی پر دم کر کے دینا ہے اس عمل کو کم ایکس دن تک ضرور کریں۔ اگر  
اثر باقی رہے تو اکتا لیس دن تک جاری رکھیں۔

## برائے دفع سحر

اگر کوئی شخص بتلائے سحر ہو تو اس عطائی عمل کو کام میں لائے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ صحت  
یابی حاصل ہوگی۔ ترکیب یہ ہے کہ اس بند کو تین سفید کاغذ پر بروز جمعہ کو لکھے اور تعویذ کو گلے  
میں حرز زدہ کے باندھے۔ دوسرے تعویذ کو مکان کی چھت میں لٹکائے۔ اور تیسرا تعویذ کو  
چوکھت میں لگائے۔ اور ۲۱ مرتبہ پانی پر پڑھ کر پینے کے لئے دیوے۔ اور ۲۱ مرتبہ  
رسوؤں کے تیل میں پڑھ کر دیوے اور ماش کرائے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ سحر ہر قسم دور بھی  
ہو گا اور آئندہ کے واسطے بھی بندش ہوگی۔ اور محفوظ رہے گا۔ وہ بند عطائی یہ ہے۔

**پسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** - بند بند بند بند بند  
اثربند، سحر بند، هر قسم بند، جمیع آفات و بلایات بند،  
کیا کرایا بند، دیوبند، دشمن بند، ہاتھ بند، دشمن کا  
پیدا بند، دشمن کا دل بند، دماغ بند، بند کے بند، حضرت  
شاہ مردان علی مرتضیٰ ذرہ بکتر بند سے بند باندھ کر

کیا درویش کے سپرد۔ پھر آنے را نہ دیا۔ لا الہ کی کوٹ۔  
الا اللہ کی کھائی، محمد رسول اللہ کی دھائی۔ العجل العجل  
العجل۔

## برائے دفع سحر

اگر کوئی شخص سحر جادو میں مقید ہو تو اس چہل کاف کو ۲۱ مرتبہ پانی پر دم کر کے دیوے  
اور اکیس روز پلاۓ اور تیل سرسوں پر دم کر کے دیوے اور ماش کراؤ۔ ان شاء اللہ  
تعالیٰ شفائے عاجله و کاملہ نصیب ہو گا۔ سکون قلبی و ذہنی حاصل ہو گا۔ مجرب و آزمودہ  
ہے۔ چہل کاف یہ ہے۔

**پسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** - كَفَاكَ رَبُّكَ كَمْ يَكُفِينَكَ وَ اِكْفَةً  
كِفْكَأْ فُهَّا كَكَمِينَ كَانَ مِنْ كَلَّكَا تَكْرُرٌ كَرَّا كَكَرِ الْكَرِفِ كَبِيداً -  
تَخِكِنْ مُشَكِّشَكَةً كَلْكُلُكِ لَكَّكَا كَفَاكَ مَابِي كَفَاكَ الْكَافُ كُرْبَتَةً  
يَا كَوْكَبَا كُنْتَ تَخِكِنْ كَوْكَبَ الْفَلَكَـ


## بڑے سے بڑے جادو کا خاص توڑ

اگر کوئی شخص سحر، جادو، ٹونہ، بونکہ کاشکار ہو یا سحر سفلی کی زد میں ہو یا سحر علوی کا مارا  
ہو یا سحر بنگالہ کی لپیٹ میں ہو یا کالے جادو سے مسحور ہو یا رجعت عمل میں بتلا ہو تو اس  
عزیمت کو لکھ کر مسحور کے گلے میں باندھیں اور تین مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے سات روز  
تک پلاٹیں اور تین مرتبہ تیل سرسوں پر پڑھ کر دم کر کے تمام جسم کی ماش کراؤ۔ عمل  
سات روز تک کریں۔ ان شاء اللہ کتنا ہی سخت سحر ہو یا سحر زدہ قریب الموت ہو یا کیسی ہی  
کڑت کی گئی ہو یا کتنا ہی طاقتور عمل پڑھا گیا ہو، اس عزیمت کی برکت سے بفضل رب

کریم حمزہ کو سخت کامل اور شفائے عاجل حاصل ہوگی۔ وہ عزیمت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَعُوذُ بِعِنْدِهِ مُسْحُورَ كَا نَامَ مَعَ مُسْحُورِ كَبَابِ  
كَا نَامَ الْمَخْرُوفُ بِكَذَا وَكَذَا (اگر وہ کسی دوسرے نام سے معروف ہے تو وہ  
نَام) وَسَائِرَ دَوَابِهِ مِنَ الْخَيْلِ أَذْهِبَهَا وَأَشْقِرَهَا وَكُلَّمَيْتَهَا  
وَأَغْرِيَهَا وَمُخْجِلَهَا وَخُصِّصَهَا وَجُنُودُهَا مِنَ الْمَشِيشِ وَالرَّهْسِ  
وَالرَّمْسِ وَالدَّمْصَةِ وَالرَّضَةِ وَخَفْقَانِ الْفَوَادِ وَرَعْدَهَا وَغُرَّةِ  
الصِّفَاتِ وَالرِّجْسِ وَبَلْعِ الْحَشِيشِ وَالْحُدَانَ وَوَجْعِ الْجَوْفِ  
وَالرِّبْوِ فِي الرِّئِسِ وَمِنَ الطُّرْفَةِ وَالصَّدْمَةِ وَالْعِشَارِ وَمِنَ  
الْحُمَرَةِ وَالبَحْرِ وَسَائِرِ الْأَغْلَالِ فِي الْبَهَائِمِ رُقَعَتْ عُيُونَ  
السُّوءِ عَنْهَا فِي سَائِرِ جُسُومَهَا وَبَشَرَهَا وَلَحْمَهَا وَدَمَهَا وَمُخْهَمَهَا  
وَعَظِيمَهَا وَجِلَدَهَا وَجَوْفَهَا وَعَزْقَهَا وَشَعْرَهَا وَبَرِهَا وَبَطْنَهَا  
بِالْإِحَاطَةِ الْكُبْرَى وَبِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى وَبِكَلِمَتِهِ الْعَظِيمِ مِنَ  
الْأَشْتَاءِ مِنَ الْأَكْلِ وَالتَّعَضُّصِ وَالْإِلْتَوَاءِ وَالضَّرْبَانِ وَمِنْ جَنْحِ  
بِالْحَدِيدِ وَضَرِّ بِالْتَّشَرُكِ وَجَرَاقِ بِالنَّارِ وَبِجَلْبِ وَمِنْ دَفْعِ  
نِضَالِ السَّهَامِ وَالسُّنَّةِ الرِّمَاحِ وَمِنَ الْغَوَامَةِ وَالْوَازِعِ وَضَرْبَةِ  
مُؤْهِلَةٍ وَوَقْعَةِ مُولَةٍ أَعْيُنْدَهُ وَرَاكِبَهُ بِسَاسْتَعَاذِبِهِ جِبْرَائِيلُ  
عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَا عَوَّذَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ  
الْبَرَاثُ وَبِمَا عَوَّذَ بِهِ فَرَسَهُ الرَّازُ وَبِمَا عَوَّذَ بِهِ شَمْعُونَ الصَّفَا  
فَرَسَهُ الطَّمَاحُ وَبِمَا عَوَّذَ بِهِ مُوسَى الْكَلِيمُ فَرَسَهُ الدِّينُ عَبْرَفِي  
آفْرَةُ الْبَحْرِ عَوَّذَتْ هِذِهِ الدَّابَّةُ وَصَاحِبَهَا وَمَوْضِعَهَا وَمَرْعَاهَا  
وَسَائِرَ مَالِهِ مِنَ الْكُبْرَاءِ وَالرَّوَابِعَ مِنَ الْهَامَةِ وَالسَّامَةِ

وَالْعَيْنِ إِلَّا مَةٌ وَمِنَ السَّمَاءِ وَالْهَوَامَةِ وَمِنْ كُلِّ أَذِيَّةٍ وَبَلَيَّةٍ وَمِنْ  
الشُّهُودِ وَالدُّهُورِ وَالرَّدَّةِ وَالغُرْقِ وَالْحَرَقِ وَالْوَانَّ وَمَدَارِكِ  
الشَّفَا بِالْعَقْدِ وَالْعَظَمَةِ وَالْأَسْمَاءِ وَالْأَوَّلَيَّةِ الْعُلَيَّةِ أَعْيُنِ الْجِنِّ  
وَالْأَنْسِ آجِمَعِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَالِمِ السَّيْرِ  
وَالْخَفِيِّ بِسْمِ اللَّهِ الْأَعْلَى بِأَسْمَائِهِ الْكَبِيرِيِّ فِي سَرَادِيِّ فِي عِلْمِ  
اللَّهِ وَفِي حَبِّ مَلَكُوتِ اللَّهِ الَّذِي يُحْيِي الْأَمْوَاتِ وَبِهَا رُفِعَتِ  
السَّمَوَاتِ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي أَضَاءَتْ بِهَا الشَّمْسُ وَأَزْفَعَ  
بِهَا الْعَرْشُ مِنْ سَائِرِ مَا ذَكَرْتُ وَمَا لَمْ أَذْكُرْ وَمَا عَلِمْتُ وَلَا أَعْلَمُ  
وَرَفَعَتْ عَنْهَا سَائِرُ الْعَيْنُونَ التَّنَاظِرَةَ وَالْعَادِيَةَ وَالْخَوَاطِرَةَ  
وَالصُّدُورَ وَالْوَاعِظَةَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔



### عمل:

سات بتاشوں پر مندرجہ ذیل عزیمت سات مرتبہ پڑھ کر دم کر کے دیں۔ اور روزانہ ایک بتاشہ عصر اور مغرب کے درمیاں مریض کو کھلانیں۔ ان شاء اللہ سات روز میں مریض کو سحر سے نجات ملے گی۔ عزیمت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَهِيَا أَشْرَاهِيَا بِحَقِّ يَا بَاسِطِ  
وَبِحَقِّ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَبَحَقِّ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَبِحَقِّ قُلْ  
أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَبِحَقِّ يَا شَمْعُلُونِي۔

اگر خدا نخواستہ مرض میں کسر رہ جائے تو پھر مزید دو ہفتے رکا تار اس علاج کو کریں۔ اس طرح کل تین ہفتے کا علاج ہو جائے گا۔

فرعون	قارون	حامان	سعیان
نمرود	بے ایمان	اپلیس	بیداد
حدسو	بیداد	حامان	لمیس الیمین
ترملین	تو اپلیس	قارون	تربلیس

## عمل: ۲

محور کے سر سے لیکر پاؤں کے انگوٹھے تک نیلے سوتی دھاگے کے گیارہ تارنا پ کران گیارہ تاروں کی چار تہیں کر لیں۔ اب دھاگے کے سر سے پر ایک ڈھیلی گرہ لگائیں اور ایک بار سورۃ الفلق (پ ۳۰) پوری معہ تمییہ پڑھ کر گرہ پر پھونک دیں اور فوز اس دیں۔ اسی طرح گیارہ گرہ لگائیں پھر دیکھتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دیں دھاگہ جلنے پر اس میں سے بدبو آئے گی۔ جب تک بدبو آتی رہے یہ عمل کرتے رہیں۔ روزانہ ایک بار کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ بدبو روزانہ کم ہو گی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سحر ختم ہو رہا ہے۔

## عمل: ۳:

اس نقش کو مریض اپنے جسم پر صحیح و شام متار ہے۔ صحیح شام کو ملنے کے بعد جلا دیا جائے۔ اس کے جلنے سے جادو اور سایہ جل جائے گا۔ ان شاء اللہ۔


نقش اگلے صفحہ پر ہے۔

## عمل: ۲

زیادہ مقدار میں کھانے کا آئیوڈین ملائمک لے کر اس پر مندرجہ ذیل آیات ایک ہزار ایک (۱۰۰۱) مرتبہ پڑھ کر دم کر کے رکھ لیں۔ جب مریض آئے تو حسب ضرورت نمک اس کو دیں۔ اور مریض چالیس (۳۰) پوم تک متواتر کھانے پینے کی چیزوں میں روزانہ معمولی سادم شدہ نمک ملأ کر کھائے۔ ان شاء اللہ جادو سے نجات ملے گی۔ آیات یہ ہیں۔

وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا سَعَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ (البقرة ۷۴)

دورانِ علاج مریض حتی الامکان بازار کھانا نہ کھائے۔ فروٹ وغیرہ کھا سکتا ہے مگر کوئی ایسا کھانا نہیں کھانا جس میں نمک ڈلتا ہو۔ اسی طرح کسی رشتہ دار یا دوست احباب کے ہاتھ بھی نمک والا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ یہ ایک خاص رمز ہے جو لوگ کم اثر ہونے کی شکایت کرتے ہیں، ان کو نمک کا مکمل پرہیز کروائیں۔



## عمل: ۱

اس تعویز کو مریض اپنے پورے جسم پر پھیر کر آگ لگادے صحیح و شام کا ایک تعویز جلایا کرے۔ ان شاء اللہ سات یوم یا گیارہ یوم میں اثرات زائل ہو جائیں گے۔

نقش اگلے صفحے پر ہے۔

۱۵	۳	۹	۲
۱۰	۵	۳	۲
۳	۱۶	۹	۲
۱۳	۲	۷	۱۲

## پلانے والے عملیات

یہ عملیات عموماً جسمانی اثر والے مریضوں کے لئے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ جیسے بندش صحت، بندش ہوت، اولاد کی بندش، اولاد زینہ کی بندش وغیرہ۔ دوسری بندشوں مثلاً رشتہ کی بندش، کاروبار کی بندش، ترقی کی بندش وغیرہ کی صورت میں زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔

**عمل ۱:** پانی پر یہ قرآنی آیات دم کریں: درود ابراہیمی، آیت اکرمی، چاروں قل، درود ابراہیمی۔ یہ سب پڑھ کر ایک بار دم کریں۔ اس طرح آیس (۲۱) مرتبہ پانی پر دم کر کے صبح و شام پلاں گیا۔ اور گیارہ (۱۱) روز اس علاج کو جاری رکھیں۔ دم صرف ایک بار کرنا ہے۔ گیارہ دن کا ایک کورس ہوگا۔ اس طرح کے تین کورس کروائیں۔ ان شاء اللہ شفا ہوگی۔

**عمل ۲:** گیارہ (۱۱) مرتبہ سورۃ المزمل (پ ۲۹) پانی پر دم کر کے صبح نہار منہ چالیس (۲۰) دن پلاں گیاں اول و آخر گیارہ بار درود شریف۔ اگر دور کا مریض ہو تو ایک ہی دم کر کے دے دیں۔ اور اگر قریب کا ہو تو بہتر ہے کہ ہر دس دن بعد دم کریں۔ اول و آخر درود ابراہیمی گیارہ بار پڑھیں۔ نہار منہ کے علاوہ دن میں کم از کم تین سے پانچ بار ضرور پلانا ہے۔ اور رات کو سوتے وقت بستر پر بھی چھڑ کوانا ہے۔

مندرجہ ذیل آیات مبارکہ سات کاغذ کے ٹکڑوں پر مع اسم اللہ زعفران اور گلاب کے تحریر کر کے مسحور کو دی جائیں تاکہ وہ روزانہ ایک تعوینہ پانی میں گھول کر نہار منہ پی لیا کرے۔ ان شاء اللہ حرب کے بداثرات کلی طور پر ختم ہو جائیں گے۔ رات کو پانی میں ڈال کر رکھ دیں۔ صبح نہار منہ مریض ہے۔ پھر دن بھر مریض پیتا رہے۔ کھانے میں تحوزہ اپانی کر رکھ دیں۔ چائے، دودھ وغیرہ میں پانی ملا کر دیں۔ دن میں کم از کم تین سے پانچ بار ضرور ملا کر دیں۔ نیز رات کو سوتے وقت مریض اپنے بستر پر بھی چھڑ کے۔ آیات یہ ہیں۔

قال موسیٰ۔۔۔۔۔ کرہ المجرمون (یونس: ۸۱-۸۲)

فوق الحق بطل۔۔۔۔۔ وہرون (اعراف: ۱۱۸-۱۲۲)

انما صنعوا کیدا۔۔۔۔۔ حیث اتی (طہ: ۶۹)

## پلانے، باندھنے اور تیل ملنے والا عمل

**عمل:** روغن کلوچی پر درج ذیل عمل اکیس (۲۱) مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور مسحور کو دیں وہ روزانہ رات کو اپنے بدن پر معمولی سارو غنن لگا کر ماش کرے۔ یہی عمل تحریر کر کے مسحور کے گلے میں ڈالیں۔ اور سفید کاغذ پر زعفران کی روشنائی سے لکھ کر عرق گلاب کی بوتل میں ڈال دیں۔ اور مریض صبح و شام اکیس (۲۱) یوم تک روزانہ دو گھنٹ پیتا رہے۔ اور اکیس (۲۱) ہی مرتبہ یہ عمل پڑھ کر اس عرق گلاب پر دم کر کے مسحور کو دیں۔ عمل یہ ہے۔

حضرت موسیٰ وہرون کی لاخی، ٹونہ ٹوٹکا کرنے والے کی ٹوٹے پانی، ساحر پڑے موت کی کھائی، کعبہ کی نظر، بیکار ہوا جادو کا اثر، بِسْمِ اللَّهِ أَكْبَرُ، لا حَوْلَ

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔

قال موسی۔۔۔۔۔ عمل المفسدین (یونس: ۱۸)

جو لوگ کسی اور کلام یا آیت کے عامل ہیں وہ لوگ اس آیت کی جگہ اپنا عمل پڑھیں کیونکہ یہ بات بارہ میں بتاچکا ہوں کہ اصل عمل وہی ہوتا ہے جو اپنے پاس ہوتا ہے کتاب میں پڑھ کر جادو یا جنات کا اعلان نہیں ہوتا۔

### نہلانے والا خاص عمل

جاری پانی (دریا یا نہر کا) یا سات کنوں کا پانی ایک گھر ابھر کر اس پر باوضوم مندرجہ ذیل آیات گیارہ مرتبہ اور سورہ فلق اور سورہ ناس گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ کر پھر کیسی اور مریض کو اس پانی سے تین گھونٹ پلا کیں اور باقی پانی سر پر ڈال کر نہلانگیں۔ بلا ناخن چالیس (۳۰) دن تک بھی عمل کریں۔ آیات یہ ہیں۔

فَلَمَّا آتَى الْقَوَاكَالَ مُوسَى مَا ِجْتَثَتْمُ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيِّدُ الْعَالَمُونَ  
اللَّهُ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحَقِّقُ اللَّهُ الْحَقُّ بِكُلِّمَا تَهْ

وَلَوْكَرَةَ الْمُجْرِمُونَ (یونس: ۸۰-۸۱)

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغَلِبُوا أَهْنَاكَ وَأَنْقَلَبُوا  
صَغِيرِينَ وَأَلْقَى السَّحْرَ تَسَاجِدِينَ قَالُوا أَمَنَا بِرَبِّ الْعَلَمِينَ  
رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (الاعراف: ۱۱۸-۱۲۲)

إِنَّهَا صَنَعُوا كَيْدُ سَحِيرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أُتْهِ (طہ: ۵۹)

یہ عمل اتوار کے دن سے شروع کیا جائے، جائزے میں (دوسرے کو نہ لایا جائے۔)  
(نہانے میں احتیاط کی جائے کہ ناپاک جگہ پانی نہ جائے اور عورت کپڑے پہنے بھی جھٹ پکھنے میں احتیاط کی جائے۔) یہی کسی جگہ پر نہیں سمجھتی ہے۔ بس نہانے کے بعد دوسرے کپڑے گھر آ کر جلدیں کر لے۔ مریض کو غسل کرنے والے تمام اعمال میں درج ذیل ہاتھوں کا عیال رکھیں:  
بھی گاڑ دیں۔ آیت یہ ہے۔

### گھر، جگہ سے جادو ختم کرنے کے اعمال

#### (دھونی والا عمل:

دھونی دینے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی دھکا کر لو بان چھڑ کیں اور ہوادیت ہوئے ہر کمرے میں دھونی دیں علاوہ باتحہ روم۔ ہر کمرے میں صرف ایک چکر لگائیں تاکہ پورے کرے میں دھونی پہنچے۔ باتحہ کو دوازہ کھول کر دھونی کو ہوادے کر باتحہ روم کے اندر دھواں کریں۔ اندر نہ جائیں۔

#### عمل:

لو بان کوٹ یا پیس لیں۔ اس پر ایک سو گیارہ (۱۱۱) مرتبہ سورۃ الناس و سورۃ الغنی (پ ۳۰) پڑھ کر دم کریں۔ اول و آخر گیاہ بار دوڑا براہی۔ پھر رات کو سارے گھر میں بلا ناخدا کتا لیں (۳۱) دن تک دھونی دیں۔

### گھر کیلئے والا عمل

کیلیں لگانے کا طریقہ عموماً عاملین کو آتا ہے۔ اگر کسی کو پوچھنا ہو تو خط لکھ کر پوچھ لیں۔

#### عمل:

چاروں ہائی انج کے سینیل کے کیل لیں۔ ہر کیل پر اول و آخر ایک بار دوڑا براہی اور گیارہ مرتبہ یہ آیت پڑھ کر دم کریں۔ اس طرح چاروں کیلوں کو دم کریں۔ اور اس کو گھر کے چاروں کونوں میں گاڑ دیں۔ بہتر ہے کہ اسی عین چار کیلیں مریض کے کمرے میں بھی گاڑ دیں۔ آیت یہ ہے۔

## پانی ملنے اور کھانے والا عمل

عمل:

نوجہندی جمعرات کو بعد از نماز عشاء پہلے چاروں قل ایک ایک مرتبہ پڑھیں، اول و آخر سات سات مرتبہ درود شریف۔ اس کے بعد ایک تسبیح آیت کریمہ (الانبیاء: ۸۷) اور گیارہ مرتبہ یا قدر پڑھیں۔ پھر سات سات مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا نگیں۔ میریض کوتاکید کریں کہ وہ اس پانی کو سوتے وقت سینے اور دماغ پر مل لیا کرے، اس طرح اس عمل کو لگتا تاریخ جمعرات کرتا ہے۔ یعنی تین مرتبہ دم کرنا ہے، آخری جمعرات کو پانی کے ساتھ چینی پر بھی دم کریں۔ چینی میریض کو کھانے کے لیے دیں۔ میریض کوتاکید کریں کہ وہ علاج کے دوران کسی قسم کا گوشت نہ کھائے، نہ ہی کسی مرنے والے کے گھر میں چالیس روز تک جائے، ورنہ اس کی تکلیف بڑھ جائے گی۔ اور علاج کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

## جادو کا دفاع

امَّنَ الرَّبُّ سُؤْلُ آخِرَتْكَ . آیت الکرسی، اور وَاللَّهُ هِنْ وَرَأَيْهُمْ  
مُّحِينِيْظَ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۔

اس تعویذ کو سحر زدہ کی گردان میں لٹکا دیا جائے یا اس کو پلا دیا جائے۔ (لٹکانے سے دفاع ہو گا اور پلا سے علاج۔ زعفران سے لکھ کر سات یوم کے حساب سے پلا دیا جائے۔ اور میریض کو بھی صبح شام سات سات بار یہ کلام پڑھ کر اپنے اور پانی پر دم کرنے کو کہا جائے۔)

۱۔ میریض نے غسل کرتے وقت کوئی تعویذ نہ پہنانا ہو۔

۲۔ میریض پاک ہو، ہرگز جنابت یا حیض کی حالت میں غسل نہ کرے۔

۳۔ میریض پہلے عام پانی سے غسل کر لے با تحریم میں۔ پھر کسی پاک جگہ (علاوه بر روم) بڑا ہب رکھ کر دم کرنے ہوئے پانی میں سے تھوڑا پانی لے اور عام پانی میں ملکر اس پانی کو اپنے اوپر بھائے کہ پورا بدن گیلا ہو جائے۔ یہ عمل کمرے میں کیا جا سکتا ہے۔ استعمال شدہ پانی کسی پاک جگہ بھائیں۔ جن لوگوں کے ہاں ایسا انتظام ہو کہ کچھ زمین اور غسل کرنا بھی ممکن ہو تو وہاں مرد حضرات شلوار پہنے رہے اور پانی اپنے اوپر سے بھائے، عورتیں مکمل کپڑے پہنے رہیں، صرف سرنگا کر کے پانی بھائیں۔ یا پھر گھر کے اندر غسل کریں۔ یہ پابندی صرف قرآنی، نورانی علاج کے لئے ہے۔ یعنی وہ علاج جس میں قرآنی آیات، اسماء الحسنی، اسماء النبی سے مشتمل، دو رو شریف یا حدیث شریف کی دعا ہیں وغیرہ ہوں۔ باقی ہر قسم کے نقوش یا علوی، سفلی علاج میں با تحریم میں نہیا یا جا سکتا ہے۔

یاد رہے کہ قرآنی، نورانی علاج میں ہرگز استعمال شدہ پانی ناپاک جگہ نہیں جانا چاہیے، ورنہ بہت نقصان ہوتا ہے۔

۴۔ قرآنی، نورانی علاج میں یہ احتیاط رہے کہ شرم گاہ کو نہیں دھونا اور نہ ہی بالکل برہنہ ہو کر نہیں کرنا ہے۔ یہ بات مجھ کو جنات نے بتائی تھی کہ ”هم ایسے لوگوں کو زیادہ تکلیف دیتے ہیں“۔

۵۔ نہیں کا علاج عموماً یہ میریضوں کو دیں جن کی روزی، ترقی، کاروبار، شادی وغیرہ کی بندش ہو گئی ہو یا پھر جسمانی اثر شدید ہو۔

## بادو کا علاج

جس پر بادو کا اثر ہوا اور اس بیمار کے لئے جس کی بیماری نے طبیبوں کو عاجز کر دیا (یعنی وَاكْثَرُهُ علاج اکر کے تھک گئے ہوں) تو چینی کے سفید برتن میں یہ کلمات لکھیں:

يَا أَحَىٰ حِينَ لَاحَىٰ فِي دَيْمُونَةِ مُلِكِهِ وَبَقَائِهِ يَا أَحَىٰ

پھر اس کو پانی سے دھو کر چالیس دن مریض کو پلا کیں۔ (بہت مجرب ہے)

## بادو (سحر) کا علاج

زعفران روشنائی سے مندرجہ ذیل اکتا لیں (۲۱) نقش باوضو لکھئے، نقوش کی خار پر ترتیب دار ہوگی۔ یعنی خانوں کے خطوط کھینچنے کے بعد بسم اللہ کا عدد (۸۶) اور لکھنے کے بعد سب سے چھوٹا عدد (۲۱۵۲۲) اس کے خانہ میں، سب سے پہلے لکھیں۔ اس کے بعد اس کے بعد والا عدد یعنی (۲۱۵۲۳) اور پھر اسی ترتیب سے خانوں میں ہندے لکھ دیں۔

۲۱۵۶۷	۲۱۵۶۲	۲۱۵۶۹
۲۱۵۶۸	۲۱۵۶۶	۲۱۵۶۳
۲۱۵۶۳	۲۱۵۷۰	۲۱۵۶۵

ان نقوش میں سے ایک نقش موم جس کے مریض کے گلے میں پہناد تھے اور بالی ماندہ کو روزانہ نہار منہ تازہ پانی میں دھو کر پلا دیجئے۔ ان شاء اللہ شفا ہوگی۔ (بہتر ہے کہ رات کو ہی ایک نقش پانی کی بوتل میں ڈال کر رکھ دیں۔ صبح نہار منہ پانی پینا شروع کریں)

## برائے دفع سحر

آیات ذیل لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں اور پانی پر پڑھ کر اس کو پلا دیں۔ اگر نہ لانا نقصان نہ کرتا ہو تو ان ہی آیات کو پانی پر پڑھ کر اس سے مریض کو نہ لدا دیں۔ آیات یہ ہیں۔

فَلَمَّا آتَ الْقَوَاقيَالْ مُؤْسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّخْرَى إِنَّ اللَّهَ سَيِّنَبْطَلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضْلِلُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَيُحَقِّ اللَّهُ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْكَرِهِ الْمُجْرِمُونَ ۝ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ قَرْبِ مَا خَلَقَ وَ مِنْ شَرِّ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَ مِنْ شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسَوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ۝

## سحر سے حفاظت

صبح اور مغرب کی نماز کے بعد درود شریف تین مرتبہ، سورۃ فاتحہ تین مرتبہ، اور سورۃ کافرون تین مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم کے اگلے حصہ پر پھیر لیا کریں، اس طرح سورۃ اخلاص، تین مرتبہ، معوذ تین تین مرتبہ اور درود شریف تین مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم کے پچھلے حصہ پر پھیر لیا کریں۔ ان شاء اللہ اعزیز کسی بھی قسم کا اثر نہ ہوگا۔

## سحر بادو کے لیے مجرب عمل

صبح کی نماز کے بعد، مغرب کے بعد اور سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحيم کے ساتھ

اَللّٰهُمَّ شَرِيفٌ مُكْمَلٌ، آیتُ الْكَرِيمَ مُكْمَلٌ، قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مُكْمَلٌ، قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مُكْمَلٌ  
تین تین مرتبہ اول و آخر درود شریف مریض خود پڑھتے تو بہتر ورنہ کوئی دوسرا پڑھ کر  
طرح دم کرے کہ لعاب کا سچھ حصہ مریض کے بدن پر گرے۔ نیز ایک بوتل پالی بھر  
رکھیں اور جو بھی پڑھیں، بوتل پر دم کر دیا کریں۔ اور اس سے نہار منہ ایک گھونٹ مریض  
کو پلا سیس، اور جب بوتل آدھی رہ جائے تو نئے پانی سے بھر دیں۔ اگر مکان میں آپر  
کا دشہ ہو تو پانی سے تھوڑا سا لے کر مکان کے چاروں کونوں پر اس طرح چھیننا دیں کہ پال  
زمیں پر نہ گرے۔

(اس عمل کو مریض ایک ایک ہفتہ کے لحاظ سے کرے۔ یعنی ایک ہفتہ کرے اور  
کیفیت کو دھیان میں رکھے، اگر علاج کے شروع میں کیفیت بگڑ جائے تو علاج نہ روکیں  
ایک ہفتہ تک جاری رکھیں۔ اگر ایک ہفتہ میں بھی طبیعت بہتر نہ ہو تو علاج روک دیں  
اور کسی اچھے عامل سے رجوع کریں۔ اگر بہتری ہو تو کم از کم ایکس یوم اس علاج کو جاری  
رکھیں۔ ایکس یوم کے بعد ایک ایک ہفتہ کے لحاظ سے مزید علاج کریں، جب تک مکمل اثر  
ختم نہ ہو جائے، گھر کا معاملہ بھی مذکور طریقہ پر کیا جائے۔ البتہ گھر کے چاروں کونوں  
کے ساتھ مریض کے کمرے کے کونوں میں بھی چھڑ کاؤ کریں۔ اس سے فائدہ ان شاء اللہ  
زیادہ ہوگا۔

## سحر پلیدی

سحر پلیدی اس غلی عمل کو کہا جاتا ہے جس میں جادوی کلمات پڑھ کر بعض عورتیں  
اپنے حیض و نفاس والے کپڑے کو پانی میں گھول کر مرد کو پلاٹیں یا اس کے ذریعے سے  
ایسا عمل کیا جاتا ہے جس سے مرد اس عورت کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔

ایسی طرح کئی مرد بھی دوسرا عورت کو اپنے تابع کرنے کی غرض سے پلیدی عمل کا سہارا

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
یعنی یہ اس سے ان کا مقصد اپنے جنسی ارادوں کی بگیل ہوتا ہے۔

### علامات:

اگر کسی عورت نے کسی مرد پر سحر پلیدی کیا ہے اور اسے اپنے حیض و نفاس والے  
کپڑے کو پانی میں گھول کر یہ پانی اسے پلا یا ہے تو اس مرد پر سحر کا اثر ہو جاتا ہے وہ اس  
عورت کا تابع فرمان ہو جاتا ہے اس کی ہر جائز اور ناجائز بات مانتا ہے۔ اس پر ایک طرح  
کا نشہ سا سوار ہو جاتا ہے وہ اس عورت کے چکر میں دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اپنے دیگر کاموں کی  
طرف اس کا دھیان نہیں رہتا اگر کبھی عمل اثناء پڑھ جائے تو وہ مرد مختلف یا ماریوں میں  
بٹتا ہو جاتا ہے اور اسے دیوانگی کے دورے بھی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پا گلوں جیسی

درکات کرنے لگتا ہے۔

اگر کسی مرد نے عورت پر سحر کیا ہو تو بالکل یہی حالت عورت کی بھی ہو جاتی ہے۔ شرم  
وہی اس سے دور چلی جاتی ہے اس کا مزماج چڑچڑا ہو جاتا ہے۔

### شاخت:

ایسے مرد و عورت جن پر سحر پلیدی کیا گیا ہو ان کی شاخت کرنا نہایت آسان ہے۔  
وہ یہ کہ چونکہ ان کو کھانے پینے کی چیزوں میں پلیدی ڈال کر کھلا پلاوی جاتی ہے تو جہاں ان  
کے افعال و کردار پر اثر پڑتا ہے وہ ان کے کپڑوں اور گھر سے بھی تیز بوآتی ہے۔ ان سے  
بات کرنے والا یا ان کے گھر میں داخل ہونے والا شخص بآسانی اس بدبوکو محسوس کر لیتا ہے۔  
مگر جن پر سحر پلیدی کیا گیا ہو ان کو بدبوکو محسوس نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ بدبوکو ایسی فضا کے عادی  
ہو جاتے ہیں جبکہ دوسرے شخص کو ان کے گھر میں ان سے گفتگو کرتے ہوئے بعض اوقات  
متلی بھی ہو سکتے ہیں اور عجیب سی کیفیت طبیعت پر طاری ہو جاتی ہے۔

### علاج:

اس کا علاج کوئی مشکل نہیں ہے چاہیے کہ گھر کے تمام افراد اور متاثرہ مرد و عورت

جادوا و رجات سے آیات شفایہ ہیں۔  
 وَيَسْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۝ يَا إِيَّاهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ  
 مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَنِ فِي الصُّدُورِ طُهْرَةٌ وَرَحْمَةٌ  
 لِمُؤْمِنِينَ ۝ وَيَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلَوْانُهُ فِيهِ  
 شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۝ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ  
 لِمُؤْمِنِينَ ۝ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ۝ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا  
 طُهْرَةٌ وَشِفَاءٌ  
 هُدًى وَشِفَاءٌ

### مردو سحر پلیدی سے نجات دلانا

باوضوحات میں عرق گاب وزعفران سے ایک سفید کاغذ پر یہ لکھے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ  
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۝  
 السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيِّنَ الْبَلْطَةَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ السِّحْرِيْنَ ۝  
 بَطَلَ السِّحْرُ بِإِذْنِ اللَّهِ بَطَلَ السِّحْرُ بِإِذْنِ اللَّهِ بَطَلَ السِّحْرُ  
 بِإِذْنِ اللَّهِ ۔

اس کے بعد ان آیات کے نیچے ذیل میں دیا ہو ا نقش پاک لکھے اور سحر زدہ مرد کو دے کہ وہ اس کو اپنے دامنیں بازو پر باندھے۔ باندھنے سے قبل گیارہ مرتبہ معوذتمن کر دکر پانی پر دم کرے اور مرد کو پلاۓ۔ علاوہ ازیں مرد کو چاہیے کہ وہ روزانہ نماز مغرب کے بعد سات مرتبہ آیت الکریمی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے۔ ان شاء اللہ سحر پلیدی کے اثرات کا خاتمه ہو گا۔ نقش پاک اگلے صفحہ پر ہے۔

نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، زیادہ تر باوضور ہیں اور گھر میں قرآن کریم کی بلند آواز سے تلاوت کی جائے۔ اس مقصد کے لئے تلاوت والی کیسٹ بھی لگائی جاسکتی ہے۔ مگر چاہیے کہ تلاوت قرآن ادب و احترام سے سامعت کی جائے۔ متاثرہ مرد و عورت فارغ وقت میں تیراکلمہ پڑھتے ہیں اور بکثرت ورد کریں۔

سحر پلیدی کے خاتمے کا موثر عمل:

گھر سے پلیدی کے اثرات ختم کرنے کا ایک اور موثر عمل یہ ہے کہ اکیس یوم تک روزانہ بلا ناغہ نماز چبر کی ادائیگی کے بعد سورج طلوع ہونے سے قبل باوضوحات میں عزیز گلب و زعفران سے چینی کی پلیٹ پر آیات شفا لکھے اور اس کے نیچے ذیل میں دیا ہو ا نقش پاک لکھے اس کے بعد اسے عرق گلب سے دھو کر ایک بوتل یا کسی بھی برتن میں ڈالے۔ پانی گھر کے تمام افراد صحیح نہار مٹ پیں مگر باوضوحات میں پیس اور پینے سے قبل تین مرتبہ یہ پڑھیں۔

بِسْمِ اللَّهِ شَافِيْكَ كَفَيْعَضْ بِحَقِّ شَافِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حُمَّادُ رَسُولُ  
 اللَّهِ آیات شفا کے ساتھ لکھنے والا نقش یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	بِسْمِ اللَّهِ	الرَّحِيمِ	الرَّحْمَنِ	بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ	الرَّحِيمِ	بِسْمِ اللَّهِ	بِسْمِ اللَّهِ	الرَّحِيمِ
الرَّحِيمِ	بِسْمِ اللَّهِ	الرَّحْمَنِ	الرَّحِيمِ	بِسْمِ اللَّهِ
كَافِي	بِسْمِ اللَّهِ	شَافِيْ	بِسْمِ اللَّهِ	شَافِيْ
هَادِي	بِسْمِ اللَّهِ	بِاَقِ	بِسْمِ اللَّهِ	بِاَلِهَ
رَسُولُ اللَّهِ	مُحَمَّدٌ	رَسُولُ اللَّهِ	رَسُولُ اللَّهِ	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

بَابٌ:

89

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
کرنے سے ان شاء اللہ عورت کو حر پلیدی سے نجات مل جائے گی۔ نہایت مجرب و مفید  
اور آزمودہ عمل ہے۔ شفاء کے بعد حسپ تو فیق کھانا غرباء میں تقسیم کرے۔

### سحر سے رشتہ کی بندش

سحر و جادو کے زور پر جس کے رشتہ کی بندش کر دی گئی ہو جس کے باعث اس کی  
شادی نہ ہوتی ہو کوئی بھی رشتہ طے نہ ہوتا ہو تو باوضوحالت میں سورہ یسین کا نقش پاک عرق  
گلاب و زعفران سے لکھ کر گلے میں ڈالے۔ علاوہ ازیں روزانہ نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد  
ایک مرتبہ سورہ یسین پڑھ کر دعائیں گے۔ ان شاء اللہ جلد ہی سحر کا خاتمہ ہو گا ور جلد شادی بھی  
ہو جائے گی۔

۷۸۲

۶۶۳۳۸	۶۶۳۵۱	۶۶۳۵۳	۶۶۳۳۱
۶۶۳۵۳	۶۶۳۳۲	۶۶۳۳۷	۶۶۳۵۲
۶۶۳۳۳	۶۶۳۵۶	۶۶۳۳۹	۶۶۳۳۶
۶۶۳۵۰	۶۶۳۳۵	۶۶۳۳۳	۶۶۳۵۵

### جادو کے ذریعے بانجھ پن

جس عورت پر یہ جادو کر دیا گیا ہو کہ وہ اولاد پیدا نہ کر سکے۔ اس کا حمل قائم نہ رہے  
تاکہ وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہو۔ جسمانی طور پر وہ عورت بالکل ٹھیک ہو اس کے علاوہ کتنے

بسم اللہ الرحمن الرحيم

۶۶۳۷۷۷	۶۶۳۷۷۰	۶۶۳۷۷۵
۶۶۳۷۷۴	۶۶۳۷۷۳	۶۶۳۷۷۶
۶۶۳۷۷۵	۶۶۳۷۷۸	۶۶۳۷۷۷
۶۶۳۷۷۶	۶۶۳۷۷۹	۶۶۳۷۷۸
۶۶۳۷۷۷	ماہو من القرآن	وننزل لله رب المؤمنين

قل هوللذين أمنوا هدى وشفاء

### عورت کو سحر پلیدی سے نجات دلانا

اگر کسی مرد نے کسی عورت پر سحر پلیدی کا عمل کر دیا ہو تو چاہیے کہ نماز فجر کی اوایل  
کے بعد باوضوحالت میں سات مرتبہ سورہ فاتحہ بمعاصل بسم اللہ شریف تین مرتبہ سورہ فلن  
تین مرتبہ سورہ اخلاص، تین مرتبہ سورہ الناس، تین مرتبہ تیرا کلمہ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ  
یدروہ پاک پڑھے۔


اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَاهِرِينَ عَلَى أَعْدَاءِ سِحْرٍ  
وَالسَّاجِرِينَ بِلُظْفِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

پڑھنے کے بعد حمزہ پردم کرے اور پھر پانی پردم کر کے حمزہ کو پانی پلائے۔ یہی  
عمل نماز مغرب کی اوایل کے بعد بھی کرے۔ چالیس یوم تک روزانہ بلا ناغہ اس عمل کے

نے ایسا جادو کر دیا ہو کہ جس سے وہ عورت اولاد فرینہ پیدا نہ کر سکے۔ اس کے ہال مرف لڑکیاں ہی پیدا ہوں تو ان تمام صورتوں میں چاہیے کہ جب عورت حیض سے فارغ ہو جائے اور نقش کر لے تو باوضوحالت میں یہ نقش پاک ایک سفید کاغذ پر لکھ کر تعویذ کی طرح عورت کو دے کر وہ اپنے گلے میں ڈال لے اس کے علاوہ چینی کی پلیٹ پر اس نقش کو بنایا کر پانی سے دھو کر روزانہ عورت کو پلاۓ۔ خاوند سے ہمستری کے وقت عورت نقش والے تعویذ کو اپنے الگ رکھتے تاہم کہ بے ادبی نہ ہو۔ ان شاء اللہ جلد حمل قرار پائے گا۔ تعویذ کو اپنے پاس رکھ جبکہ چار ماہ تک روزانہ بلاناغہ نقش پانی سے دھو کر عورت کو پلایا جائے۔ بفضل باری تعالیٰ دلی مراد پوری ہوگی۔ اللہ رب العزت بانجھ پن کا خاتمہ کر کے اولاد کی نعمت سے نوازے گا اور اولاد نرمید حاصل ہوگی۔ جس نے بندش کے لیے جادو کرایا ہے اس جادو کا اثر زائل ہو جائے گا۔ نقش پاک یہ ہے۔

۸۶

۲۳۳۹	۲۳۳۳	۲۳۳۶	۲۳۳۲
۲۳۳۵	۲۳۳۳	۲۳۳۸	۲۳۳۴
۲۳۳۷	۲۳۳۸	۲۳۳۱	۲۳۳۷
۲۳۳۲	۲۳۳۶	۲۳۳۵	۲۳۳۷



کسی کو پریشان اور تنگ کرنے کی غرض سے ایسا عمل کروایا جاتا ہے کہ جس سے

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات

میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ طبیعت بوجہ محسوس کرتی ہے۔ کسی کی معمولی سی بات میں چڑچڑا اپنے چڑچڑا اپنے چڑچڑا اور گالی گالوچ کرنا اس کا معمول ہے۔ بھی برداشت نہیں ہوتی۔ ہر ایک سے لڑائی جنگلڑا اور گالی گالوچ کرنا اس کا معمول ہے۔ جب غصے کی شدت ہو تو ماں باپ اور بھائی بھنوں کی بھی پروانیں کرتا اور زبان جاتا ہے۔ جب غصے کی شدت ہو تو ماں باپ اور بھائی بھنوں کی بھی پروانیں کرتا اور زبان درازی کرتا ہے، چونکہ یہ سب کچھ سفلی عمل کے اثرات کے تحت ہوتا ہے اس لیے وہ بے بس اور مجبور ہوتا ہے۔ طبیعت کی بے سکونی سے چڑچڑا ہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے جادو کے خاتمے کی غرض سے باوضوحالت میں چہارشنبہ کو نماز فجر کے بعد عرق گاب و مشک ہے ذیل میں دیا ہوا نقش پاک تین عدد لکھ ایک نقش تعویذ مریض کے گلے میں ڈالے ہو دسر ا نقش پانی سے دھو کر مریض کو پلاۓ جبکہ تیسرا نقش اس جگہ دیوار کے ساتھ چسپاں کر دے کہ جہاں مریض آرام کرتا ہے۔ اس کی برکت سے ان شاء اللہ تعالیٰ جادو کے اثرات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میزان سے چڑچڑا پن ختم ہو جائے گا۔ اور راحت و سکون محسوس ہو گا۔ اس مقصد کے لئے یہ نہایت سریع الاثر نقش پاک ہے۔ نقش یہ ہے۔

۸۲

۲۳۳۹	۲۳۳۳	۲۳۳۶	۲۳۳۲
۲۳۳۵	۲۳۳۳	۲۳۳۸	۲۳۳۴
۲۳۳۷	۲۳۳۸	۲۳۳۱	۲۳۳۷
۲۳۳۲	۲۳۳۶	۲۳۳۵	۲۳۳۷

## سحر اثر نہ کرہے

جو یہ چاہے کہ وہ بذریعہ سحر کی بیماری کا شکار نہ ہو اور سحر اس پر اثر انداز نہ ہو تو وہ باوضوحالت میں نماز عصر کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ بلد پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے اور پھر خوبیوں کا عرق گلاب وزعفران سے سورہ بلد کا عدد نقش لکھ کر گلے میں ڈال لے ان شاء اللہ اس پر سحر اثر نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ اس مقصر کے لئے یہ نہایت موڑ آزمودہ نقش ہے۔

۷۸۶

۶۰۷۰	۶۰۷۳	۶۰۷۷	۶۰۷۴
۶۰۷۶	۶۰۷۴	۶۰۷۹	۶۰۷۲
۶۰۶۵	۶۰۷۹	۶۰۷۱	۶۰۶۸
۶۰۷۲	۶۰۶۷	۶۰۶۶	۶۰۷۸

## جادو کے زور پر ہلاک کر دینا

سفلی عمل کے ذریعے بعض دشمن کسی کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے اور ایسا عمل کرواتے ہیں کہ جس سے انسان کے جسم کے ساتوں سوراخوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جس پر یہ عمل کیا گیا ہوا اس کی حالت بہت عجیب ہو جاتی ہے اس کی جسمانی قوت چند دنوں میں انہتمائی کمزور ہو جاتی ہے وہ کچھ کھاپی نہیں سکتا چونکہ سفلی علم کے زور پر اس کے جسم کے سوراخوں کو بند کر دیا گیا ہوتا ہے اس لیے وہ رفتہ رفتہ موت کی طرف

آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سوائے روئے اور چیخ و پکار بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سوائے روئے اور چیخ و پکار کے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ واکٹروں کو دکھانے پر انہیں بھی اسکی بیماری کی سمجھ نہیں آتی کیونکہ یہ سفلی عمل ہے جس کے اثرات سے اس کی جان جا سکتی ہے۔ اس لیے ایسی صورت حال میں فوری طور پر باوضوحالت میں عرق گلاب وزعفران سے یہ نقش پاک چار عدد ایک سفید کاغذ پر کاٹھے۔ ایک نقش مریض کو تعویذ کی طرح گلے میں پہنایا جائے۔ دوسرا نقش پانی سے بھری ہوئی بوتل میں ڈال دیا جائے اور اس پانی کو مریض پیتا رہے اگر مریض خود نہ پی سکے تو کوشش کر کے چمچے کے ساتھ اس پانی کو اس کے منہ میں ڈالا جائے تیسرا نقش مریض کے بستر کے سامنے دیوار پر اس طرح چپاں کیا جائے کہ مریض کی نظر اس پر پڑتی رہے جبکہ چوتھا نقش اس کے سرہانے تکیے میں رکھ دیا جائے۔ ان شاء اللہ چند دنوں میں ہی مریض کو افادہ محسوس ہو گا۔ اور جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنی حفظ و امان میں رکھے گا اور اس کی جان بچ جائے گی رفتہ رفتہ صحت یابی ہو گی۔ جادو کے زور پر کسی کی ہلاکت کو روکنے اور سفلی عمل کے خاتمه کے لیے یہ نقش نہایت پر اثر ہے۔ مجرب اور آموزدہ ہے۔

۷۸۲

۶۳۱۳۷	۶۳۱۵۱	۶۳۱۵۳	۶۳۱۳۰
۶۳۱۵۳	۶۳۱۳۱	۶۳۱۳۶	۶۳۱۵۲
۶۳۱۳۲	۶۳۱۵۲	۶۳۱۳۹	۶۳۱۳۵
۶۳۱۵۰	۶۳۱۳۳	۶۳۱۳۵	۶۳۱۵۵

## کالا جادو سے جسم میں سویاں چھپنا

باب: ۲

۱۳۳۱

۱۳۲۶

۱۳۲۰

۱۳۲۵

۱۳۱۸

۱۳۳۰

۱۳۲۹

۷۸۲

۱۳۱۶

۱۳۲۸

۱۳۲۳	۱۳۲۷	۱۳۳۰	۱۳۱۶
۱۳۲۹	۱۳۲۱	۱۳۲۲	۱۳۲۸

۱۳۱۹

۱۳۲۰

۱۳۲۴

۱۳۳۱

## سحر بندش زناح و شادی

اس سحر سے مراد یہ ہے کہ سفلی عمل کے ذریعے لڑکی یا لڑکے کا رشتہ باندھ دیا جاتا ہے اور شادی نہیں ہو پاتی۔ لڑکی یا لڑکے کی عمر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے مگر کہیں بھی رشتہ نہیں ہوتا جس کے باعث گھروالے بہت پریشان رہتے ہیں۔ عمل سحر کے ذریعے رشتہ کی ایسی بندش کر دی جاتی ہے کہ اچھی بھلی شکل و صورت والی لڑکی کا رشتہ بھی کہیں نہیں ہو پاتا، اگر کبھی بندش کر دی جاتی ہے تو وہ پسند نہیں کرتے اور مختلف بہانوں سے رشتہ ٹھکرایا جاتے ہیں لڑکے والے دیکھنے آجائیں تو وہ پسند نہیں کرتے اور بعض بچیاں رشتہ نہ ہونے کے باعث گھر بیٹھی بیٹھی بوزھی اس طرح وقت گز رتا رہتا ہے اور بعض بچیاں رشتہ نہ ہونے کے ساتھ ہی سات ہو جاتی ہیں۔ بہت ظالم اور سنگدل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بچوں بچیوں کی شادی میں ہو جاتی ہیں۔ رکاوٹ ڈالنے کے لئے سفلی عمل کرواتے ہیں۔ ماں باپ سے کسی بعض و عناد کے باعث رکاوٹ ڈالنے کے لئے سفلی عمل کرواتے ہیں کہ جس سے نہ صرف بچوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے بلکہ اس طرح کا جادوئی عمل کرواتے ہیں کہ اثرات زائل ہو جائیں گے اور آرام آجائے گا۔ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ ہے نقش ان کے والدین بھی پریشانی اور راذیت میں بتلا رہتے ہیں۔ اس طرح سفلی عمل سے نجات اور شتوں کی رکاوٹ و بندش کے خاتمے کے لیے بزرگان دین نے بہت سے مجبوب، آزمودہ اور سریع الاثر طریقے بتائے ہیں۔ جن میں سے چند نہایت موثر طریقوں کا ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔

### لڑکے یا لڑکی کے رشتے کی بندش توڑنا:

یہ عمل لڑکے یا لڑکی دونوں کے رشتے کی بندش توڑنے کے لئے بہت ہی خوب ہے۔ اس کا آغاز چاند کے مہینے کے تیرے بدھ، جعرات، یا ہفتہ کو اس طرح کریں کہ لڑکے یا لڑکی کا پہننا ہوا لباس لے کر اس میں سوا کلوکا لے ماش، سوا چھٹا نک سیندھور، سات عدوںگ، سات عدد کالی مرچیں، سات عدد دار چینی کے ٹکڑے رکھیں اور اکیس مرتبہ سورہ طا اور اکیس مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیں اور اس کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دیا جائے جہاں

بایب: کپڑے مکوڑے ہوں تاکہ وہ اس کو لھا جائیں جیسے جیسے کپڑے مکوڑے اس کو لھا جائیں کے حرج کا اثر تو منا شروع ہو جائے گا۔

اس کے بعد نہر یاد ریا سے پانی لا کر اس پر ایک مرتبہ سورہ طہ، گیارہ مرتبہ سورہ فلق، گیارہ مرتبہ سورہ ناس، گیارہ مرتبہ سورہ کافرون اور گیارہ مرتبہ سورہ الناس پڑھ کر مکمل خاتمه کرے۔ اس پانی میں مزید گھر کا پانی ملائے اور لڑکی یا لڑکے کو دے کہ وہ اس سے غسل کرے۔ غسل کے بعد سحر زدہ کے لئے تحوزہ اس اسالص شہد لے کر اس پر ایک مرتبہ گلہ طیب اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحيم، اکیس مرتبہ تیرا کلمہ، اکیس مرتبہ یا اسلام، اور اکیس مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر دم کرے پھر سحر زدہ کے سینے پر بھی دم کرے اور اس کو یہ شہد چانے کے لئے دے۔ اس کے بعد سبز ریشمی کپڑے کے نکٹے پر عرق گلاب، زعفران اور مشکر سے سورہ طہ کا نقش بنائے۔

### یا جبرایل ۷۸۶ یامیکا سیل

۹۹۸۲۰	۹۹۸۲۳	۹۹۸۲۷	۹۹۸۲۳
۹۹۸۲۶	۹۹۸۱۲	۹۹۸۱۹	۹۹۸۲۲
۹۹۸۱۵	۹۹۸۲۹	۹۹۸۲۱	۹۹۸۱۸
۹۹۸۲۲	۹۹۸۱۷	۹۹۸۱۲	۹۹۸۲۸

### یا اسرائیل ۷۸۶ فلاں بنت فلاں سحر و بندش دفع شود یا عزرائیل

اس پر اکیس مرتبہ سورہ طہ اکیس مرتبہ آیت الکرسی، اور اکیس مرتبہ معوذتین پڑھ

باجو: ۹۷  
جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
کردم کرے اور تعویذ کی طرح لڑکی یا لڑکے کے گلے میں ڈال دے۔ اسکے بعد باوضو  
حالت میں اکیس مرتبہ سورہ طہ اکیس مرتبہ آیت الکرسی، اور اکیس مرتبہ معوذتین پڑھ  
کر پانی پر دم کرے اور صبح نہار منہ اور رات کو سونے سے قبل بسم اللہ اقطع  
السحر بحرمت سورہ طہ۔ آیت الکرسی اور معوذتین کہہ کر پی لیا کرے۔ یہ  
پانی روزانہ اسی طرح اکتا لیں یوم تک دم کر کے پی لیا جائے۔ ان شاء اللہ سحر کا مکمل خاتمه  
ہو جائے گا۔ اور جلد ہی شادی بھی ہو جائے گی۔

### شادی میں رکاوٹ کا فوری خاتمه

شادی میں رکاوٹ کے فوری خاتمه کے لئے باوضو حالت میں قبلہ رخ ہو کر عرق  
گلاب و زعفران سے یہ نقش پاک لکھے۔

### یا جبرایل ۷۸۶ یامیکا سیل

۳۷۲۰۲	۳۷۲۱۰	۳۷۲۱۳	۳۷۱۹۹
۳۷۲۱۲	۳۷۲۰۰	۳۷۲۰۵	۳۷۲۱۱
۳۷۲۰۱	۳۷۲۱۵	۳۷۲۰۸	۳۷۲۰۳
۳۷۲۰۹	۳۷۲۰۳	۳۷۲۰۲	۳۷۲۱۲

### یا اسرائیل

لکھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ فتح پڑھ کر سحر زدہ کے گلے میں تعویذ کی طرح ڈالے۔  
اس کے بعد ایک سفید کاغذ پر سورہ حشر کی آخری تین آیات مبارکہ لکھنے اور ان کو پانی کی

بُوْلَ مِنْ ذَالِ دَيْ - پھر اس پانی پر سورہ حشر کی آخری آیات مبارکہ سات مرتبہ پڑھ کر  
کرے -

**هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ  
الرَّحِيمُ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَمُ  
الْمُؤْمِنُ الْمُهَمَّنُ الْعَزِيزُ الْجَبَارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَنَ اللَّهُ عَلَيْهَا  
يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَنْسَاءُ الْحُسْنَىٰ  
يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝**

یہ پانی سات یوم تک سحر زدہ پیئے - ساتویں دن نقش اور سورہ حشر کی آخری آیات  
پھر اسی طرح لکھ کردم کر کے پانی تیار کرے اور پینے کے لیے دے - اسی طرح اتنا لیں  
یوم تک یہ عمل کرے -

اسکے ساتھ ہی لڑکے یا لڑکی کو چاہیے کہ وہ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں اور ہر نماز کے  
بعد گیارہ مرتبہ آیت الکرسی اور گیارہ مرتبہ موعودتین اس طرح پڑھیں کہ اول و آخر گیارہ  
مرتبہ دردابراہیکی پڑھیں اور پھر بارگاہ الہی میں دعا مانگیں ان شاء اللہ اکتا لیں یوم کے عمل  
سے شادی کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی اور جلد شادی ہو جائے گی - مگر لڑکی اور لڑکے کو لازم  
ہے کہ وہ نماز پنجگانہ کی پابندی رکھیں نہایت موثر آزمودہ عمل ہے -

### ضروری نوٹ:

حر کے ذریعے رشتہ کی بندش کا پتہ چلانے کے لئے چاہیے کہ پہلے سحر زدہ میں  
علمات کا جائزہ لیا جائے یعنی جس پر حر کیا گیا ہوا اس کی حالت کے بارے میں پوچھ کر  
حر ہونے صورت میں ہر وقت سر میں درد کی شکایت رہتی ہے۔ کمر سے نچلے حصے میں ہلاکا ہلا  
درد رہتا ہے۔ مزاج میں چڑچڑا پن ہو جاتا ہے۔ عصر سے رات کے تک سینے میں شدید  
گھسنی گھسوں ہوتی ہے۔ اور عجیب قسم کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ نیند ٹھیک طرح سے نہیں

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
آل۔ بے چینی رہتی ہے۔ پیشتاب یا پا خانہ سخت بد بودار ہو جاتا ہے۔

## سحر انتیش

یہ ایک ایسا جادوئی عمل ہے جس کے ذریعے سے دوسرے انسان کو بخار میں  
بتا کر دیا جاتا ہے اور کبھی بھی علاج سے بخار نہیں اترتا۔ مریض ہر وقت بخار کی حرارت  
کے تپتا رہتا ہے کچھ بھی کھانے پینے کو دل نہیں کرتا۔ دن بدن کمزوری ہوتی جاتی ہے۔  
اور بسم لا غر اور نہ حال ہو جاتا ہے۔ اس سحر انتیش کا اگر جلد علاج نہ کیا جائے آمریض سحر  
کے اثر سے رفتہ رفتہ موت کے منہ میں بھی جا سکتا ہے۔ لہذا اس سحر سے نجات کے چند سرعی  
الاٹر اور آزمودہ علاج ذیل میں لکھے جاتے ہیں تاکہ خلقِ خدا ان سے مستفید ہو سکے۔

### سحر انتیش کا شافی علاج:

نماز فجر کی ادا یگی کے بعد باوضوح حالت میں اکتا لیں مرتبہ سورہ فاتحہ اکتا لیں مرتبہ  
آیت الکرسی اور اکتا لیں مرتبہ معاوذتین پڑھ کر پانی پر دم کرے اور مریض کو یہ پانی دن  
میں کئی بار پلاۓ۔ اکیس یوم تک روزانہ بلاناغہ یہ عمل کرے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ بخار سے  
شفا حاصل ہو گی۔

### سحر انتیش کا آزمودہ علاج:

عرق گلاب وزعفران سے ذیل میں دیا ہو نقش پاک لکھ کر پانی کی بُوْل میں ذال  
دیں اس کے بعد اکیس مرتبہ آیت الکرسی اور اکیس مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھیں۔  
**يَمْعَشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ  
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَنْفُذُوا مَلَأَ تَنْفُذُونَ إِلَّا إِسْلَطْنَ**  
پڑھنے کے بعد پانی والی بُوْل پر دم کریں۔ یہ پانی دن میں کئی مرتبہ مریض پی  
لیا کرے اور پینے سے قبل ایک مرتبہ دردابراہیکی پڑھا کرے۔ علاوه ازیں اس پانی سے

باجادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات 101  
دن میں پانچ مرتبہ مریض کے چہرے پر صحیحیتیں لگائیں۔ ان شاء اللہ چند یوم میں تک رسی اکتا لیس مرتبہ، سورہ الناس اکتا لیس مرتبہ آیات شفاء پڑھ کر دم کریں اور صبح و شام سے نجات حاصل ہوگی اور مکمل طور پر آرام آجائے گا۔ نقش پاک یہ ہے۔  
مریض کی اس سے ماش کریں۔

۷۸۲

۲۰۸۵	۲۰۸۸	۲۰۹۱	۲۰۷۷
۲۰۹۰	۲۰۷۸	۲۰۸۳	۲۰۸۹
۲۰۷۹	۲۰۹۳	۲۰۸۲	۲۰۸۳
۲۰۸۷	۲۰۸۲	۲۰۸۰	۲۰۹۲

اس کے بعد مریض کے لئے دم والا پانی تیار کریں پانی کی بوعش لے کر اس پر ۷۸۲ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحيم، ۱۲۱ مرتبہ الحجی القیوم، ۱۱۱ مرتبہ یاشافی یا کافی، ۹۹ مرتبہ آیہ الکرسی اور ۹۹ مرتبہ سورہ الناس پڑھ کر دم کریں۔ اور مریض جب بھی یہ پانی پینے تیسرا کلمہ پڑھ کر پیا کرے۔ ان شاء اللہ چند دنوں میں ہی افاقہ ہو گا اور سحر کے اثرات کا خاتمه ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت شفاء عطا فرمائے گا۔ اس مقصد کے لیے نہایت آزمودہ عمل ہے۔

## سحر لقوہ کا ایک اور روحانی علاج

سحر کے خاتمے کی غرض سے مریض کے لیے پینے کا پانی اس طرح تیار کریں کہ نمانے باوضوحالت میں عرق گلاب و زعفران سے سفید کاغذ پر نقش پاک لکھیں۔ فجر کی اوایل کے بعد باوضوحالت میں اول و آخر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے غرباء و مساکین میں حسب توفیق صدقہ خیرات دلائیں اس کے بعد کلونجی کا تیل لے کر اس پر اکتا لیس مرتبہ سورہ فاتحہ معہ بسم اللہ، اکتا لیس مرتبہ، سورہ اخلاص، اکتا لیس مرتبہ آیت

۲۱۶۸	۲۱۷۱	۲۱۷۵	۲۱۶۱
۲۱۷۳	۲۱۶۲	۲۱۶۷	۲۱۷۲
۲۱۶۳	۲۱۷۷	۲۱۶۹	۲۱۶۶
۲۱۷۰	۲۱۶۵	۲۱۶۳	۲۱۷۲

## سحر لقوہ

اگر جادو یعنی سفلی عمل کے ذریعے کسی پر ایسا جادو کیا گیا ہو کہ جس سے چروں گیا ہوا اور لقوہ کی حالت ہو گئی ہو۔ اکثر منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہو تو اس صورت میں سحر کے اثرات کا خاتمہ کے لیے درج ذیل روحانی علاج نہایت مفید و موثر ہے۔

### سحر لقوہ کا شافی علاج:

باوضوحالت میں عرق گلاب و زعفران سے سفید کاغذ پر نقش پاک لکھیں۔ یہ نقش مریض کے گلے میں ڈالیں یا اس کے بازو پر باندھیں، پھر اس کے ہاتھے غرباء و مساکین میں حسب توفیق صدقہ خیرات دلائیں اس کے بعد کلونجی کا تیل لے کر اس پر اکتا لیس مرتبہ سورہ فاتحہ معہ بسم اللہ، اکتا لیس مرتبہ، سورہ اخلاص، اکتا لیس مرتبہ آیت

پانی تیرا کلمہ پڑھ کر پی لیا کرے۔

اس کے بعد کلوچی کے تیل پر اسی طرح یہ سورہ مبارکہ اور درود شریف پڑھ کر اس مقصود کے لئے نماز عصر کی ادائیگی کے بعد باوضوحالت میں قابہ رُخ بینہ کر خوشبو کریں اور عرق گاب و زعفران سے یہ نقش پاک لائیں۔

### بسم اللہ الرحمن الرحيم

۵۵۳۵۲	۵۵۳۵۰	۵۵۳۵۸	۵۵۳۳۵
۵۵۳۵۷	۵۵۳۳۶	۵۵۳۵۱	۵۵۳۵۲
۵۵۳۳۷	۵۵۳۶۰	۵۵۳۵۳	۵۵۳۵۰
۵۵۳۵۳	۵۵۳۳۹	۵۵۳۳۸	۵۵۳۵۹

لِيَسْ وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ

اس کی نقش کی پشت پر یہ نقش بنائیں۔

۲۲۶۴۳۷۷۷	۲۲۶۴۳۷۷۰	۲۲۶۴۳۷۵۷
۲۲۶۴۳۷۷۲	۲۲۶۴۳۷۷۳	۲۲۶۴۳۷۷۶
۲۲۶۴۳۷۷۳	۲۲۶۴۳۷۷۸	۲۲۶۴۳۷۷۱

وَمَا هُوَ إِلَّا شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
اس کے بعد مومن جامد کر کے تعویذ کی طرح مریض کے گئے میں ذائقہ یا اس کے بعد  
بائندھیں اور اس کے ہاتھ سے غرباً و مساکین میں صدقہ خیرات تقسیم کروائیں۔ ان شاء  
الله تعالیٰ آئیں یوم کے اندر اندر سحر کے اثرات کا خاتمہ ہو جائے گا اور شفا کا ماء حاصل ہو گی۔

### سحر سے بیماری

جس کو سحر کے زور پر بیماری میں جتنا کردیا گیا ہو تو وہ باوضوحالت میں ہر قیمت ہا ب د  
زعفران سے سورہ ناس کے دو دو دین نقش لکھتے ایک نقش مریض کے گئے میں ذائقہ  
اور دوسرا نقش پانی میں گھول کر مریض کو روزانہ پائائے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ سحر کے اثرات  
کا خاتمہ ہو گا اور شفا کے کامل حاصل ہو گی۔ تجربہ آزمودہ نقش ہے۔

۷۸۲

۱۳۲۳	۱۳۲۷	۱۳۳۰	۱۳۱۲
۱۳۲۹	۱۳۱۷	۱۳۲۲	۱۳۲۸
۱۳۱۸	۱۳۲۳	۱۳۲۵	۱۳۲۱
۱۳۲۲	۱۳۲۰	۱۳۱۹	۱۳۳۱

### سحر الفرج

یہ وہ سحر ہے کہ سفلی عمل کے ذریعے مرد یا عورت کی شرم گاہ کو خارش میں جتنا  
کر دیا جاتا ہے۔ اور پوشیدہ مقامات پر بہت شدید خارش کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جس کے

باعث دوسروں کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے۔ مگر چونکہ یہ ححر کے اثرات کے باعث ہوتا ہے اور اس لیے خارش کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ ساحر کا روحاں علاج بزرگان دینے کی نہایت آسان بتایا ہے جو کہ درج ذیل ہے۔

### روحانی علاج:

باوضوحالت میں عرقِ گلاب و زعفران سے ذیل میں دیا ہوا نقشِ دو کی تعداد میں ہے کریں ایک نقش پانی کی بوالی میں ڈال کر اس پر گیارہ مرتبہ آیتِ الکرسی، اکیس منزہ تیراں کلہ، اور اکتا لیس مرتبہ سورہ والناس پڑھ کر دم کریں یہ پانی صبح نہار منہ اور رات کو منہ کی نماز ادا کرنے کے بعد مریض چند گھونٹ پلے جبکہ دوسرا نقش مریض اپنے گئے ڈالے۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۳۸۷۴	۳۸۷۷	۳۸۸۱	۳۸۶۷
۳۸۸۰	۳۸۶۸	۳۸۷۳	۳۸۷۸
۳۸۶۹	۳۸۸۳	۳۸۷۵	۳۸۷۲
۳۸۷۶	۳۸۷۱	۳۸۷۰	۳۸۸۲

### سحرخموں

یہ سحر کی ایسی قسم ہے کہ جس کے اثرات سے انسان پر ہر وقت کا بھی اور ستی چھائی رہتا ہے وہ بجوم میں آنے سے گھبرا تا ہے۔ ہر وقت پریشان رہتا ہے تہائی پسند ہو جاتا ہے، کسی سے زیادہ گفتگو نہیں کرتا، کڑھتا رہتا ہے۔ بغیر کسی وجہ کے وہ یکدم بیزار اور اچاث سا ہو جاتا ہے۔ اسے اپنی اس حالت پر اختیار نہیں رہتا۔ اس سحر سے نجات کے لیے بزرگان دین نے جو روحانی عمل بتایا ہے وہ نہایت موثر اور سریع الاثر ہے۔

مریض یا مریضہ رات کو سونے سے قبل گیارہ مرتبہ آیتِ الکرسی اسی طرح پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے کہ جہاں پر یوہ دُه حفظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ آئے اس کو گیارہ مرتبہ پڑھے اور گیارہ مرتبہ سورہ والناس پڑھے اول و آخر دو را براہی می پڑھے یہی عمل نمازِ فجر کی اویسگی کے بعد بھی کرے۔ ان شاء اللہ چند دنوں میں ہی شفایا بی ہوگی۔

باعث: ۲۰۵

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات

۷۸۶

۲۲۱۸۸	۲۲۱۹۱	۲۲۱۹۵	۲۲۱۸۱
۲۲۱۹۳	۲۲۱۸۲	۲۲۱۸۷	۲۲۱۹۳
۲۲۱۸۳	۲۲۱۹۷	۲۲۱۸۹	۲۲۱۸۲
۲۲۱۹۰	۲۲۱۸۵	۲۲۱۸۳	۲۲۱۹۶

سحرخموں سے نجات:

سب سے پہلے مریض کے لیے نقش اس طرح تیار کریں کہ باوضوحالت میں عرق گلب و زعفران سے نقش لکھیں۔

۷۸۶

۲۱۶۹	۲۱۷۲	۲۱۷۵	۲۱۶۱
۲۱۷۳	۲۱۶۲	۲۱۶۸	۲۱۷۳
۲۱۶۳	۲۱۷۶	۲۱۷۰	۲۱۶۷
۲۱۷۱	۲۱۶۶	۲۱۶۴	۲۱۷۵

اس نقش پاک کی پشت پر درج ذیل نقش پاک تحریر کریں۔

۷۸۶


۱۳۲۳	۱۳۲۷	۱۳۳۰	۱۳۱۲
۱۳۲۹	۱۳۱۷	۱۳۲۲	۱۳۲۸
۱۳۱۸	۱۳۳۲	۱۳۲۵	۱۳۲۱
۱۳۲۶	۱۳۲۰	۱۳۱۹	۱۳۳۱

نقش مریض کے گلے میں ڈالیں اور اس کے ہاتھ سے حسب توفیق صدقہ و خیرات

دوائیں اور اسے تلقین کریں کہ وہ بسم اللہ کافی بسم اللہ شافی بکثرت پڑھتا رہے۔ اس کے بعد مریض کے پینے کے لیے پانی تیار کریں۔ باوضوحالت میں ۱۱۱ مرتبہ آیہ اکدی، ۱۲۱ مرتبہ آیات شفا، ۱۲۱ مرتبہ سورہ والناس پڑھ کر پانی پر دم کریں اس پانی سے مریض غسل کرے اور دن میں کئی مرتبہ پی لیا کرے۔ پیتے وقت تیراکلمہ پڑھے، اس کے علاوہ مریض نماز پنجگانہ باجماعت پڑھنے کی پابندی کرے اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ آیہ اکدی اور تین مرتبہ سورہ والناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ چالیس یوم کے اندر اندر سحر کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ طبیعت بہتر ہو جائے گی اور عمولات زندگی درست ہو جائیں گے۔ نہایت موثر و آزمودہ عمل ہے۔

۷۸۶

۱۲۶۳۷۹	۱۲۶۳۸۲	۱۲۶۳۸۵	۱۲۶۳۸۱
۱۲۶۳۸۳	۱۲۶۳۷۲	۱۲۶۳۷۸	۱۲۶۳۸۳
۱۲۶۳۷۳	۱۲۶۳۸۷	۱۲۶۳۸۰	۱۲۶۳۷۷
۱۲۶۳۸۱	۱۲۶۳۷۲	۱۲۶۳۷۳	۱۲۶۳۸۶



سحر کی اس قسم میں انسانی جسم کے کچھ اعضاء یا سارا جسم مخلوق ہو جاتا ہے ڈاکٹری علاج کے باوجود مریض کو افاقہ نہیں ہوتا سحر کے اثرات کے باعث علاج کرنے والوں

باجو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات کو بالکل سمجھ نہیں آتی کہ علاج کا ثابت اثر کیوں نہیں ہو رہا۔ ایسے مریض کا روحاں علاج مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے، جو نہایت فائدہ مند اور شفاء کا باعث ہے۔

### سحر المفلوج کا مؤثر علاج:

نمایز فجر کی ادائیگی کے بعد باوضوحات میں چینی کی پلیٹ پر عرق گلاب و زعفران سے یہ نقش پاک لکھئے۔

### جبرائیل بسم اللہ الرحمن الرحیم میکائیل

۸۸۵	۸۷۸	۸۸۳
۸۸۰	۸۸۲	۸۸۲
۸۸۱	۸۸۶	۸۷۹

### اسرافیل بسم اللہ الرحمن الرحیم عزرائیل

اس نقش کو خالص شہد ملے پانی سے دھو کر مریض کو صبح و شام بسم اللہ شافی و کافی رد سحرِ المفلوجہ بحقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پلا بھیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلے صفحہ پر موجود نقش لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں یا اس کے بازار پر باندھیں۔

علاوہ اذیں مریض کی ماش کے لیے کلونجی کا تیل لے کر اس پر گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ معہ بسم اللہ، گیارہ مرتبہ آیات شفا، گیارہ مرتبہ آیت الکری، گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص، گیارہ مرتبہ سورہ والناس اور گیارہ مرتبہ تیرا کلمہ پڑھ کر دم کریں۔ اس تیل سے مریض کی صبح و شام ماش کی جائے۔

### سحر سام سے خلاصی:


اس مقصد کے لیے باوضوحات میں مریض کو روزانہ پینے کے لیے اس طرح پانی دم

باجو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
حضری، اور تین مرتبہ تیرا کلمہ پڑھ کر دم کر کے کھلایا جائے، ان شاء اللہ تعالیٰ دونوں میں افاقت ہو گا۔ اور حرج کے اثرات کا خاتمہ ہوتے ہی مریض صحت یا بہو جائے گا۔ بہت سے لوگوں کا آزمودہ اور مفید عمل ہے۔

### بسم اللہ الرحمن الرحیم

ش	ا	ف	ی
۸۱	۹	۳-۱	شفا
۹	۷۸	۳-۲	
۲	۳-۳	۷	۷۹

صدور قومِ مومنین و شفاء لماف الصدور



سحر سام سے خلاصی:  
سحر کی اس قسم میں جادوی عمل کے ذریعے انسان کے دماغ پروار کیا جاتا ہے جس کے باعث دماغ کی وجہیوں کے درمیان اچانک ٹیسوں کے ساتھ ورم کی شکایت ہو جاتی پر باندھیں۔  
سحر کی اس قسم میں جادوی عمل کے ذریعے انسان کے دماغ پروار کیا جاتا ہے جس کے باعث دماغ کی وجہیوں کے درمیان اچانک ٹیسوں کے ساتھ ورم کی شکایت ہو جاتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس جگہ پر آگ بھردی گئی ہو۔ اس سے دماغ میں شدید جلن ہوتی ہے اور بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس کا روحاں علاج صب ذیل ہے۔

اس مقصد کے لیے باوضوحات میں مریض کو روزانہ پینے کے لیے اس طرح پانی دم

کر کے دیں کہ گیارہ مرتبہ درود شریف، اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد بعد دل ذرۃ مائۃ الف الف مرۃ و بارک و سلم پڑھیں اور پانی پر دم کر لیں مریض یہ پانی دن اور رات میں جب بھی پئے بسم اللہ شافی و نجیتہ السعمر السر بحق سورہ الم نشرح کہہ کر پیٹے اکیس روز تک روزانہ بلانا غمہ اس طرح پانی پی لے اس کے علاوہ کچھ سوت کے سیاہ اور سرخ رنگ کے نوتار لے کر ان کی ڈوری ز بنا میں اور ان پر اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ اور دیا ہوا درود شریف پڑھیں اور سورہ الم نشرح اس طرح پڑھیں کہ اس میں جب بھی حرف ک آئے جیسے الم نشرح لک (اس ہر ڈوری میں ایک گرہ لگائیں) صدر ک (یہاں دوسری گرہ لگائیں) اس طرح پوری سورت پڑھتے ہوئے جہاں پر ک آئے وہاں گرہ لگائیں۔ اس کے بعد گیارہ مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اسی پر دم کریں اور یہ ڈوری مریض کے گلے میں ڈال دیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اکیس یوم کے اندر اندر آرام آجائے گا۔ اور سحر کے اثرات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ نہایت سریع الاثر اور آزمودہ ہے۔

## سحر سام کا ایک اور روحانی علاج

باوضوحالت میں قبلہ رخ بیٹھ کر عرق گلاب وزعفران سے ایک سفید کاغذ پر یہ آیت مبارکہ لکھیں۔

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَأَنْصُرُوهُ إِلَهَتُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فِعْلِينَ قُلْنَا يَا نَازْ كُونْنِي بَزْ دَاؤَ سَلَّى۔

لکھنے کے بعد یہی آیت مبارکہ اکتمہ مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کریں۔ پھر اکتمہ مرتبہ آیت الکرسی اور اکتمہ مرتبہ تیرا کلمہ پڑھ کر دم کریں اور تعویذ کی طرح مریض کے سر پر باندہ دیں مریض جب گھر سے باہر جائے تو اسے اس سے اتار کر اپنے گلے میں ڈال لے۔ اس کے علاوہ روزانہ نماز فجر کے بعد سات مرتبہ سورہ غنکبوت پڑھ کر مریض کے

بادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
سراپر دم کریں۔ نماز مغرب کے بعد بھی اسی طرح دم کریں۔  
اس کے ساتھ مریض کے روزانہ پینے کے لیے پانی اس طرح تیار کریں کہ باوضوح  
حالت میں اکیس مرتبہ آیت الکرسی، اکیس مرتبہ آیات شفاف، اکیس مرتبہ سورہ والناس، تین  
سو مرتبہ ایم باری تعالیٰ یا مقصیط اور اول و آخر اکیس اکیس مرتبہ درود شفاف پڑھ کر پانی  
پر دم کریں۔ مریض پانی صبح و شام بسم اللہ شافی و نجیتہ السعمر بحق  
پر دم کریں۔ مریض پانی صبح و شام بسم اللہ شافی و نجیتہ السعمر بحق  
یا مقصیط پڑھ کر پی لیا کرے۔ اکیس یوم کے اس میں سے ان شاء اللہ خدا حاصل ہوگی۔  
شفاف کے حصول کے لیے یہ نہایت سریع الاثر عمل ہے۔

## سحر پستان

سحر کی اس قسم میں جس عورت کو تکلیف میں مبتلا کرنا مقصود ہواں کا پتا لانا کر اس کے  
پستانوں پر جادوئی عمل کیا جاتا ہے۔ پتلے پر عورت اور اس کی والدہ کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے  
اور گرہیں سی باندھ دی جاتی ہیں۔ سفلی عمل کرنے کے بعد اس پتلے کو اگر چوبے کے پاس  
یا کسی آگ کے مقام پر فون کر دیا جائے اس سے عورت کے پستانوں میں ہر وقت پیش  
اور شدید خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر عورت کے اس پتلے کو کسی گیلی یا نم والی جگہ  
پر فون کر دیا جائے تو عورت کے پستانوں میں پیپ بھرے چھالے سے محسوس ہوتے ہیں  
جس سے ٹیسیں اٹھتی ہیں اور عورت شدید تکلیف محسوس کرتی ہے۔ اس طرح کی کیفیت میں  
اسے بے چینی اور اڑیت ہوتی رہتی ہے۔ ڈاکٹری علاج کے باوجود آرام نہیں آتا چونکہ  
عورت کو ایسی تکلیف جادوئی عمل کے ذریعے پہنچائی گئی ہوتی ہے اس لیے اسکا روحانی علاج  
کرنا ہی باعث شفاف ہوتا ہے۔

## سحر پستان کا شافی علاج:

نمازِ عصر کی ادائیگی کے بعد باوضوحالت میں عرق گلاب وزعفران سے درج ذیل دو

## بسم اللہ الرَّحْمٰن الرَّحِيم

۸	۱۲	۱۵	۱
۱۳	۲	۷	۱۳
۳	۱۷	۱۰	۶
۱۱	۵	۳	۱۶

انت الشافی بحق یا اللہ یا اللہ  
اس کے نیچے یہ درود پاک لکھیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُورِ الْأَنُوَارِ وَسِرِّ الْأَنُوَارِ وَتُزِيَّنِ الْأَغْيَارِ  
وَمِفْتَاحِ الْيَسَارِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْمُخْتَارِ وَإِلَيْهِ الْأَكْظَهَارِ وَأَصْحَابِهِ  
الْأَخْيَارِ عَدَدَ نِعَمَ اللَّهِ وَأَفْضَالِهِ۔

ایک نقش تیار کر کے مریضہ کو دیں کہ وہ اسے اپنے گلے میں ڈالے دوسرنقش کلنجی  
کے تیل میں ڈال کر اس پر سات مرتبہ آیہ الکرسی، سات مرتبہ معوذتین، سات مرتبہ دوڑا  
ابراہیمی اور سات مرتبہ ذیل کے کلمات پڑھ کردم کرے اور مریضہ کو دے کہ وہ اس کی صبح  
و شام ماش کیا کرے ماش کرنے کے تین گھنٹے بعد یہیم گرم پانی سے دھولے ان شاء اللہ  
شفا حاصل ہوگی۔ سات مرتبہ پڑھنے والے کلمات یہ ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ.

باد: ۲  
جادو اور جنات سے عمل شرطیہ نجات 113  
الَّذِينَ أَمْنُوا وَتَنْظَمُنَ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ الْأَكْبَرِ اللَّهُ  
تَنْظَمُنَ الْقُلُوبُ۔ نَادِ عَلَيْاً مَظَهَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدُهُ عَوْنَآ لَكَ فِي  
النَّوَائِبِ مِنْ كُلِّ هِمَّةٍ وَغَمَّ سَيَنْجَلِي بِعَظَمَتِكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ  
يَنْبُوِّتِكَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ بِوَلَّا يَتَكَ يَا عَلِيٌّ يَا عَلِيٌّ هُوَ الشَّافِی هُوَ  
الْكَافِی هُوَ الْمَعَافِی بِحَقِّ اللَّهِ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ  
سحر پستان کا ایک اور روحانی عمل:  
باوضو حالت میں عرق گلبہ اور نیل سے نقش بنائیں۔

۸	۳۳	۳۷	۱
۳۶	۲	۷	۳۵
۳	۳۹	۳۲	۶
۳۳	۵	۳	۳۸

اس کے بعد نیلے رنگ کی شیشی میں کلنجی کا تیل ڈال کر اس میں نقش ڈال دیں اس  
کو ظلوغ آفتاب کے وقت دھوپ میں رکھیں اور چاشت کے وقت اٹھا کر اس پر ۱۲۱ مرتبہ  
یہ آیات پڑھ کر دم کریں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْقَوْنَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ بِحَقِّ  
قَهَّارِ فِي السِّحْرِ۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ۝ وَشِفَاءٌ لِمَنِ  
الصُّدُورِ ۝ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَشِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِمُؤْمِنِينَ ۝ وَإِذَا  
مَرِضَتْ فَهُوَ يَشْفِيْنَ ۝ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ أَمْنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۝ بِحَقِّ

یا سقیٰ یا فقیر

پھر اکیس مرتبہ بسم اللہ، اکیس مرتبہ سورہ والناس پڑھ کر کریں اس تحلیل سے مریضہ صبح و شام پستانوں پر ماش کرے اور پھر نیم گرم پانی سے ہم ساف کر لے۔ ماش کرتے ہوئے بکثرت درود شفا کاورد جاری رکھے۔ اکیس یوم بعد روزانہ یہ عمل کرے۔ ان شاء اللہ اکیس یوم کے اندر اندر شفا حاصل ہوگی۔ شفا کے بعد چاہیے کہ اورت اپنے ہاتھ سے حسب توفیق صدقہ و خیرات کرے۔

### سحر کا بوس

حر کی اس قسم کے اثرات سے سحر زدہ پر نیند کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ اسے بہت زیادہ نیند آتی ہے۔ اور نیند کے دوران اسے عجیب و غریب مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ اسے انسان یا حیوان نما ایسی ذرودتی تخلوق نظر آتی ہے جو اس کو خوفزدہ کرتی ہے اسے یوں محصور ہوتا ہے کہ وہ تخلوق اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کا سانس بند کر رہی ہے۔ وہ سانس نہیں لے پاتا نیند میں وہ چیختے چلانے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کی آواز نہیں نکلتی۔ اسکے سینے سے جیسے ہی بوجھ ہتا ہے تو اس کی نیند کھل جاتی ہے وہ خوفزدہ حالت میں بیدار ہو جاتا ہے۔ اس سحر کا بھی بزرگان دین نے شافعی روحاںی علاج بیان کیا ہے۔

### سحر کا شافعی علاج:

نماز عصر کی ادائیگی کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر باوضوح حالت میں بزرگ کے کاغذ پر عرق گلاب وزعفران سے اگلے صفحے پر موجود نقش لکھیں۔

اس نقش پاک کو خوب شووناگا کر مریض کے گلے میں ڈالیں۔ اس کے علاوہ مریض کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ دور دشفا جو کہ نقش کے اندر لکھا ہے پڑھے اور نقش میں لکھے گئے اسماۓ مبارکہ اکیس مرتبہ پڑھے۔ پھر اکیس مرتبہ آیہ الکرسی پڑھ کر اپنے

بادوہ اور جنات سے ملک شرطیہ نجات  
جنے پر دم کر لیا کرے۔ چالیس یوم تک روزانہ ہر نماز کے بعد اس طرح کرے۔ ان شاء اللہ جلد سحر کا یوں کے اثرات کا خاتمہ ہو گا۔ یہ نہایت مذکور آزمودہ عمل ہے۔

جبرائیل بسم اللہ الرحمن الرحيم میکائیل

يَا إِلَهُ	يَا رَحْمَنْ	يَا رَحِيمُ
يَا مَالِكُ	يَا قُدُّوسُ	يَا أَحَدُ
يَا سَلَامُ	يَا مُهَمَّةِينُ	يَا مُؤْمِنُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ  
طِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوَّا إِلَهَاهَا وَعَافِيَةَ الْأَبْدَانِ  
وَشَفَائِهَا وَنُورِ الْأَبْصَارِ وَضِيَائِهَا  
وَعَلَى أَلِهٖ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسِلْمُ

اسرافیل بعَدِ الْكُلِّ ذَرَّةٌ وَخَلَاثَةٌ عزراً

### سحر کا بوس سے جلد نجات

نماز فجر کی ادائیگی کے بعد باوضوح حالت میں قبلہ رخ بیٹھ کر ۱۲ مرتبہ درج ذیل آیات اس کے بعد عرق گلاب وزعفران سے ایک سفید کاغذ پر سورہ مدثر کی درج ذیل آیات مبارکہ لکھیں۔

يَكِيْهَا الْمَذْكُورُ۔ قُمْ فَأَنْذِرْ - وَرَبَّكَ فَكَيْزْ - وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ -  
الرُّجْرَ فَاهْجُرْ - وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْشِرْ - وَلِرِتَكَ فَاصْبِرْ -  
اس کو تعویذ کی طرح مریض کے گلے میں ڈالے۔ اس کے بعد اول و آخر گیارہ گیارہ  
مرتبہ درود شفا پڑھے اور گیارہ مرتبہ سورہ مدثر اور گیارہ مرتبہ آیت الکرسی اور گیارہ مرتبہ  
آیات مبارکہ۔

وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلنُّوَمِنِينَ ۝ بِسْمِ اللَّهِ  
أَرْزِقِنِكَ وَاللَّهُ يَشْفِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيْكَ وَمِنْ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ  
عَيْنٍ حَاسِدَةٍ اللَّهُ يَشْفِيْكَ إِلَهْمَ رَبُّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ  
وَأَشْفِ أَنْتَ الشَّافِ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا -

پڑھ کر پانی پر دم کریں اور مریض کو پینے کے لیے دیں کہ وہ رات دن میں اسے پی  
لے۔ اس طرح دم کیا ہو اپنی روزانہ تیار کریں۔ اکیس یوم تک روزانہ بلا ناغہ یہ عمل کریں۔  
ان شاء اللہ اکیس یوم میں سحر کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور آرام آجائے گا۔ شفا کے  
حصول اور سحر کے خاتمے کے لیے یہ سریع الاثر عمل ہے۔

## سحر سدرودوار کا شافی علاج

سحر سدرودوار کے شافی اور فوری علاج کے لیے باوضو حالت میں عرق گلاب  
وزعفران سے یہ آیت مبارکہ لکھ کر مووم جامد کریں اور مریض کے سر پر تکلیف کے وقت  
باندھیں۔

وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلنُّوَمِنِينَ ۝ أَللَّهُ تَرَى إِلَى  
رَبِّكَ كَيْفَ مَدَ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثَمَّ جَعَلَنَا الشَّمْسَ  
عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الْكَافِي  
بِسْمِ اللَّهِ الْمُعَافِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ -

اس کے بعد یہی آیات مبارکہ سات مرتبہ اور آیت الکرسی سات مرتبہ سورہ والناس  
سات مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ علاوہ ازیں مریض کو پینے کے لیے اس طرح دم کر کے پانی  
دیں کہ یہی آیات مبارکہ گیارہ مرتبہ، آیت الکرسی گیارہ مرتبہ، معوذ تعالیٰ گیارہ مرتبہ،

سحر کی اس قسم میں صحت مند ہونے کے باوجود انسان کے سر میں درد کی شیئیں اٹھنا  
شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات چکر بھی آتے ہیں۔ آنکھوں کے آگے اندر چیرا سا چجا  
جاتا ہے۔ میڈیاکل نیٹ میں کوئی بیماری سامنے نہیں آتی۔ سر میں شدید درد کی یہ شکایت کئی  
منٹوں تک رہتی ہے۔ بعض اوقات کہنی کھنٹنے تک ہوتی رہتی ہے۔ درمیان میں تھوڑی دیر  
کے لیے آرام آ جاتا ہے مگر پھر اچانک درد کی ایک لہری اٹھتی ہے جس سے مریض یا مریضہ  
بے چینی اور اذیت محسوس کرتے ہیں اور بار بار اپنے سر کو کپڑتے ہیں۔ بعض اوقات درد کی  
شدت اس قدر تیز ہوتی ہے کہ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بزرگان دین نے اس سحر کے

تیرا کلمہ گیارہ مرتبہ پڑھیں اور پانی پردم کریں۔ مریض یہ پانی صبح و شام میں کئی مرتبہ روزانہ بلا ناغہ اکیس یوم تک دم کر کے پلا یا جائے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اکیس یوم کے اندر اندر سحر کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور دوبارہ کبھی یہ مرض نہ ہوگا۔ مریض کو چاہیے کہ وہ جلد شفایابی کے لیے ہر نماز کے بعد بکثرت درود شفا پڑھ کر اپنے اوپردم کر لیا کرے۔ عمل نہایت سریع الاثر اور آزمودہ ہے۔

## سحر الخوف

اس طرح کے سحر میں ہر وقت ایک انجانا ساخوف طاری رہتا ہے عجیب طرح کی گھبراہٹ اور بے چینی سی محسوس ہوتی ہے۔ اچانک کسی کی بلند آوازن کریا ٹیلی فون کی نیل بجھنے پر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ کام کا ج میں دل نہیں لگتا۔ طبیعت بوجصل رہتی ہے اگر بے چینی زیادہ ہو تو بدحواسی بھی طاری ہو جاتی ہے اور مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے۔

### سحر الخوف کا خاتمه:

اس مقصد کے لیے چاہیے کہ باوضوحالت میں عرق گلب و زعفران سے یہ نقش لکھے جائیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحيم

سلام	قولاً	من رب	رحیم
۱۳۱	۱۳۷	۲۹۲	۲۸۹
۲۹۳	۲۸۸	۱۳۲	۱۳۶
۲۸۷	۲۹۰	۱۳۹	۱۳۳
۱۳۸	۱۳۳	۲۸۶	۱۹۱

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات 121 مرتبہ سلام قولًا من رب رحیم اور اکیس نقش پر تین مرتبہ سورہ یسین، ۱۲۱ مرتبہ سلام قولًا من رب رحیم اور اکیس مرتبہ آیت اندری پڑھ کر دم کرے اور اسے خوشبو گا کر مریض کے گلے میں ڈال دے۔ اس کے علاوہ روغن زیتون پر ۸۱۸ مرتبہ سلام قولًا من رب رحیم پڑھ کر دم کرے اور مریض کو دے کہ وہ اس سے روزانہ اپنے سینے پر ماش کرے۔ اس کے علاوہ مریض کو چاہیے کہ وہ روزانہ نماز فجر اور نمازِ عشاء کی ادائیگی کے بعد مرتبہ سلام قولًا من رب رحیم اس طرح پڑھے کہ اول و آخر تین تین مرتبہ ۸۱۸ مرتبہ سلام قولًا من رب رحیم اس طرح پڑھے اور اپنے اوپردم کرنے کے بعد پانی پردم کرے اور اس پانی کو پی درود ابراهیمی پڑھے اور اپنے اوپردم کرنے کے بعد پانی پردم کرے۔ ان شاء اللہ سحر کا اثر ختم ہو جائے۔ چالیس یوم تک روزانہ بلا ناغہ یہ عمل کرے۔ ان شاء اللہ سحر کا اثر ختم ہو جائے گا اور قلب کو قوت حاصل ہوگی۔ خوف کا خاتمه ہوگا۔

## سحر الخوف کے خاتمه کا ایک اور موثر عمل

سحر الخوف کے اثرات ختم کرنے کے لیے یہ نہایت آسان اور موثر ترین عمل ہے۔ اس کے لیے کوئی زیادہ محنت نہیں لگتی اپنے مقصد کے حصول کے ذیل میں دیا ہو نقش پاک دو کی تعداد میں تیار کئے جائیں یعنی باوضوحالت میں عرق گلب و زعفران سے یہ نقش لکھے جائیں۔

۷۸۶

۸	۱۱	۲۱۷۳۵	۱
۲۱۷۳۲	۲	ے	۱۲
۳	۲۱۷۳۷	۹	۶
۱۰	۵	۳	۲۱۷۳۵

ایک نقش پاک خوبیوں کا کر گلے میں اس طرح ڈالے کہ تعویذ دل کے مقام پر اسے جگہ دوسرا نقش پاک پانی کی بوعل میں ڈال کر اکیس مرتبہ نقش میں لکھی گئی آیات مبارک پڑھ کر دم کرے پھر اکیس مرتبہ یہ درود پاک پڑھ کر دم کرے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ طَبَ الْقُلُوبِ وَدَوَّا إِلَهًا  
وَغَافِيَةَ الْأَبَدَانِ وَشِفَائِهَا وَنُورَ الْأَبَصَارِ وَضِيَاءَهَا وَعَلَى إِلَهِ  
وَاضْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسِلْمُ بِعَدِدِ كُلِّ ذَرَّةٍ وَخَلَائِقِ

سحر زدہ یہ پانی دن میں کئی بار پی لیا کرے۔ اکیس یوم تک یہ روزانہ پانی پیے ان شاء اللہ تعالیٰ سحر کے اثرات کا خاتمه ہو گا اور دل کو مضبوطی حاصل ہو گی نہایت مؤثر و آزمودہ ہے۔ شفایابی کے بعد حسب توفیق غرباء میں صدقہ و خیرات کرے۔

هر قسم کے جادو اور سفلی اعمال کا آسان علاج

اگر کسی پر سخت قسم کا سحر، جادو یا سفلی عمل کیا گیا ہو جس کے سبب وہ سخت بے چین، بیماری، دیوانہ اور پا گل ہو گیا ہو تو اس کے لئے بیری کے سبز اور تازہ پتے توڑ کر ان کو سل، پس پر تھوڑا پانی ڈال کر پیس لیں یا کونڈی میں موصلي میں رکھ لیں۔ اور اس پے ہوئے پتوں کو ایک گلاں میں ڈال کر پانی سے بھر لیں۔ اور باوضوتین مرتبہ آیہ اکری اور چاروں قلنین تین مرتبہ پڑھ کر اس گلاں کے پانی پر دم کریں۔ اور مریض کو تین گھونٹ پلا کر باقی پانی سے مریض نہلا یا جائے۔ بدن پر صابن نہیں لگانا ہے بلکہ صرف پانی اس طرح بہانا ہے کہ تمام بدن بھیگ جائے کوئی حصہ خالی نہ رہے اور مریض کو شب میں بٹھا کر نہلا یا جائے اور اس شب کے پانی کو کسی میدان میں گڑھا کھو دکر دن کر دیا جائے پانی کھلانہ چھوڑا جائے اور گذر یا گندی نالی میں نہ بہایا جائے۔ پاک جگہ پانی دفن کرے۔

یہ عمل روزانہ چودہ دن تک مسلسل کیا جائے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ مریض تند رست

جادو اور جنات سے ململ شرطیہ نجات  
بجا ہے گا تمام بیماریاں اور پا گل پین دور ہو جائے گا۔ اگر کسی مرد کو جادو سفلی کے ذریعہ یعنی ہو جائے گا مجامعت (صحبت) سے روک دیا گیا ہو تو اس کے لئے بھی یہ عمل بہت کارآمد ہے اسی عورت کو مرد سے صحبت سے روک دیا گیا ہو کہ یعنی شوہر سے دور بھائی طرح کسی عورت کو مرد سے صحبت کے وقت سخت تکلیف محسوس کرتی ہو تو اسی علاج سے ہو یا صحبت سے نفرت کرتی ہو یا صحبت کے وقت سخت تکلیف محسوس کرتی ہو تو اسی علاج سے عورت بھی درست ہو جائے گی۔

### جادو کے اثرات کا خاتمه

محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت مولانا نظام الدین اولیاء سورہ مزل کے ذریعہ جادو کا علاج کیا کرتے تھے۔ سورہ مزل باوضو پانی پر دم کر کے مریض کو دیا کرتے تھے صحیح و شام مریض یہ پانی پینے سے جادو کے اثرات سے نجات پاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص سورہ مزل کو روزانہ پڑھے گا اور اس کا اپنے پاس (باوضو) لکھ کر کے اس پر کوئی بلا نازل نہ ہو گی۔ خدا کی مخلوق کی نظروں میں وہ ذی عزت ہو گا۔ اللہ اس کو اپنا ولی بنائے اور اس سورہ کی پابندی سے تلاوت کرنے والے پر آسیب و سحر اثر انداز نہیں ہوں گے۔

### سحر کا خاتمه

اگر کوئی شخص سحر زدہ ہو یا جادو ٹونہ وغیرہ میں مبتلا ہو تو اس نقش قل اعوذ بر رب الْفَلَقِ کو بروز دوشنبہ، پنجشنبہ یکشنبہ کو اول ساعت میں لکھ کر سحر زدہ کے گلے میں باندھے اور سات روز پلاۓ۔ ایک نقش روزانہ پلاتے رہیں۔ مجرب ہے۔ اس کی برکت سے اللہ رب العزت اپنی حفظ و امان میں رکھے گا سحر زدہ کو جب صحت ہو جائے تو حسب منشاء صدقہ و خیرات کرے۔

۷۸۲

۲۱۶۹	۲۱۷۲	۲۱۷۵	۲۱۶۱
۲۱۷۳	۲۱۶۲	۲۱۶۸	۲۱۷۳
۲۱۶۳	۲۱۷۷	۲۱۷۰	۲۱۶۷
۲۱۷۱	۲۱۶۶	۲۱۶۳	۲۱۷۲

### سحر کا تواریخ

بسم اللہ الرحمن الرحيم

۳۵	۳۹	۳۷
۳۲	۳۳	۳۱
۳۰	۳۸	۳۳

عام کا لے جادو اور سحر کے توڑ کیلئے ذیل کا عمل بھی مغاید اور مجرب ہے۔

اس مقصد کے لیے متذکرہ بالاقش سات عدد زعفران و گلاب و مشک سے سرخ رنگ کے کاغذ پر بنائیں اور ان پر یا سلام ایک سو لکتیں مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ روزانہ صبح کو زوال سے بیشتر ایک عدد نقش اپنے جسم پر ممنوعہ حصوں کو چھوڑ کر اچھی

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
جادو اور پھر اس نقش کو آگ میں جھونک دیں تاکہ اچھی طرح جل جائے۔  
طرح پھیریں اور پھر اس نقش کے عمل مسلسل سے عام کا لے جادو اور سحر کا اثر  
ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز سات یوم کے عمل مسلسل سے عام کا لے جادو اور سحر کا اثر  
بنفضلہ تعالیٰ ختم ہو جائے گا اور مریض تند رست ہو جائے گا۔

### سحر کو دور کرنے کا نقش

حضرت خواجہ بختیار کا کی سحر کو رفع کرنے کیلئے نقش دیا کرتے تھے اور اللہ کے فضل  
و کرم سے مریض صرف ایک ہی نقش سے شفایا ب ہو جاتا تھا۔ نقش باوضو لکھیں۔ نقش یہ

۷۸۲

۲۵۱	۲۵۵	۲۵۸	۲۳۳
۲۵۷	۲۳۵	۲۵۰	۲۵۶
۲۳۲	۲۲۰	۲۵۳	۲۳۹
۲۵۳	۲۳۸	۲۳۷	۲۵۹

شفایا ب کے بعد شیرینی پر نیاز دلائیں اور جو کلام پاک اور اوراد پڑھے جائیں ان کا  
ثواب حضرت خواجہ بختیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک کو پہنچائیں اور فقراء میں تقسیم  
کریں۔

### اگر بڑکی یا لڑکے کا رشتہ بند ہو

اگر کسی بڑکی کا رشتہ بذریعہ عمل سحر باندھ رکھا ہو تو اس کے توڑ کے لیے اس طرح تجوید ہے۔  
بُوَاکِس کے گلے میں ڈالیں۔ ان شاء اللہ ایک ماہ کے اندر اندر سحر باطل ہو گا اور کئی سو  
پیغام موصول ہو گا۔ (یعنی عمل اس بڑکے کے لیے بھی مضید ثابت ہو گا جس کے رشتہ  
بذریعہ جادو باندھ دیا گیا ہو) نقش اس انداز سے بنائیں۔ یہ نقش مشک اور زغمفران سے  
بعد نماز پنج سفید کاغذ پر لکھیں اور لکھتے ہوئے اس کا تصور ہن میں رکھیں جس کے لیے فدو  
بینار ہے، ہوتا کہ جلد اثر ہو اور مطلوبہ مقصد میں کامیابی ہو۔

۷۸۲

۲۱۷۵۲	۲۱۷۵۶	۲۱۷۵۹	۲۱۷۳۵
۲۱۷۵۸	۲۱۷۳۲	۲۱۷۵۱	۲۱۷۵۷
۲۱۷۳۷	۲۱۷۳۰	۲۱۷۲۱	۲۱۷۵۰
۲۱۷۳۱	۲۱۷۲۶	۲۱۷۳۶	۲۱۷۶۰
۲۱۷۳۹	۲۱۷۳۵	۲۱۷۳۸	۲۱۷۴۵

مُلْكٌ مُلْكٌ

بَحْقٌ أَهْيَّا إِشْرَاهِيَّا

### کا لے جاؤ کا خاتمه

بڑکی شخص سحر زده ہو، سحر ہنود یا سحر بیکال یا سحر غسلی و ملبوی کی زد میں ہو  
اگر کوئی شخص سحر زده ہو، سحر ہنود یا سحر بیکال یا سحر غسلی و ملبوی کی زد میں ہو  
تو اس نقش قل اعود برب الناس کو بروز جمعہ، آوار، سو موار اول ساعت میں کھٹے۔  
ایک نقش سحر زدہ کے گھنے میں باندھے اور گیارہ لمحہ کردے پھنے کے داسٹے۔ ان شاء اللہ  
ذکریا (صلی اللہ علیہ وسلم) موصول ہو گا۔ (یعنی عمل اس بڑکے کے لیے بھی مضید ثابت ہو گا جس کے رشتہ  
بذریعہ جادو باندھ دیا گیا ہو) نقش اس انداز سے بنائیں۔ یہ نقش مشک اور زغمفران سے  
بعد نماز پنج سفید کاغذ پر لکھیں اور لکھتے ہوئے اس کا تصور ہن میں رکھیں جس کے لیے فدو  
بینار ہے، ہوتا کہ جلد اثر ہو اور مطلوبہ مقصد میں کامیابی ہو۔

۷۸۲

۱۳۲۹	۱۳۳۲	۱۳۳۵	۱۳۲۲
۱۳۳۳	۱۳۲۳	۱۳۲۸	۱۳۳۳
۱۳۲۲	۱۳۳۷	۱۳۳۰	۱۳۲۷
۱۳۳۱	۱۳۲۶	۱۳۲۵	۱۳۳۶

یا اللہ جمیع سحر جمیع آفات و بیلیات سے محفوظ فرمأ

جب مریض صحت یا ب ہو جائے تو سب تو فیق غریباء و مساکین میں کھانا تقسیم کرے  
اور نماز پنجگانہ با جماعت پڑھنے کی پابندی کرے۔

### رشته کی سحر بندش

جس بچی کا رشتہ طے نہ ہوتا ہو یا سحر بندش کا شکار ہو اور کسی بھی طرح اس کا مسئلہ حل نہ

ہوتا ہو تو ایسے میں ذیل کا نقش مجرب ہے۔ اس کے لئے ذیل کا نقش زعفران و گاب و مکار سے سفید کاغذ پر بنائیں اور اس کو شیم گرم پانی میں حل کر کے اس سے اس طرح مکار کی اس کاپانی گندی نالی میں نہ بھے۔ اس کا طریقہ یہ ہو گا کہ پہلے سادہ پانی سے مکار کے بعد میں مب میں بیٹھ کر اس پانی سے غسل کریں اور اس پانی کو بعد از غسل کہیں پودوں میں یا چھت کے اوپر پھینک دیں تاکہ اس پر پاؤں نہ آئیں اگر دریا یا نہر نزدیک ہو تو اس میں بھا دیں یہ کام نوجنڈی جمعرات سے شروع کریں اور سات جمعرات تک مسلسل جاری رکھیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز اس عمل سے تمام موزی بندھ ٹوٹ جائے گی اور مناسب رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔

نقش یہ ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

ب	س	م	ك	م	ك	م	ك	م	ك
۲۶۵۳۶	۲۶۵۳۵	۲۶۵۵۹	۲۶۵۳۸	۲۶۵۶۵	۲۶۵۲۹				
۲۶۵۳۳		۲۶۵۶۱	۲۶۵۷۹	۲۶۵۵۸	۲۶۵۲۰	۲۶۵۳۱			
۲۶۵۵۶	۲۶۵۵۱	۲۶۵۳۲	۲۶۵۳۵	۲۶۵۳۰	۲۶۵۱۲				
۲۶۵۵۰	۲۶۵۵۷	۲۶۵۶۳	۲۶۵۳۱	۲۶۵۲۲	۲۶۵۳۹				
۲۶۵۳۷	۲۶۵۳۲	۲۶۵۴۲	۲۶۵۳۷	۲۶۵۵۳	۲۶۵۵۸				
۲۶۵۶۰	۲۶۵۳۳	۲۶۵۳۱	۲۶۵۳۸	۲۶۵۵۲	۲۶۵۵۵				

طہ طہ طہ

## سحر کے اثرات کا خاتمہ

قرآن حکیم کی آیت وَيَنْصُرُكُ اللَّهُ أَخْدِرُ عَزِيزًا۔ (آیت نمبر ۳ سورہ لوح پارہ نمبر ۲۶) یہ آیت بھی سحر کے اثرات کو فتح کرنے میں تجربہ ثابت ہوئی ہے۔ باضو نقش مراعع آتشی چال سے بنا کر مووم جامد کر کے مریض کے گلے میں میں باندھے اور میں بازو پر باندھے۔ عرق گاب میں زعفران کو حل کر کے اس سے نقش مشاث آتشی چال داہمیں بازو عدد بنائے۔ روزانہ ایک نقش مریض کو پانی میں گھول کر پلاتے۔ یہ گیارہ عدد بنائے۔ مشاث آتشی چال یہ ہے۔

۷۸۲

۲۱۹	۲۲۲	۲۲۵	۲۱۲
۲۲۲	۲۱۳	۲۱۸	۲۲۳
۲۱۲	۲۲۷	۲۲۰	۲۱۷
۲۲۱	۲۱۶	۲۱۵	۲۲۲

نقش مشاث آتشی چال یہ ہے۔

۷۸۵

۲۹۲	۲۸۸	۲۹۲
۲۹۵	۲۹۳	۲۹۰
۲۸۹	۲۹۷	۲۹۲

## سحر و جادو سے نجات

اگر کوئی سحر و جادو کے اثرات میں جتنا ہو تو اس نقش الحمد شریف سے کام لے ان شاء اللہ تعالیٰ مجرب پائے گا۔ بروز اتوار، سوموار، بدھ، جمعرات کو بعد تماز ظہر لکھے اور تین نقش لکھ کر تیار کرے۔ اور اول سحر زدہ کے گلے میں باندھے اور دوسرا نقش مریض کی چار پال کے اوپر جچت میں لٹکائے اور تیسرا پانی کی بوتل میں ڈال کر رکھے۔ اور اکیس روز تک سچہ شام سحر زدہ کو پلا کیں ان شاء اللہ تعالیٰ صحت کامل شفاء عاجل حاصل ہوگی۔ مجرب ہے نقش عربی مندرجہ ذیل ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحيم

بسم اللہ الرحمن الرحيم	غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين	اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم	مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم	مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين	بسم اللہ الرحمن الرحيم	غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
الذين انعمت عليهم	رب العلمين الرحمن الرحيم	الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم	الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم
عليهم	الرحيم الحمد لله رب العلمين	الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم	الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم

یا اللہ سحر جادوؤں کے اثرات سے محفوظ فرمایا

## جادوی اثرات سے خلاصی

قرآن حکیم کی آیت فَسَيَّكُفِيْكُمُ اللَّهُ وَ هُوَ السَّمِينُ الْعَلِيِّمُ (۱۰ آیت) نمبر ۱۳ سورہ بقرہ بارہ نمبر ۱ یہ آیت بھی جادو کے اثرات زائل کرنے میں تیر بہدف ہے۔ اپنے نقش مریض آتشی چال سے بنائے کر موم جامد کر کے مریض کے گلے میں باندھے اور دو لیٹ نقش باوضو آتشی چال سے بنائے کا لے کپڑے میں موم جامد کر کے مریض کے دائیں بازو پر باندھے۔ عرق گلاب میں زعفران کو حل کر کے اس سے نقش مثلث آتشی چال ٹکرائے عدد بنائے۔ روزانہ ایک نقش مریض کو پانی میں گھول کر پلاۓ۔ نقش مریض آتشی چال یہ ہے۔

۷۸۲

۱۷۲	۱۷۵	۱۷۸	۱۲۵
۱۷۱	۱۶۶	۱۷۱	۱۷۲
۱۲۷	۱۸۰	۱۷۳	۱۷۰
۱۷۳	۱۶۹	۱۶۸	۱۷۹

نقش مثلث آتشی چال یہ ہے۔

۷۸۲

۳۳۱	۲۲۲	۳۳۳
۳۳۲	۲۳۰	۲۲۸
۲۲۷	۳۳۴	۲۲۹

### سحر کے اثرات دور کرنا

نقش حروف نورانی کے ذریعے بھی سحر کو رفع کرنے کا کام لیا جاتا ہے اور بالفضل خداوندی موثر ثابت ہوتا ہے۔ ان حروف کا مرتع نقش باوضوم جامد کر کے گلے میں ڈالا چاہیے۔ مرتع نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۱۷۳	۱۷۶	۱۷۹	۱۶۵
۱۷۸	۱۶۶	۱۷۲	۱۷۱
۱۶۷	۱۸۱	۱۷۳	۱۷۱
۱۷۵	۱۷۰	۱۶۸	۱۸۰

اور پینے کے لیے مثلث کے باوضونو نقش بنائے کروز انہی میں سحر سے نجات ملے گی۔ نقش مثلث یہ درمیان مریض کو پلوائیں۔ ان شاء اللہ نو دن میں سحر سے نجات ملے گی۔ نقش مثلث یہ ہے۔ اس کو عرق گلب و زعفران سے لکھیں۔

۷۸۶

۳۳۲	۳۲۷	۳۳۳
۳۳۳	۳۳۱	۳۲۹
۳۲۸	۳۳۵	۳۳۰

### جادو کا خاتمه

جس پر جادو کر دیا گیا ہواں کے لیے ذیل میں دیا ہو نقش پاک عرق گلب و بخراں سے سفید کاغذ پر لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں۔ جب کہ ایک نقش پانی میں گول کر پلا دیں۔ ان شاء اللہ جادو کا اثر جاتا رہے گا۔

بسم اللہ الرحمن الرحيم

۸۰۳۸	۸۰۳۱	۸۰۳۵	۸۰۳۱
۸۰۳۲	۸۰۳۲	۸۰۳۷	۸۰۳۲
۸۰۳۳	۸۰۳۷	۸۰۳۹	۸۰۳۶
۸۰۳۰	۸۰۳۵	۸۰۳۳	۸۰۳۶

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

### جادو کا خاتمه

حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ بھیان آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی سحر زدہ شخص عشاہ کی نماز کے بعد بیت اللہ کی طرف رُخ کر کے گیارہ سو مرتبہ یا سُبُوخ یا قُدُوس یا غُفرُو یا وَدُود یا ذَالْجَلَال پڑھتے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اکیس ۲۱ روز میں اس کو سحر کے اثرات سے نجات نصیب ہوگی۔

## جادو کا خاتمه

بسم اللہ کا یہ نقش بھی جادو سے نجات کے لیے تیر بہدف ہے۔ طریقہ علاج یہ ہے ایک نقش کو باوضولکھ کر اور مووم جامد کر کے گلے میں ڈالیں۔ سات عدد عرق گلاب وزعفران سے لکھ کر سات دن تک روزانہ ایک نقش مریض کو پلا ہیں اور سات نقش کا لے کاغذ پر پھیل پھیل سے لکھ کر مریض کے بدن پر مل کر جلا دیں اور مریض کو غسل کر دادیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ سات دن میں جادو سے نجات ملے گی۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۲۶۳	۲۵۸	۲۶۵
۲۶۴	۲۶۲	۲۶۰
۲۵۹	۲۶۶	۲۶۱

یاقاہرہ

## سحر کے اثرات دور کرنا

چار سو چالیس (۳۴۰) چنے کے دانے لیں۔ ہر ایک چنے پر باوضو ایک مرتبہ آیت کریمہ پڑھ کر دم کر کے رکھ لیں۔ پھر چالیس ۳۰ چنے ابال کر ایک دن میں کھلانیں اور یہ تاریکیارہ (۱۱) دن تک اس عمل کو جاری رکھیں۔

دوسرے ایک اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک بوتل میں پانی پر باوضو آیت کریمہ تین ہوں (۳۰۹) مرتبہ پڑھ کر دم کر کے رکھ لیں۔ آٹا گوند ہتھے وقت تھوڑا سا پانی اس بوتل میں ڈالیں۔ اس طرح ایک روئی اس پڑھے ہوئے پانی کی پکا کر مریض کو کھلانیں۔ اس عمل کو یہی گیارہ دن تک جاری رکھیں۔

تمرا عمل ایک اس کے ساتھ ساتھ یہ کریں۔ اس آیت کا نقش مثلث گیارہ عدد بنائیں اور زمانہ ایک نقش گیارہ دن تک لگا تار پلا یا کریں۔ اور ایک نقش اسی آیت کا مریع بنائیں کر مووم

نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۱۲۱۷۲	۱۲۱۷۹	۱۲۱۸۳	۱۲۱۶۹
۱۲۱۸۲	۱۲۱۷۰	۱۲۱۷۵	۱۲۱۸۰
۱۲۱۷۱	۱۲۱۸۵	۱۲۱۷۳	۱۲۱۷۲

## جادو کا خاتمه

اجادو کا خاتمه کا اثر ہوتا نماز فجر کے بعد باوضو حالت میں عرق گلاب وزعفران سے ذیل کا نقش لکھ کر گلے میں ڈال دیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی جادو ٹونہ اثر نہ کرے گا۔ نہایت آزمودہ اور سریع الاثر نقش ہے۔ جس کے پاس یہ نقش ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفظہ امام میں رکھے گا۔ جادو ٹونے کا کوئی وار اس پر اثر نہیں کرے گا۔

## جادو ٹونہ اثر نہ کرے

چامدہ کر کے مریض کے گلے میں ڈلوادیں۔ ان شاء اللہ گیارہ دن میں مریض کو ہر اثرات سے نجات ملے گی۔ نقش مشکل یہ ہے۔

۷۸۶

۷۹۲	۷۸۷	۷۹۳
۷۹۳	۷۹۱	۷۸۹
۷۸۸	۷۹۵	۷۹۰

## سحر کے اثرات کو ختم کرنا

قرآن حکیم کی آیت لیئے خیرِ جگہم مِنَ الْقُلْمِنِ إِلَى النُّورِ ( سورہ حدید بارہ نمبر ۲۷) یہ آیت بھی سحر کے اثرات زائل کرنے میں مفید و موثر ہے۔ باوضو نقش مریع آتشی چال سے بنائی کر موم چامدہ کر کے مریض کے گلے میں باندھے اور دو مشکل نقش باوضو آتشی چال سے بنائی کر کا لے کپڑے میں موم چامدہ کر کے مریض کے دائیں بازو پر باندھے۔ عرق گاب میں زعفران کو حل کر کے اس سے نقش مشکل آتشی چال سے گیارہ عدد بنائے۔ روزانہ ایک نقش مریض کو پانی میں گھول کر پلاتے۔

نقش مشکل آتشی چال یہ ہے۔

۷۸۶

۸۹۶	۸۹۱	۸۹۸
۸۹۷	۸۹۵	۸۹۳
۸۹۲	۸۹۹	۸۹۴

باب: ۲  
جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
نقش مریع آتشی چال سے یہ ہے۔

۷۸۶

۲۷۰	۲۷۳	۲۷۶	۲۷۳
۲۷۵	۲۷۳	۲۷۹	۲۷۳
۲۷۵	۲۷۸	۲۷۱	۲۷۸
۲۷۲	۲۷۷	۲۷۶	۲۷۷

## جادو کے اثرات ختم کرنا

ذیل کا آزمودہ طریقہ بھی بے حد مجرب ہے۔ اس کے لیے جب بارش ہو رہی ہو تو  
برتن ایسے مقام پر رکھیں جہاں کسی دوسرے کی نظر نہ پڑے اور اس طرح پانی اکٹھا کر لیں۔  
اب کسی ایسے کنویں سے پانی لیں جس کا پانی زیر استعمال نہ ہو یا پھر کسی ایسے تالاب  
سے پانی لیں جو دوسروں کے زیر استعمال نہ ہو۔  
ان دونوں پانیوں کو ایک جگہ سمجھا کر دیں۔ اب اس میں ذیل کا نقش زعفران و گلاب  
و منک سے لکھیں اور اس کو بمعہ چودہ پتوں کے اس پانی میں ڈال دیں۔ پتے ایسے وقت  
کے ہوں جس کا پھل کھانے میں استعمال نہ ہوتا ہو، اب اس پانی کو چوہے پر رکھو دیں۔  
جب اس میں کھلے پڑ جائیں تو پانی کو چوہے سے اتار دیں۔

اس پانی کو کسی تالاب کے کنارے لے جائیں اور مسحور کو تالاب کے پانی میں کھرا  
کر دیں۔ اس بات کی احتیاط کریں کہ مریض جس جگہ کھڑا ہو اس جگہ کا پانی مریض کے

گھنٹوں پر آتا ہواں پانی کو مسحور کے سپرڈ النا شروع کر دیں۔ اور اس کو اچھی طرح عسل کروائیں بعد ازاں مریض کو گھر لے آئیں اور اس کے لگے میں ذیل نقش کا لیں روشنکلے تحریر کر کے خوشبو لگا جائیں اور موسم جامہ کر کے اس کے لگے میں ڈال دیں۔ اس نقش کا بدی مبلغ سو، دوسرے پے غرباء میں تقسیم کر دیں۔

اب نقش کے نیچے آیت مبارکہ ایک سو ایک مرتبہ اور اول و آخر درود شریف ذیل آکتا لیں، اکتا لیں مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور یہ پانی مریض کو سات یوم تک مسلسل صبح و شام پلاجیں۔

ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز سات یوم کے عمل مسلسل سے مریض مکمل شفایاں ہو جائے گا۔ نقش یہ ہے۔

بسم اللہ الر حمن الر حیم

۹۷۶	۹۷۹	۹۸۳	۹۶۹
۹۸۲	۹۷۰	۹۷۵	۹۸۰
۹۷۱	۹۸۵	۹۷۷	۹۷۳
۹۷۸	۹۷۳	۹۷۲	۹۸۴

فَلَمَّا أَلْقُوا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ

دُور د پاک یہ ہے۔


اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَادِرِينَ عَلَى أَعْدَاءِ سِحْرٍ

جادوا و رجنا ت سے مکمل شرطیہ نجات

والسَّاجِرِينَ يُلْظَفِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

آیت مبارکہ:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى  
إِنَّمَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ  
الْقُوَّةَ مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضْلِعُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ۔



سخت ترین سفلی عمل جس سے انسان پاگل بن میں بتلا ہو گیا ہواں کے دفعیہ اور شفایاں کے لیے ذیل کا عمل آزمودہ اور مجرب التجرب ہے۔

اس مقصد کے لیے ایک نیلے رنگ کی بوتل لے کر اس کو پانی سے بھر لیں اور اس پر بعد نماز فجر اول و آخر درود شریف اکتا لیں، اکتا لیں مرتبہ اور سورہ حم کیا رہ مرتبہ جس میں ہر مرتبہ آیت مبارکہ

يَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْأَنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ  
السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ فَأَنْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنٍ فِيَأَنِي الْأَعْ  
رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِي يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَ نُحَاسٌ فَلَا  
تَنْتَصِرُونَ۔

تیک کی تکرار گیا رہ مرتبہ کی جائے۔ پڑھ کر دم کریں اور اس پانی کو صبح آٹھ بجے تا شام پانچ بجے تک سارا دن وھوپ میں رکھیں اور بعد ازاں اس پانی کو دن میں تین مرتبہ کر کے مریض کو مکمل بوتل پلا دیں۔

اس طرح سے روزانہ تازہ پانی بنائیں اور اس مریض کو روزانہ پلا تے رہیں۔ پلانے کے اوقات صبح نہار منہ، رات کو سونے سے پہلے اور دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد پلانا

چلے۔

آن شاہ اللہ تعالیٰ العزیز ایک ماہ کے عمل مسلسل سے مریض کامل صحبت یا پھر جان گا اس بات کا خال رکھیں کہ علان کے دو ران کسی بھی دن نامنند ہونے پائے۔ اس کے علاوہ وہ ایک کافی قش زعفران و گلاب و ملک سے سفید کاغذ پر باوضوح حالات میں ہنا کیں اس کو خوشبو کا کرموم جامد کرے۔ مریض کے دامنیں بازو پر باندھ دیں اور اس کا ہدیہ مبلغ تین سورپے غرباں تقسیم کر دیں۔ بعد از شفاء حسب توفیق صدقہ و خیرات کریں اور پارنوں کو فرش اگریں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۳۰۱۰۵	۳۰۱۱۸	۳۰۱۱۵	۳۰۱۱۲
۳۰۱۱۶	۳۰۱۱۱	۳۰۱۰۶	۳۰۱۱۷
يَسْعَى بِالْجِنَّةِ وَالْأَلَّا مِنْ أَقْتَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَالْفُلُوذُ تَنْفَذُونَ إِلَّا سُلْطَنٌ فِي أَيِّ الْأَءِ رَبِّكُمَا شَكَّدِينَ	يُؤْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظٌ فِنْ ثَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرُونَ	يَا لَهُمْ إِنْ يَرْجِعُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ لَا هُمْ كُفَّارٌ	يَا لَهُمْ إِنْ يَرْجِعُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ لَا هُمْ كُفَّارٌ
۳۰۱۱۰	۳۰۱۲۰	۳۰۱۱۳	۳۰۱۱۱
۳۰۱۱۹	۳۰۱۰۸	۳۰۱۱۲	۳۰۱۰۹

فِي أَيِّ الْأَءِ رَبِّكُمَا شَكَّدِينَ

## لانج اور مہلک کا لے جاؤ کا توڑ

کیا ہے جاؤ ہو، خواہ طوی، سخنی، کالا، خواہ میغا۔ اس کے توڑ اس سے بھت یا نی پانے کیلئے ذیل کا عمل از حد نافع اور مجرب الاجر و آزاد ہو دے۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے ذیل کی عزیت کو زور در لگ کے کاغذ پر زعفران و گلاب و ملک سے باوضوح حالات میں لکھیں اور اس کو خوشبو کا کرموم جامد کر کے مریض کے گھمیں ڈال دیں۔

پھر نہر پادری سے پانی لا سیں۔ اگر ممکن ہو تو بارش کا پانی تین یا ڈیاہ بہتر ہے۔ اس پانی عزیت کو چالیس مرتبہ پڑھ کر اس پانی کو دم کریں اور سحر زد کوئی کو شام گیارہ بجیں اور دن تک پلا سیں۔

اس کے خلاودہ رسولوں کے تیل پر چالیس مرتبہ اسی عزیت کو پڑھ کر دم بھی کریں اور ہمارہ یوم تک رات کو مریض کے سر پر اچھی طرح ماش کریں اور سچ کو پانی پر اسی عزیت کو رات مرتبہ پڑھ کر دم کر کے اس سے مریض کو اچھی طرح فصل کرو سیں۔ یہ مسلسل دن میں تین مرتبہ کرو سیں۔

آن شاہ اللہ تعالیٰ العزیز الحکیم گیارہ یوم کے عمل مسلسل سے مریض سحر سے مستیاب ہو جائے گا۔

عزیت یہ ہے۔

يَا لَهُمْ بَطَلَ النَّسْخُرُ بَحْثٌ أَدَمَ وَبَطَلَ النَّسْخُرُ بَحْثٌ مُوسُى  
وَبَعْثٌ وَهَارُونَ وَبَطَلَ النَّسْخُرُ بَحْثٌ مُحَمَّدٌ مُضْطَفٌ  
وَبَحْثٌ أَصْحَابٌ لُوطٌ وَبَحْثٌ أَصْحَابٌ بَذَرٌ وَبَحْثٌ جَيْرٌ  
الْمُرْسَلِينَ وَبَحْثٌ جَيْرٌ جَيْرٌ الْأَوَّلِيَاءِ وَبَحْثٌ جَيْرٌ جَيْرٌ الْمُؤْمِنِينَ

پڑھتے کیا آزمحمد الرَّاجِینَ۔

## عملِ کیمیائے حیات

ذیل میں عملِ کیمیائے حیات برائے دفع مہلک ترین حجرو جادو دیا جا رہا ہے تو بزرگان عظام کا از حد آزمودہ اور مجرب عمل ہے۔  
اس کے لیے ذیل کے دو عدد نقش باوضو حالت میں سفید کاغذ پر زعفران و گلاب و مشک سے بنائیں اور ان میں سے ایک نقش کو خوشبو لگا کر مووم جامدہ کریں اور مریض کے گھے میں کا لے کر ٹرے میں پیسٹ کر ڈال دیں۔  
دوسرा نقش کسی پانی والی بوتل میں حل کر لیں اور اس کا پانی گیارہ روز مسلسل مریض کے صبح و شام پلاسیں۔ ان شاء اللہ العزیز اس عمل کی بدولت وہ شخص ہمیشہ کے لیے صحت یا بہوجائے گا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الظَّفَرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ  
عَبْدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُكُمْ وَلَا أَنْتُمْ  
عَبْدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِي  
يَا مُخْلِصُنَّ لِهِ الدِّينِ مَا مَذَلَّ كُلَّ جَمَارٍ عَنِيدِ بِقَهَارٍ  
عَزِيزٌ سُطَّازٌ بِرِوْيَا مَذَلَّ

الْعَمَدُ بِتَهْوِيْرِ الْعَلَيْبِيْنَ لِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِ  
مُلِكِ يَوْمِ الدِّينِ لِرَبِّكَ تَعْبُدُ وَإِنَّكَ تَسْعَيْنَ لِ  
إِهْدِنَا الصِّرَاطَ السَّقِيمَ لِصِرَاطَ الَّذِينَ أَعْتَدْتَ  
عَلَيْهِمْ إِغْرِيْقَنْ مَفْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ لِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْمُنْكَرِ  
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ أَنْ يَحْكُمَنِي  
بِمَا لَمْ أَعْمَلْ  
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ أَنْ يَحْكُمَنِي  
بِمَا لَمْ أَعْمَلْ

## کاروباری بندش ختم

حری بندش نکاح و رشتہ کے توڑ کے لیے ذیل کا عمل از حد منید اور نافع ہے۔ اس کے لیے ذیل کا نقش زعفران و گلاب و مشک سے باوضو حالت میں سفید کاغذ پر مخدود کے لیے ذیل کا نقش زعفران و گلاب و مشک سے باوضو حالت میں سفید کاغذ پر بنا کیں۔ زعفران و گلاب والی سیاہی میں سرخ روشنائی بھی ڈالیں تاکہ سیاہی سرخ رنگت ہیں ہو جائے۔ اس نقش کو گرم پانی میں ابال کر اس پانی سے پچھی کو سات یوم تک غسل بوقت گیارہ بجے دن دیں۔

ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز اس عمل کی بدولت ہر قسم کی بندش نکاح و رشتہ ختم ہو جائے گی اور بہت جلد پیغام رشتہ بفضل باری تعالیٰ آنا شروع ہو جائیں گے۔ نقش یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

99820	99823	99827	99813
1085	1088	1092	1078
99822	99813	99819	99822
1080	1079	1083	1089
99815	99829	99821	99818
1091	1092	1082	1083
99822	99817	99816	99828
1087	1082	1081	1093

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَدْحُودٌ وَرَجَنٌ مِّنْ شَرِطِيْنِ	يَا رَزَّاقُ يَا غَنِيٌّ يَا مُغْنٰيٌ يَا بَاسِطُ الْمُكْثِيْنِ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَدْحُودٌ وَرَجَنٌ مِّنْ شَرِطِيْنِ
هُوَ اللّٰهُ قُلْ	اللّٰهُ آخْدُ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَدْحُودٌ وَرَجَنٌ مِّنْ شَرِطِيْنِ
الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ	أَلَّهُ وَلَمْ يُوْلَدْ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَدْحُودٌ وَرَجَنٌ مِّنْ شَرِطِيْنِ
الرَّحِيْمُ يَا رَزَّاقُ يَا غَنِيٌّ يَا مُغْنٰيٌ يَا بَاسِطُ الْمُكْثِيْنِ	أَلَّهُ كُفُواً أَحَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ	الرَّحِيْمُ يَا رَزَّاقُ يَا غَنِيٌّ يَا مُغْنٰيٌ يَا بَاسِطُ الْمُكْثِيْنِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَدْحُودٌ وَرَجَنٌ مِّنْ شَرِطِيْنِ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَدْحُودٌ وَرَجَنٌ مِّنْ شَرِطِيْنِ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَدْحُودٌ وَرَجَنٌ مِّنْ شَرِطِيْنِ

## بندش فرج کا توڑ

میاں بیوی دونوں کے اوپر کئے گئے سحری بندش فرج کے توڑ کے لیے ذیل کا عمل از  
مد مفید اور آزمودہ ہے۔

اس کے لیے دونوں میاں بیوی بروز اتوار بوقت طلوع آفتاب، سورج کی طرف منہ  
کر کے کچی زمین پر ننگے پاؤں کھڑے ہو جائیں اور اول و آخر تین تین مرتبہ درود شریف  
تحینا اور درمیان میں سورہ فلق اور سورہ الناس سات، سات مرتبہ پڑھ کر اپنے سر سے  
پاؤں کی طرف پھونک لگا دیں۔ تصور یہ ہو گا کہ میرے اوپر موجود تمام سحر ہے سر سے پاؤں  
کی جانب زمین میں جذب ہو رہا ہے۔

## بندش کاروبار

بندش کاروبار کے لیے ذیل کا عمل بے حد مجرب ہے۔ تو چندی سو مواد کو بذریعہ  
تپہ اٹھ کر تازہ ٹھل و ڈھو کے ساتھ آٹھ رکعت نماز نفل بہ توڑ سحر بندش اس طریقے سے  
ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص سات سات مرتبہ پڑھیں۔ سامان  
پھیرنے کے بعد پھر سجدہ میں جا کر ذیل کے کلمات ایکس مرتبہ پڑھیں۔

يَا دَافِعَ الْبَلَاءِ وَالسَّيْخِ وَرَافِعَ الدَّرَجَاتِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ  
وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَجِينِهِ فِي السِّيْخِ السِّفْلِيِّ بِطْفِيلِ مُحَمَّدٌ مُضطَقُ  
يَا دَافِعَ يَا دَافِعَ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔

اب سجدہ سے سراٹھا کر درود پاک ایک سو ایک مرتبہ، اور سورہ اخلاص ایک سو ایک  
مرتبہ پڑھ کر اللہ عزوجل کے حضور دعائیں اور پانی زیادہ مقدار میں دم کر لیں اور اس پانی  
کو ایک یوم تک اپنی دوکان یا جائے تجارت پر چھڑ کیں۔ بعد ازاں نماز فجر ذیل کے پانچ عدد  
نقوش زعفران و گلاب و مشک سے سفید کاغذ پر بنائیں اور ان کو خوشبو لگا کر ایک نقش موم  
جامہ کر کے اپنے پاس رکھیں اور چار عدد نقوش کو جائے تجارت یا دوکان کے چاروں  
دیواروں پر چپاں کر دیں۔

نقش کے نیچے یہ عبارت لکھیں۔

فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّيْخُرُانَ اللّٰهُ سَيْبُطْلُهُ إِنَّ  
اللّٰهَ لَا يُضْلِعُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ۔ أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ  
سَيِّدِ الْقَاهِرِيْنَ عَلٰى أَعْدَاءِ سِحْرٍ وَالسَّاحِرِيْنَ بِلُطفِ رَبِّ  
الْعَلَيْمِيْنَ۔ وَبِحَقِّ دِرْوِدِ شَرِيفِ تَاجِ وَنَادِ عَلِيْ

اس عمل سے پہلے اپنے سامنے کو نکلوں کی انگلی میں سلاگا کر رکھیں۔ جیسے ہی یہ عمل ختم ہو پاؤں سے مٹی اٹھا کر فوراً ہی آگ میں جھوٹک دیں اور تصور کریں کہ میرا سارا بھر اس آگ میں جسم ہو رہا ہے بعد ازاں اچھی طرح وضو کریں اور انہی سورتوں کو سات سارے مرتبہ اپنے اوپر دم کریں۔ یہ عمل مسلسل تین آتوار کریں۔

اب روزانہ بعد از نماز فجر ذیل کا نقش چینی کی سفید طستری پر زعفران و گاب و مشک سے بنائیں اور اسے شربت شہد سے اچھی طرح دھو کر دونوں میاں بیوی نہار منہ پلی لیا کریں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز چالیس یوم کے عمل مسلسل سے ہر قسم کے سحر سے مکمل پاک ہو جائیں گے۔

نقش:

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَا أَسْحَى حِينَ	٦	١	٨
لَا حَيَّ فِي	٧	٥	٣
دِيْمُومَةٌ مَلِكٌ	٢	٩	٣
وَبِقَائِهِ يَا أَسْحَى			

ذیل کا نقش بعد از نماز فجر سفید کاغذ پر دو عدد زعفران و گاب و مشک سے لکھیں خوب بکھر لیا جائے اور موسم جامد کر کے کالے کپڑے میں علیحدہ علیحدہ لپیٹیں۔ مرد اس کو اپنے سیدھے بازو پر باندھے اور عورت اس کو اٹھے بازو پر باندھے۔

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٣٥٠	٣٣٥٣	٣٣٥٦	٣٣٣٢
٣٣٥٥	٣٣٣٣	٣٣٣٩	٣٣٥٣
٣٣٣٣	٣٣٥٨	٣٣٥١	٣٣٣٨
٣٣٥٢	٣٣٣٧	٣٣٣٥	٣٣٥٧

### سحری استخاضہ سے نجات کیلئے

سحری استخاضہ سے نجات کے لیے ذیل کا عمل مفید نافع اور بے حد محبوب المخبر ہے۔ بہ سے پہلے سات نکلوں کا پانی لے کر اس میں ستراہ عدد بیری کے پتے ڈالیں۔ ان ہن لوں پر سورہ کوثر اکتا لیں مرتبہ اور سورہ فلق و ناس اکتا لیں، اکتا لیں مرتبہ پڑھ کر دم کیا ہو۔ اس پانی کو خوب اچھی طرح ابالیں اور اس شم گرم پانی سے عورت روزانہ غسل کرے۔ یہ مل گیا رہ یوم تک بوقتِ زوال جاری و ساری رکھے۔ بعد از غسل اپنے اوپر سات مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کرے۔

اس کے علاوہ ذیل کا نقش کالی روشنائی سے سفید کاغذ پر بنائیں اور اس کو خوب بکھر لکھیں اور موسم جامد کر کے کالے کپڑے میں علیحدہ علیحدہ لپیٹیں۔ مرد اس کو اپنے سیدھے ساتھ کر میں اس طریق سے باندھیں کہ نقش زیر نافرجم پر رہے۔

ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز اس سحری مرض استخاضہ سے بفضلِ باری تعالیٰ آرام مل جائے گا اور مریضہ شفا یاب ہو جائے گی۔

بِسْمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ الشَّانِ شَدِينُ الْبُزْهَانِ مَا شاءَ اللَّهُ كَانَ حَبِيسَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ش	۱	ف	
۳۰۱	۹	۸۱	
۳۰۲	۳	۷۸	۸
۳۰۳	۷	۲۹	۲
يَا شَافِيْ يَا كَافِيْ يَا سَلَامٌ			

وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ  
وَيُهْقِأ لِمَاءَ الصُّدُورِ  
يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِطٌ  
الْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ  
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ  
رَحْمَةً لِلْمُسْتَوْ مِنِينَ۔  
وَإِذَا مَرِضَتْ فَهُوَ يَشْفِيْنِ  
قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ يَا قَابِضُ الَّذِي يَقْبِضُ بَحْرِ  
يَا قَابِضُ بَسْتَمْ خُونِ رَوَانِ فِي السِّحْرِ السَّاحِرِيْنَ فَلَالِ بَنْتِ  
فَلَالِ يَا قَابِضُ فَلَالِ بَنْتِ فَلَالِ کی جگہ عورت اور اس کی ماں کا نام لکھیں۔

برائے دفع سحر

علام، متفہد میں نے اور بزرگان دین، اہل تصوف نے فرمایا کہ اگر کوئی سحر زدہ کسی  
صورت صحیتیاب نہ ہوتا ہو تو اس عزیمت کو لکھ کر سحر زدہ کے گلے میں باندھے اور اکیس  
مرتبہ رسول کے تیل پردم کر کے ایکس روز تک ماش کرے۔ اور اکیس ہی مرتبہ پانی پردم  
کر کے ایکس روز تک پلاۓ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ سحر زدہ کو صحت کامل اور شفاء عاجل  
حاصل ہوگی۔ وہ عزیمت یہ ہے۔

أَرْكُوَنْ خَصْ سَحْرَزَدَهْ ہو اور تمام علاج آزمائے ہوں اور کوئی علاج کا رُگر ثابت نہ ہو تو  
اں عزیمت کو ۲۳ مرتبہ پانی پردم کر کے سحر زدہ کو پلاۓ۔ اور اسی عزیمت کو رسولوں کے تیل  
پر پڑھ کر دم کر کے تمام جسم پر ماش کرے ان شاء اللہ تعالیٰ سحر سفلی، علوی، جادو، ٹونہ، رفع  
ہوگا۔ اور مريض کو صحیتیابی ہوگی۔ وہ عزیمت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ  
وَصَحْبِهِ وَسَلِّمَ۔ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي  
الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ

برائے دفع سحر

اگر کوئی شخص سحر زدہ ہو تو اس کے گلے میں وہ تین سورتیں لکھ کر باندھے جن  
میں "ک" نہیں ہے۔ وہ تین سورتیں، سورہ العصر، سورہ قریش، سورہ فلق ہیں۔ ان کو لکھے  
بروز دوشنبہ بعد نماز عصر کے اور گلے میں باندھے اور اکیس اکیس مرتبہ پانی پردم کر کے  
پلاۓ یا کھانے پردم کر کے کھلانے ان شاء اللہ سحر زدہ کا سحر سفلی، علوی سے چھکارا ہوگا۔  
اور مريض کو صحیتیاب ہوگا۔ مجبوب ہے۔

برائے دفع سحر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ  
وَصَحْبِهِ وَسَلِّمَ۔ أَعْظَمُ دَقْيَقَةٍ فِيْنِمَا لَهُ يَلْيِقُ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُتُورٍ  
الْعَائِنِ عَلَيْهِ عَلَى أَحَدِ النَّاسِ إِلَيْهِ فِيْ كَبِيرَةٍ وَكَلْيَتِهِ لَحْمٌ رَقِيقٌ  
عَلَيْهِ دَقْيَقَةٍ فِيْنِمَا لَهُ يَلْيِقُ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُتُورٍ  
لَهُ أَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَتَنِينِ يَنْقُلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِيْنَا وَهُوَ  
حَسِيرٌ۔

أَللَّهُ لَا يَحْوِلُ وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ كُلِّ  
الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ وَالثَّابِعِينَ وَتَائِبِيهِمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ  
الْقِيَامَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنِّي إِنَّمَا وَأَسْلَمَ مَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ مِنْكُمْ  
خَتَّامًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَسْلِيمًا وَأَغْلَانًا وَاللَّهُ أَكْبَرُ إِكْبَارًا وَأَعْظَامًا  
وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ - بُزُّهَانًا وَأَكْرَامًا لِخَلْقِ  
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلِكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ  
لَا يَعْلَمُونَ - أَللَّهُمَّ رَبِّ عَبَّاسٍ وَنَفْسٍ نَافِسٍ وَحَبْسٍ  
حَابِسٍ وَلَيْلٍ دَامِسٍ وَطَرِيقٍ طَامِسٍ وَحَجْرٍ يَاءِسٍ وَشَهَابٍ  
قَابِسٍ - أَللَّهُمَّ رَدِعْنَا مِنْ الْمَغْيَانَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إِلَيْهِ فِي  
مَالِهِ وَوَالِدِهِ وَأَعْزَى النَّاسِ عَلَيْهِ وَخُذْ كَلِمَتَهُ مِنْ بَيْنِ شَفَتَيْهِ  
وَنَظِرَتَهُ مِنْ بَيْنِ جَفَنَيْهِ وَرَدَ اللَّهُمَّ عَيْنَيْهِ عَلَيْهِ فَازْجِعِ الْبَصَرَ  
هَلْ تَرَى مِنْ فُتُورٍ - ثُمَّ ازْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتِينِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ  
الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ - وَرَدَ اللَّهُ الذِّيْنَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ  
يَنَالُوا أَخْيَارًا وَكَفَى اللَّهُ أَنْهُ مِنْيَنَ الْقِتَالِ وَاللَّهُ قَوِيٌّ عَزِيزٌ - بَلْ  
نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَنْدَمِغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ - أَللَّهُ أَكْبَرُ  
أَللَّهُ أَكْبَرُ أَللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جَلَّ جَلَالَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا  
أَشْرَقَ نُورُ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا شَفَاعَةٌ مِنْ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
ظَهَرَتْ حُجَّةُ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْثَرُ خَلْقَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
لَا مَغْبُودٌ بِحَقِّ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَنْبَقُ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِسْتَعْنَتُ بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنِّي

جَادُوا وَرَجَنَاتٍ سَعِيدٌ  
تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَآذْوَاجِهِ  
وَذَرِيَّاتِهِ أَجْمَعِينَ -

### برائے دفع سحر

اُرکی شخص پر سحر غلی یا علوی کے اثرات ہوں تو اس آیت مبارکہ کو لکھ کر تعویذ بنانے کے  
لئے میں ڈالے اور چند تعویذ چینی کی طستری میں لکھ کر دھو کر صبح و شام پلاۓ یا سفید کاغذ پر  
رعنان سے لکھ کر دھو کر پلاۓ۔ ان شاء اللہ سحر زدہ کو سخت کامل شفائے عاجل ہوگی۔ وہ  
آیت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَمَّا أَلْقَوْا الْقَوْاقَالَ مُؤْسِي مَا جِئْتُمْ بِهِ  
السِّخْرَى إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضْلِلُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ  
وَيُحْقِّقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْكَرَةُ الْمُجْرِمُونَ

### برائے دفع سحر

اُرکی شخص کو سحر نے مفلوج کر کرنا ہو یا چوکی یا گڑت کر کھی ہو یا آتش دان کے  
نیچے دبایا ہو یا کیکرو بیری کی جڑ میں گاڑا گیا ہو یا کھلایا، پلا یا گکیا ہو بہر نو ع کسی صورت  
سے کرایا گیا ہو، اس طریقہ عمل سے مکمل کرے، رقه، دکاث، داتارو، دفعیہ ہو جائے گا۔ اول  
راہی لائے اور اس پر عزیمت مذکورہ سات مرتبہ پڑھ کر دم کرے۔ وہ عزیمت یہ ہے۔  
جَيْلُوسُ، فَيَلُوسَةَ يَرْمُونَ جَيْوَنَ سَلَمُوسَ مَرْطُوسَ مَيْلُوسَ مَانَ

يَادَرْ سَرْ فَرَوْدَ بَهَاحُونَ

بعدہ چار نقش لکھے جو کہ سحر زدہ کے ٹھانے اور پشت کی طرف اور داہنی طرف ایک  
باکیں طرف چراغ میں جلا یا جائے گا۔ پاک صاف جگہ پر سحر زدہ کو بٹھائے اور چاروں  
چراغوں میں لکھے ہوئے نقوش کے فتیے تیار کر کے جلائے۔ بعدہ ایک نقش لکھ کر چالیس روز

و نقش جو باسمیں طرف جلا کیا جائے  
۷۸۲

ح ۱۱ ۱۱ ۱۱		
+		
۳	۳	۸
۹	۵	۱
۲	۷	۶

فلان بن فلان جمیع آفات سے بچا رہے  
و نقش جو باسمیں طرف جلا کیا جائے گا۔  
۷۸۲

ح ۱۱ ۱۱ ۱۱		
+		
۲	۷	۳
۱	۵	۹
۸	۳	۳

فلان بن فلان جمیع آفات سے بچا رہے

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
تک ایک نقش پلاتے رہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ہر قسم کے اثرات سحر سے چینک رہے  
اور سرزدہ کو مکمل آرام و سکون و شفا ہوگی۔ اور ہر قسم کا سحر دفع ہو گا مجرب و آزمودہ ہے  
و نقش جو سامنے جلا کیا جائے گا

۷۸۲

ح ۱۱ ۱۱ ۱۱		
+		
۱	۲	۱
۶	۷	۵
۲	۹	۳

فلان بن فلان کو ہر قسم کے سحر سے محفوظ فرمایا  
و نقش جو مریض کی پشت پر جلا کیا جائے گا۔

۷۸۲

ر	د	س	ح	ر	ع	ل	و	ی	د	س	ف	ل
۳	۹	۲										
۳	۵	۷										
۸	۱	۶										

فلان بن فلان کو ہر قسم کے سحر سے محفوظ فرمایا

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
اول نہر یا سکونیں کا پانی لا سکیں اور پھر جمعہ کے روز سات درختوں کے تین سو پتے تو ز  
کر لاسکیں اور درخت بغیر پھل کا ہونا چاہیے۔ اور پھر آیات مندرجہ ذیل کو لکھ کر ایک کاغذ  
ٹیکرے اور نہر یا سکونیں کے پانی میں ڈالے اور پتے بھی ڈالے اور پھر پکائے اور پھر پانی  
ٹیکرے کے کنارے پر جائے اور غسل کروادے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ کتنا ہی سخت  
و حرز دہ کو دریا کے اثرات زائل ہو جائیں گے۔ مجرب و آزمودہ ہے۔ وہ آیات یہ  
سر ہونے فوج ہو گا اور سحر کے اثرات زائل ہو جائیں گے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَمَّا آتَى الْقَوَافِلَ مُؤْسِى مَا جِئْتُمْ بِهِ  
الْتِخْرَاجَ اللَّهُ سَيِّبُنْطُلَةُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضْلِعُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ  
وَيُحَقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْكَرَةُ الْمُجْرِمُونَ  
۝

## برائے دفع سحر

جبرايل میکائیل ۷۸۶

۵۳۹۱۳	۵۳۹۱۶	۵۳۹۱۹	۵۳۹۰۵
۵۳۹۱۸	۵۳۹۰۶	۵۳۹۱۲	۵۳۹۱۷
۵۳۹۰۷	۵۳۹۲۱	۵۳۹۱۳	۵۳۹۱۱
۵۳۹۱۵	۵۳۹۱۰	۵۳۹۰۸	۵۳۹۲۰

عزرا میکائیل اسرائیل

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
و نقش جو دھوکہ پلانا ہے۔

۷۸۶

۱۰۳۲	۱۰۳۹	۱۰۳۴
۱۰۳۳	۱۰۳۵	۱۰۳۷
۱۰۳۸	۱۰۳۱	۱۰۳۶

## برائے دفع سحر

اگر کوئی شخص حرز دہ ہو تو اس کیلئے یہ نقش بھی بہت نافع اور زود اثر ہے ۲۱ یا ۲۰ روز  
پلاں کیں ان شاء اللہ تعالیٰ حرز دہ بہت جلد شفا یاب ہو گا۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۳۵	۳۰	۳۸
۳۷	۳۲	۳۴
۳۱	۳۹	۳۳

## برائے دفع سحر

اگر کسی شخص پر سخت قسم کے اثرات ہوں تو اس ترکیب عمل کو کام میں لا سکیں وہ یہ ہے

حر سفلی ہو یا علوی یا امیل ہندوی یا سامری یا یہودی یا نصرانی یا بنگالہ ہر قسم کے تم کا تکمیل اور جامع دفعیہ ہے۔ خواہ کتنا ہی قوی ہو، سخت ہو، یا شیاطین جنات و آسیب کا اثر ہو اس عمل سے ان شاء اللہ تعالیٰ زائل ودفع ہو گا۔ ترکیب یہ ہے۔ کہ کورا سکور الائے اور سورہ یسین شریف کا نقش لکھے اور دھونی لو بان و صندل سفید و سرخ کی دیوے۔ اور سورہ یسین شریف ۲۱ مرتبہ بنیت دفع حر فلاں بن فلاں کے پڑھے یاد فع جنات و شیاطین فلاں بن فلاں کے پڑھے اور مریض کے سامنے زمین پر سکورے کو دے مارے تاکہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ سحر زدہ و آسیب زدہ صحیاب ہو جائے گا۔ اور ساحر بلاک ہو گا یا بتلائے آلام ہو کر معافی کا خواستگار ہو گا وہ نقش سورہ یسین شریف کا اوپر لکھا گیا ہے جو کہ سکورے پر لکھا جائے گا۔

## برائے دفع سحر

اگر کسی مرد کو عورت سے مجامعت کرنے سے بنتے کر رکھا ہو تو ان اسماء کو انہیں پر لکھ کر ایک انہیں روز تک ان شاء اللہ تعالیٰ مرد کشا دہ ہو جائے گا یعنی کھل جائے گا۔ وہ اسماء یہ ہیں۔

## مه ص سیاہ کیلو عہ عہ عہ

## برائے دفع سحر

اگر مریض پر سحر، جادو، ٹونہ، نولکاء ابطال وغیرہ کے اثرات ہوں تو اس مریض کو زمین پر چلت لٹائے اگر مریض عورت ہو تو مونا کپڑا مریضہ کے اوپر ڈالیں۔ اور اگر مریض مرد ہو تو ان کے علاوہ اوپر کوئی اور کپڑا نہ ہو۔

عمال ایک چاقو لے کر (جو کہ پورا لوہے کا ہو) سورہ قل ایموز بر برب افلق و قل ایموز

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات 155  
بب انس کے مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور سحر زدہ کے سر سے پیر تک پھیرتا ہو الائے اور زمین پر چاقو کی نوک سے لکھر بنائے سات لکھر پوری ہو جانے کے بعد پھر سحر زدہ کو الشام نہ کے بل لٹائے اور چاقو پڑھ کر سحر زدہ کے جسم کے اوپر سے پھیرتا ہو پیروں تک لاۓ اور سات لکھر دن کو کاٹے۔ اس طرح تین مرتبہ کاٹے۔ پہلے دن کی کاث مکمل ہوئی اسی طرح سات روز تک عمل کرے ان شاء اللہ تعالیٰ ہر قسم کا سحر کٹ جائے گا۔ اور مریض صحیاب ہو گا۔ مجبوب ہے۔ اور لکھر دن کے نشان اس طرح ہیں۔

## بَارَئَةُ دُفْعِ سُحْرٍ

اگر کوئی شخص سحر میں مبتلا ہو تو اس نقش کو لکھ کر بروز جمعرات بعد نماز فجر اول ساعت میں تیار کرے اور تین نقش لکھے۔ اول نقش کو گلے میں باندھے۔ دوسرا مکان کے دروازے میں لٹکائے۔ اور تیسرا نقش کو پانی کی بوتل میں ڈال کر رکھے اور صبح، دوپہر، شام پلانے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ صحت کامل ہوگی۔ وہ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

يَلْد	يَلْد	اللهُ	الصَّمْد	لَمْ	يَلْد	هُوَ	قَلْ
وَلَمْ	يَلْد	اللهُ	الصَّمْد	لَمْ	يَلْد	اللهُ	هُوَ
يَوْلَدْ	يَلْد	اللهُ	الصَّمْد	لَمْ	يَلْد	اللهُ	اللهُ
وَلَمْ	يَلْد	اللهُ	الصَّمْد	لَمْ	يَلْد	يَوْلَدْ	اَحَدْ
يَكْنِي	يَلْد	اللهُ	الصَّمْد	لَمْ	يَلْد	يَوْلَدْ	وَلَمْ
لَهُ	يَكْنِي	اللهُ	الصَّمْد	لَمْ	يَلْد	وَلَمْ	يَكْنِي لَهُ
كَفُؤَا	لَهُ	يَكْنِي	اللهُ	الصَّمْد	لَمْ	يَلْد	وَلَمْ كَفُؤَا
أَحَدْ	لَهُ	يَكْنِي	اللهُ	الصَّمْد	لَمْ	يَلْد	أَحَدْ كَفُؤَا

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
لَا حَوْلَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
ماش کرائے ان شاء اللہ تعالیٰ مکمل صحت اور کامل شفاۓ عاجل ہوگی۔

## بَارَئَةُ دُفْعِ سُحْرٍ

اگر کوئی مریض حمزہ ہو تو اس کی کاث کیلئے اول مریض کو سامنے کھڑا کرے اور کھڑا ہونے کی ہمت نہ ہو تو چوتھائی اور ایک چاقو جو کہ پورا لوہے کا ہو لے کر اس پر عزیز نذکور کوئین مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور حمزہ کے سر سے پیر تک چاقو کو پھیرتا ہو والا کر پیروں کے سامنے چاقو کی نوک سے لکھر بنائے۔ اسی طرح سات مرتبہ سات لکھریں بنائے اور پھر حمزہ اگر کھڑا ہو تو پچھلے حصہ پر اسی طرح چاقو کو پھیرتا ہو اپیروں تک لا کر سابقہ سات لکھریں کو سات مرتبہ کاٹے اور اگر مریض لیٹا ہو اب توبہ حمزہ کو والٹا لٹا کر سات مرتبہ چاقو پھیرتا ہو اپیروں تک لا کر سابقہ ساتوں لکھریں کو کاٹے۔ یہ پہلے دن کا عمل مکمل ہو اسی طرح سات روز تک کاث کرے۔ بعدہ پانی اور تیل سرسوں پر ۲۱-۲۱ مرتبہ پڑھ کر دم کر کے دیوے۔ اور اکیس روز تک پانی پلانے اور تیل کی ماش کرائے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ہر قسم کا حمادو کٹ جائے گا۔ اور حمزہ کو شفاۓ کاملہ نصیب ہوگی۔ وہ عزیمت مذکور یہ ہے۔

إِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ  
وَسِّلْهُمْ۔ بَجْرَى بَجْرَى بَانَدْهُوں کَيْوَازْمَى بَجْرَى بَانَدْهُوں دَسُوں دراز بَجْرَى  
بَانَدْهُوں بَجْرَى آسَائِي بَجْرَى سب جَگَهَ سَمَاءَ جادو ٹونہ سب کا سب ادا ھو جائے الـ  
پلٹ کر وحیں رہ جائے جو کرے سو سو مرے بِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ  
لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔

حر زدہ کے یا اثر زدہ کے گلے میں باندھے ان شاء اللہ تعالیٰ سحر و اثر و نظر سے محفوظ  
مون رہے گا۔ مجرب و آزمودہ ہے۔ تعلیم یہ ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

بِاللّٰهِ سُرْ وَ اثْرُ وَ نَظَرٍ مَّا مَحْفُوظٌ فَرِمَا

جاءوا وجاء  
كَفَّا فُهَّا كَمِينٍ كَانَ مِنْ كَلَّا تَكِرُّ كَرًّا كَكِرٌ الْكَرِيفِيْ كَيْدِيْ.  
تَخِيْنِيْ مُشَكِّشَةَ كُلُّكُلٍ لَكَلَّا كَفَاكَ مَا بِيْ كَفَاكَ الْكَافُ كُرْبَتَهُ  
كَتَأْمُنْتَ تَخِيْنِيْ كَوَكَبِ الْفَلَكَا.

## برائے دفع رشته کی بندش

اگر کسی دشمن نے کسی لڑکی کی شادی بستہ کرادی ہو اور رشتہ و پیغام عقد آنے بند ہو گئے ہوں تو اس نقش کو بروز جمعہ کو لکھ کر رکھے۔ سات روز تک غسل کرائے (ایک تعویذ پانی میں پکا کر روز غسل کراؤ) آٹھویں روز ایک تعویذ بنا کر لڑکی کے گلے میں باند ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ بخت کشادہ ہو گا۔ اور پیغام رشتہ عقد آنے شروع ہو جائیں گے۔ وہ تعویذ یہ ہے۔

# ط ۱۱۸ حاضر ۱۱۹ ۱۱۱ ۱۱۱ ۹ ۱۱۱ ۱۱۹ ۱۱۱ ۵ غ

٢ ١ ٨ ١ ٦ ٨ ٨ ١ ٨ ٦ ١

یا اللہ فلاں بنت فلاں کا بخت کشادہ کر دے  
نوت: اگر لڑکا ہو تو فلاں بن فلاں لڑکے کا نام لکھے۔

# برائے دفع سحر

حکماء عاملین نے اس دعا و عزیمت کو بہت ہی اہم قرار دیا ہے کہ یہ عزیمت دافع بلیات ہے و دافع آفات و مصائب ہے اس دعا کا عامل ہمیشہ ظفریاب و کامیاب رہتا ہے اس کے عامل پر شمن و حاسد و ظالم کبھی غالب نہیں آتے۔

اور بفرمان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے پڑھنے والے کو دوزخ کی آگ نہ جلا سکے گی اور ثواب مثل برگ درختاں کے مثل قطر ہائے دریا کے ہوگا۔ اور کوئی آسیب

## برائے دفعہ سحر

سحر زدہ کے گلے میں باندھے ان شاء اللہ تعالیٰ سحر و اثر و نظر سے محفوظ  
ہے۔ آنے والوں سے تعلیم دینے والے ہیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

برائے دفعہ سحر

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
اگر کوئی بنتلا ہے سحر ہوتواں نقش دعائے حزب البحر کو کام میں لا کیں بروز جعرات  
نہ تھیں۔ اول سحر زدہ کے گلے میں باندھے۔ دوسرا نقش چار پائی میں سرہانے کی  
ٹرف باندھیں۔ تیر اپانی کی بوتل میں ڈال کر رکھیں۔ اور صبح، دو پہر و شام کو ۲۱ روز تک  
پالیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ سحر زدہ کو مکمل صحت حاصل ہوگی۔

### برائے دفع سحر

اگر کوئی شخص سحر زدہ ہو یا جادو ٹونہ وغیرہ میں بنتلا ہوتواں نقش قل اعوذ بر رب المخلق  
کو بروز سموار، جعرات، اتوار کو اول ساعت میں لکھ کر سحر زدہ کے گلے میں باندھے اور  
سات روز تک پلاۓ۔ ایک نقش روزانہ پلاتے رہیں۔ مجبوب ہے۔

۷۸۲

۲۱۶۹	۲۱۷۲	۲۱۷۵	۲۱۶۱
۲۱۷۳	۲۱۶۲	۲۱۶۸	۲۱۷۳
۲۱۶۳	۲۱۷۶	۲۱۷۰	۲۱۶۷
۲۱۷۱	۲۱۶۶	۲۱۶۴	۲۱۷۶

یا اللہ جمیع سحر جادو ٹونہ ٹوٹکہ جات سے محفوظ فرما

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
وجنات، دیلو، پیر اور سحر سفلی و علوی وجادو وغیرہ اثر انداز نہ ہوگا۔ اور یہ ہر مرض و درد کی  
شفا ہے اور عافیت و سکون کا قلعہ ہے۔

ترکیب زکوٰۃ یہ ہے کہ اول بروز جعرات عروج ماہ میں شروع کرے۔ روزانہ  
بعد نماز عشاء ایک سو ساتا لیس مرتبہ پڑھے چالیس روز تک چالیسویں روز ایصال ثواب  
کرے اور شیرینی تقسیم کرے۔ ان شاء اللہ عامل ہوگا۔ بعدہ سات مرتبہ روزانہ در  
رکھے وہ عزیمت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا لَطِيفُ الظُّفُرِ بِلْظُفُرِ الْأَشْمَاءِ  
الْحُسْنَى يَا أَحَىٰ يَا عَلَىٰ يَا وَلَىٰ يَا قَوِيٰ يَا غَنِيٰ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ  
شَبَّخْتَنَا إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلَمِيْنَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ  
الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِيْنَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ  
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

### برائے دفع سحر

۱۰۳۶۲۹۳	۱۰۳۶۲۹۶	۱۰۳۶۲۹۹	۱۰۳۶۲۸۲
۱۰۳۶۲۹۸	۱۰۳۶۲۸۷	۱۰۳۶۲۹۲	۱۰۳۶۲۹۷
۱۰۳۶۲۸۸	۱۰۳۶۳۰۱	۱۰۳۶۲۹۳	۱۰۳۶۲۹۱
۱۰۳۶۲۹۵	۱۰۳۶۲۹۰	۱۰۳۶۲۸۹	۱۰۳۶۳۰۰

یا اللہ جمیع سحر جادو ٹونہ کے اثرات سے محفوظ فرما

## برائے دفع سحر

اگر کوئی شخص سحر زدہ ہو، سحر ہندو یا سحر یہودی یا سحر بگالہ یا سحر سفلی وعلوی کی زدیں ہو تو اس نقش قل اعوذ بر رب الناس کو بروز جمعہ، توار، پیر اول ساعت میں لکھے۔ ایک نقش سحر زدہ کے گلے میں باندھے اور گیارہ لکھ کر دیوبے پینے کے واسطے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ حرمہ کو صحت کامل حاصل ہوگی۔ مجرب و آزمودہ ہے۔ وہ نقش قل اعوذ بر رب الناس یہ ہے۔

۷۸۶

۱۳۲۹	۱۳۳۲	۱۳۳۵	۱۳۲۲
۱۳۳۳	۱۳۲۳	۱۳۲۸	۱۳۳۳
۱۳۲۲	۱۳۳۰	۱۳۳۰	۱۳۲۷
۱۳۳۱	۱۳۲۶	۱۳۲۵	۱۳۳۶

یا اللہ جمیع سحر جمیع آفات و بلیات سے محفوظ فرما

اگر کوئی سحر و جادو کے اثرات میں بیتلہ ہو

اگر کوئی سحر و جادو کے اثرات میں بیتلہ ہو تو اس نقش عربی الحمد شریف سے کام لیں۔

ان شاء اللہ تعالیٰ مجرب پائیں گے۔ بروز اتوار، سوموار، بدھ، جمعرات کو بعد نماز ظہر لکھے اور تین نقش لکھ کر تیار کرے۔ اور اول سحر زدہ کے گلے میں باندھے اور دوسرا نقش مریض کی چار پانی کے اوپر چھٹت میں لٹکائے۔ اور تیسرا پانی کی بوتل میں ڈال کر رکھے اور اکیس روز

بادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
باد مج و شام سحر زدہ کو پلا سیں ان شاء اللہ تعالیٰ صحت کامل شفایے عاجل حاصل ہوگی۔  
حمد تقدیم عربی مندرجہ ذیل ہے۔  
مجرب ہے۔ تقدیم اللہ الرحمن الرحيم

مالك یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعين	اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم	غیر المغضوب عليهم ولا الضالین	بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العلمین
غیر المغضوب عليهم ولا الضالین	بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العلمین	مالك یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعين	اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العلمین	اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم	غیر المغضوب عليهم ولا الضالین	مالك یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعين

یا اللہ سحر جادو و ٹونہ سے ابطال سے محفوظ فرما

رجح والم و مصیبت و غم میں یا سحر میں بیتلہ ہو

اگر کوئی رنج والم و مصیبت و غم میں یا سحر میں بیتلہ ہو، سحر ہندو یا سحر سفلی۔ تو اس عزیمت کو بعد نماز فجر ۴۱ مرتبہ پڑھے اور دونوں ہاتھوں پر دم کر کے تمام جسم پر پھیرے اور

ایک مرتبہ پڑھ کر شہادت کی انگلی پر دم کر کے چاروں طرف گھمائے بہیت حصار مکان پڑھے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ مکان بھی محفوظ رہے گا اور سحر زدہ بھی صحستیاب ہو گا اور پانی پر کر کے پیتا رہے۔ اسی طرح بعد نماز عشاء کے پڑھے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ساحر دشمن غلبہ مغلوب اور سائب ہو گا اور معافی کا خواستگار ہو گا۔ وہ عزمت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلُلًا فِيهِ  
إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ○ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا  
مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبَصِّرُونَ۔ يَا حَمِيدُ  
الْفَعَالُ ذَا الْمَنْ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ بِلُطْفِهِ يَا حَمِيدُ۔

### برائے دفع سحر

اگر کوئی شخص سحر زدہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ شخص اس آیت کو روزانہ ۳۶۰ مرتبہ پڑھے اور پانی اور ہاتھوں پر دم کرے ہاتھوں کو تمام جسم پر پھیرے۔ اور پانی صبح سے شام تک تحولہ اتحوڑا کر کے پیئے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ صحت کامل پاوے۔ وہ آیت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلُلًا فِيهِ  
إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ○ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا  
مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبَصِّرُونَ۔ يَا حَمِيدُ  
الْفَعَالُ ذَا الْمَنْ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ بِلُطْفِهِ يَا حَمِيدُ۔

### برائے دفع سحر

اگر کسی شخص پر جادو ٹونہ کے سفلی و علوی عملیات کا اثر ہو تو اس عزمت کو چینی کی پلیٹ میں لکھ کر پانی سے دھو کر پلاۓ۔ اکیس روز تک۔ ان شاء اللہ تعالیٰ صحت کامل ہو گی۔

وَزَبَتْ يَكْ—  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ يَا أَعُّجَنَ لَأَحَنَ فِي دَيْمُونَتِهِ  
وَمُلْكِهِ وَبِقَائِهِ يَا أَعَجَنَ

### سحر کرانے سے اپنی بیوی سے نفرت ہو گئی ہو

سحر کرانے سے اپنی بیوی سے نفرت ہو گئی اور وہ شخص اپنی بیوی کی شکل دیکھنا بھی سحر کرانے سے بیوی سے بیزار رہتا ہو تو اس عزمت کو دھونی دے کر (اوبان کوارہ نہ کرتا ہو اور ہر وقت بیوی سے لکھے یعنی بروز منگل صبح ۲ سے لے بیجے کی) عورت کے گلے میں باندھے اور طالع حمل میں لکھے یعنی بروز منگل صبح ۲ سے بیجے کی درمیان لکھنا چاہیے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ شوہر کے دل کا بغض و عناد دوڑ ہو گا اور حقیقی بیت عورت کی ہو جائے گی۔ مجبوب ہے۔ وہ عزمت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَاهُ عَلَى قَوْلِهِ كَرِيمٌ  
فَلَمَّا أَلْقَاهُمْ مُؤْسِي مَا جِئْنُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيْبُطُلُهُ إِنَّ  
اللَّهَ لَا يُضْلِعُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ○ وَيُحَقِّقُ اللَّهُ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ  
وَلَوْكَرِهِ الْمُجْرِمُونَ○

### برائے دفع سحر

اگر کسی عورت پر کسی ظالم نے ایسا سحر جادو کیا ہو یا کرا دیا ہو کہ عورت کو اپنے شوہر سے نفرت ہو جائے اور وہ عورت اپنے شوہر کی شکل دیکھ کر غصہ میں سرخ ہو جاتی ہو اور نہایت ہی بغض و نفرت و تھمارت کی نظر سے دیکھتی ہو اور کلام بھی کرنا پسند نہ کرتی ہو تو کھجور یا بجیر پر تین مرتبہ سورہ یوسف پڑھ کر دم کر کے اس عورت کو کھلائے اور نقش سورہ یوسف کا لکھ کر اس مرد کے دامنے بازو میں باندھے۔ ان شاء اللہ نفرت محبت میں بدل جائے گی۔

# مُلْكٌ

اور لڑکی کی کمر میں باندھیں اور ایک دوسرے کاغذ پر یہ کلمات لکھ کر سر میں چوٹی میں باندھے۔

أَوْمَنَ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَنَنَاهُ  
ان شاء اللہ تعالیٰ سحر سفلی وعلوی وثونہ تو نکھ سب رو ہو جائے گا اور لڑکی کا بخت کھل جائے گا اور شادی ہو جائے گی۔ عرصہ چالیس روز تک سر میں اور کمر میں تعویذ باندھ کر رکھنا چاہیے۔ اور جب کہیں رشتہ طے ہو جائے تعویذوں کو کھول کر دریا میں بہاؤ اس اورے فقیروں کو کھلانا کھلا سکیں اور بچوں کو شیرینی تقسیم کریں۔ مجرب ہے۔ تعویذ لکھنے کا مکمل طریقہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اللّٰهُ نَشَّحَ لَكَ صَدْرَكَ ۝ وَضَعَنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝ الَّذِي أَنْقَضَ  
فَلْهُرَكَ ۝ وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنَّ مَعَ  
الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ فَإِذَا فَرَغْتَ فَاقْصُبْ ۝ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝  
مَرْتَبَهُو زَيَّنَاهَا لِلتَّاظِرِينَ ۝ مَرْتَبَهُ قَالَ مُؤْسِي مَا جِئْتُمْ بِهِ  
السِّحْرِ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۝  
وَلَا يُفْلِحُ السَّاجِرُ حَيْثُ أَتَى بِحَقٍّ أَهْيَا أَشْرَاهِيَا

# مُلْكٌ

یا اللہ فلاں بنت فلاں کا بخت کھول دے ہر قسم کے سحر کو رد کر دے

نقش سورہ یوسف کا یہ ہے۔

۷۸۶

۱۲۵۹۹۳	۱۲۵۹۹۸	۱۲۶۰۰۱	۱۲۵۹۸۷
۱۲۶۰۰۰	۱۲۵۹۸۸	۱۲۵۹۹۳	۱۲۵۹۹۹
۱۲۵۹۸۹	۱۲۶۰۰۳	۱۲۵۹۹۶	۱۲۵۹۹۲
۱۲۵۹۹۷	۱۲۵۹۹۱	۱۲۵۹۹۰	۱۲۶۰۰۲

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اگر کسی ظالم بدینت شخص نے یا کسی ظالمہ بد کردار عورت نے کسی لڑکی کی شادی کی بندش کیلئے جادو نونہ کرایا ہو اور شادی نہ ہوتی ہو۔ رشتہ آتے ہوں مگر دیکھ کر لوٹ جاتے ہوں یا قطعاً آتے ہی نہ ہوں۔ یا رشتہ طے ہو کر نوٹ جاتا ہو تو اس لڑکی کے داشت کے بروز پنجشنبہ صبح ۶ بجے سے ۷ بجے تک کے درمیان اللّٰهُ نَشَّحَ پوری ۷ مرتبہ اپنے لکھے وَرَيَّنَاهَا لِلتَّاظِرِينَ ۝ مرتبہ لکھے اور نیچے

قَالَ مُؤْسِي مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرِ إِنَّ اللّٰهَ سَيْبُطْلُهُ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَلَا يُفْلِحُ السَّاجِرُ حَيْثُ أَتَى بِحَقٍّ أَهْيَا أَشْرَاهِيَا

او اس کی یہ شکل بنائیں۔

### اگر کسی لڑکی کا رشتہ عقد بستہ کیا ہو

اگر کسی لڑکی کا رشتہ عقد بستہ کیا ہو اور کہیں سے بھی کوئی رشتہ آتا ہو تو بروز جمعہ یا آخر بوقت ۱ بجے سے ۷ بجے کے درمیان یہ نقش لکھے اور نچے عزمیت مذکور لکھے اور آیت مذکورہ لکھے اور تین تعویذ لکھے۔ اول گلے میں باندھے دوسرے کو پانی میں پکا کر فصل کرائے سات روز تک اور تیرے نقش کو پانی کی بوتل میں ڈالے اور صبح و شام لڑکی کو پانے رہیں۔ ان شاء اللہ حکم اور بندش کھل جائے گی اور جلد اچھارشتہ ملے گا اور جلد نکاح ہو جائے گا مجرب ہے۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۳۰۳۲۸	۳۰۳۲۹	۳۰۳۳۰	۳۰۳۲۱
۳۰۳۳۳	۳۰۳۲۲	۳۰۳۲۷	۳۰۳۳۲
۳۰۳۲۳	۳۰۳۳۶	۳۰۳۲۹	۳۰۳۲۶
۳۰۳۳۰	۳۰۳۲۵	۳۰۳۲۳	۳۰۳۳۵

يَا جَمَاعَةَ الرِّجَالِ وَالرَّهْرِ مِنْ هَيَاكِلِهِ وَتَنْبِيهِ وَالْقَيْنُوتِ عَلَيْكَ مَحَبَّةً وَعَظْفًا وَحَنَانًا وَتَخَيَّلًا وَعِشْقًا وَتَخَيَّلًا وَعِشْقًا وَتَخَيَّلًا لَا كَافَةً لَكُمْ بِالْجُلوْسِ وَلَا لِلْقُوْدِ حَتَّى يَتَرَوَّجَهَا أَحَدٌ قِنْكُمْ وَأَظْلَعَتْ تَعْطِينِلَهَا وَأَنْ يَتَرَوَّجَهَا يَا هَلْعَانِيَةَ حَرِّكُوا الْأَرْوَاحَ الرُّؤْحَانِيَّةَ السَاكِنَةَ فِي قُلُوبِ الْأَجْنَبِينَ

فَيَنْظُرُوا إِلَى قُلَانَةٍ (لڑکی کا نام) فَوَبَصُوا فَإِنَّ أَعْيُنَهُمْ كَالشَّمْسِ الْمَنَيِّرَةِ أَوْ كَنَظْرِ زُلَيْخَاءِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرَ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضْلِعُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَا يُفْلِحُ السَّاجِرُ حَتَّىٰ۔

نوٹ: فلانہ کی جگہ لڑکی کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھیں۔ مولف۔

### اگر شوہربیوی سے نفرت کرے

اگر کسی مرد پر ایسا سحر کیا گیا ہو کہ وہ اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگے اور شکل و صورت دیکھنے ہی غصہ سے سرخ ہو جائے اور کسی بھی بات کو بیوی کی نہ سنبھال سکتے اور کلام کرنا بھی پسند نہ کرے سمجھانے پر بھی نہ سمجھے تو ایسے مرد کیلئے آیت مذکورہ کو اور آیت رو سحر کو چینی کی پلیٹ یا سفید کاغذ پر لکھے۔ سات پلیٹ لکھے یا سات تعویذ کاغذ پر لکھے اور ایک پلیٹ یا تعویذ روز باڑ کے پانی میں دھو کر پلاۓ ان شاء اللہ تعالیٰ سحر کا اثر زائل ہو گا اور وہ مرد اپنی بیوی سے سابق کی طرح محبت کرنے لگے گا۔ مجرب و آزمودہ ہے وہ آیات یہ ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ أَذْدِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔

قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرَ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضْلِعُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَا يُفْلِحُ السَّاجِرُ حَتَّىٰ أَنْ يَبْحَثَ

أَهْيَا أَشْرَاهَيَا

### برائے بطلان سحر

اگر کسی عورت پر ایسا سحر کرایا گیا ہو کہ حمل ساقط و ضائع ہو جائے اور وہ عورت

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات ۲: جادو اور جنات ۱71  
پریشان رہتی ہو اور سب کچھ مداری کرنے کے باوجود حمل محفوظ نہ رہتا ہو تو اس عمل کو کام میں لا سمجھیں۔  
تو صحیح رہتا ہے ایسی عورتوں کے دفعیہ سحر اور حفاظت حمل اور اولاد زینہ کے واسطے سورہ نجم کا نقش لکھئے اول گلے میں باندھے باقی کو پانی میں دھو کر پیئے اور غسل کرے اسی طرح چالیس روز تک پئے اور غسل کرے ان شاء اللہ تعالیٰ حمل محفوظ رہے گا اور اڑ کا صحیح تولد ہو گا اور سحر کا بطلان ہو گا اور ایک بوتل میں پانی ڈال کر کھیں اور اس پر سورا نبیاء اور آیت سحر اور اسما قمرے۔۔۔ مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور تاوضع حمل پلاتے رہیں۔۔۔ مجرب و آزمودہ ہے۔ نقش سورہ نجم اور آیت بطلان سحر کا اور اسما قمر کا طریقہ یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيْبُطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَلَا يُفْلِحُ السَّاجِرُ حَيْثُ أَتَ بِحَقِّ أَهْيَا أَشْرَاهِيَّاً

۲۸۵۶۸	۲۸۵۷۱	۲۸۵۷۳	۲۸۵۶۱
۲۸۵۷۳	۲۸۵۶۲	۲۸۵۶۷	۲۸۵۷۲
۲۸۵۶۳	۲۸۵۷۶	۲۸۵۶۹	۲۸۵۶۶
۲۸۵۷۰	۲۸۵۶۵	۲۸۵۶۳	۲۸۵۷۵

لِيَاخِيْمِ لِيَا لِغُوٍ، لِيَا فُوْرِ، لِيَا رُوْثِ، لِيَا رُوْغِ۔۔۔ لِيَا رُوْشِ، لِيَا شُلَّشِ یا اللہ سحر کا بطلان فرمادے اور اولاد زینہ عطا فرمادے۔۔۔

## برائے بطلان سحر

اگر کسی دہن پر ایسا سحر کرایا ہو کہ دو لہا سے نفرت کرے اور آپس میں نفرت و تھارت بڑھے اور گھر ویران ہو جائے تو ایسی حالت میں آیت سحر اور آیت مذکورہ لکھ کر عورت کو پلا سمجھیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ رد سحر ہو گا۔ اور دو لہا کی محبت ہو گی نفرت دور ہو گی۔ ان

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات ۱70  
پریشان رہتی ہو اور سب کچھ مداری کرنے کے باوجود حمل محفوظ نہ رہتا ہو تو اس عمل کو کام میں بازدھیں نقش لکھیں اور آیت سحر کو نقش کے اوپر لکھیں اور وہ نقش عورت حاملہ کی مرتبہ کر کے پانی پر دم کر کے اور حاملہ کو روز صحیح و شام پلاۓ چالیس روز تک۔۔۔ افضل و بہتر ہے تاوضع حمل تک یعنی دوران امید ہمیشہ پلاتے رہیں۔۔۔ ان شاء اللہ تعالیٰ بطلان سحر ہو اور عورت کا حمل محفوظ رہے گا اور وقت پیدائش بچہ دز چہ محفوظ سلامت رہیں گے مجرب، آزمودہ ہے۔۔۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيْبُطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَلَا يُفْلِحُ السَّاجِرُ حَيْثُ أَتَ بِحَقِّ أَهْيَا أَشْرَاهِيَّاً

۸۹۰	۸۹۳	۸۹۶	۸۸۲
۸۹۵	۸۸۳	۸۸۹	۸۹۲
۸۸۳	۸۹۸	۸۹۱	۸۸۸
۸۹۲	۸۸۷	۸۸۵	۸۹۷

یا اللہ بطلان سحر فرمادے حفاظت فرم۔۔۔ آمین

## بوجہ سحر اگر لڑ کیاں پیدا ہوں

اگر کسی عورت پر ایسا سحر کرایا گیا ہو کہ صرف لڑ کیاں ہی ہوں اور لڑ کے نہ ہوں۔۔۔ ایسی عورتوں کو جب بھی امید ہوتی ہے اگر لڑ کے کا حمل ہے تو ضائع ہو جاتا ہے اور اگر لڑ کی کا حمل

آیات کو جھنی کی طشری میں یا سفید کاغذ پر لکھ کر روزانہ ایک بار دھوکر پلاسیس سات روز

لکھ۔ یا چالیس روز تک۔ مجرب و آزمودہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيْبَطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَلَا يُفْلِحُ السَّاجِدُ حَيْثُ أَنْ يَحْتَقِنَ أَهْيَأً أَشْرَاهِيَّاً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا

زَوْجَيْنِ لَعْلَكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ پوری لکھیں۔

یا اللہ فلاں بت فلاں کا بطلان سحر فرم اور شوہر کی حقیقی محبت عطا فرم۔

### عورت کا ہمبستری سے نفرت کرنا

اگر کسی عورت پر ایسا سحر کرایا گیا ہو کہ اس کو ہمبستری سے نفرت ہو جائے۔ اور اس عورت کو ہمبستری سے واقعی نفرت ہو گئی ہو تو اس عزیمت کو سفید کاغذ پر ۰۷ مرتبہ لکھیں۔ اور پانی سے دھوکر اور شہد سے میٹھا کر کے پلاسیس ان شاء اللہ در سحر ہو گا۔ اور اس عورت کی نفرت ہمبستری سے دور ہو جائے گی۔ وہ عزیمت یہ ہے۔

إِنْرَءَةٌ نُوحٌ وَإِنْرَءَةٌ لُؤْطٌ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا الصَّالِحِينَ۔

### برائے رو سحر

بہت سی عورتوں پر اس طرح سحر کرایتے ہیں جس سے لڑکوں کی پیدائش بند ہو کر لوکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی رہیں ایسی عورتوں کے واسطے اس عزیمت کو کام میں لاگیں اور قدرتِ خداوندی کا کرشمہ دیکھیں۔ ترکیب اس طرح ہے کہ جب چار ماہ کا حمل ہوتا اس عزیمت کو ۲۱ عدد لکھیں۔ اور ایک ایک تعویذ صبح کو نہار منہ پلاسیس۔ ان شاء اللہ

بادا اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات

ذلیل لڑکا پیدا ہو گا۔ عزیمت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ سَمَيْتُ مُحَمَّدًا فَتَسْتِهِ أَنْتَ مُحَمَّدًا بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ

### برائے کشادگی بخت

بعض لوگ دشمنی وعداوت میں کنواری لڑکیوں پر اس قسم کا سحر غلی کرایتے ہیں جس سے مسحورہ لڑکی کی شادی رک جائے اور اچھارشته نہ ملے اور اگر ملتا بھی ہے تو معمولی معمولی باتوں پر الجھ کر ٹوٹ جاتا ہے اور بیچارے والدین رات ون پر بیشان رہتے ہیں تو اسی لڑکیوں کے واسطے یہ نقش لکھ کر دو عدد تعویذ تیار کریں۔ اول لڑکی کے گلے میں یا کمرے میں باندھیں۔ دوسرا مکان کی چھت میں لٹکائیں۔ مووم جامد کر کے ہرے رنگ کے کپڑے میں سی کر استعمال میں لاگیں۔ اور پوست آہو، یعنی ہرن کی جھلی پر لکھیں۔ ورنہ سفید کاغذ پر مشک وزعفران سے لکھیں۔ بروز دو شنبہ یا پنجشنبہ لکھیں وہ عزیمت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَكِيمُ الْكَرِيمُ  
سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ كَانُهُمْ  
يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُؤْعَدُونَ لَهُمْ يَلْبَسُونَا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلْغُ فَهَنْ  
يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَسِقُونَ رَبِّ سَهْلٌ وَيَسِّرْ بِحَقٍّ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ  
إِلَّا رَحْمَةً إِلِّيْلَعَالَمِينَ۔

اور نقش سورہ احزاب کا مریع اس صورت میں لکھا جائے کہ پہلے آیت مذکورہ لکھیں نیچے نقش لکھیں۔ نقش اگلے صفحہ پر ہے۔

## برائے رو سحر

بعض لوگ اکثر حاملہ عورتوں پر سحر کرایتے ہیں جس کی وجہ سے اسقاط ہو جاتا ہے اگر کسی عورت کو ایسی شکایت ہو تو ایسی حالت میں لال رنگ کا دھانگا لیوے اور سات تار کرے اور گندہ بنائے اور نوگرہ لگائے۔ اور ہر گردہ پر آیت مذکورہ اور قل یا یہاں کافروں ایک ایک بار پڑھ کر دم کرے اور صندل سرخ کی دھونی دے حاملہ کی کرم میں باندھے ان شاء اللہ تعالیٰ اسقاط حمل نہ ہوگا۔ وہ آیت شریف یہ ہے۔

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاصْبِرْ وَمَا صَبَرُوكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْرِزْنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضِيقٍ مِمَّا يَنْكُرُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ**۔ اور قل یا یہاں کافروں پڑھ کر دم کریں۔

## برائے رو سحر و حفاظت اطفال

سحر زدہ زچہ و بچہ کی حفاظت کیلئے علامات یہ ہیں۔ روز بروز زچہ و بچہ لاغر و کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ در دشکم، مرزو، اسہال پیلے و سفید بعض وقت پانی کی طرح دست ہوتے ہیں۔ ہڈیوں میں درد، ہڑکل بے چینی ہوتی ہے۔ ڈرخوف لگا رہتا ہے۔ خاموش دیوانوں کی طرح رہنے لگتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آیۃ شریف لکھ کر زچہ و بچہ کے گلے میں ڈالے اور ایک تعویذ روز پلاٹے رہیں۔ برابر چالیس روز تک وہ آیۃ شریفہ یہ ہے۔

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُؤْلَمُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ۚ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلَمِينَ**۔

۷۸۶

۸۸۸۱۳	۸۸۸۱۷	۸۸۸۲۰	۸۸۸۰۷
۸۸۸۱۹	۸۸۸۰۸	۸۸۸۱۳	۸۸۸۱۸
۸۸۸۰۹	۸۸۸۲۲	۸۸۸۱۵	۸۸۸۱۲
۸۸۸۱۶	۸۸۸۱۱	۸۸۸۱۰	۸۸۸۲۱

## برائے جزع و فزع

بعض لوگ حاسدین ذہنیت کے بہت ہی عورتوں پر حالت حمل قریب پیدائش ایسا کرایتے ہیں کہ سحر زدہ عورت مثل نزع کی حالت میں بتلا ہو جاتی ہے۔ بلکہ مریضہ ہی نہیں نومولود ہونے والا بچہ بھی فوت ہو جاتا ہے اور سحر زدہ بھی ہلاک ہو جاتی ہے۔ یہ بہت سخت گناہ کیرہ ہے اگر کوئی مریضہ اس حالت جزع و فزع میں بتلا ہو یا بچہ کے پیٹ میں مرجانے کا اندیشہ ہو یا استقاط ہونے کا احتمال ہو یا اسقاط وقت سے پہلے ہو گیا ہو تو ایسی حالت میں اس آیت شریفہ کو مشک و زعفران سے مٹی کی پیالی میں لکھیں اور پانی میں ہجوم کر لال شکر ملا کر پلاسیں تو ان شاء اللہ حالت جزع و فزع دور ہو گی۔ اور مریضہ کو سخت دشغاب ہو گی۔ وہ آیت شریفہ یہ ہے۔

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاصْبَحَ فُؤَادُ مُوسَى فَارِغاً ۝ إِنَّ كَادَتْ لَتُبَدِّيَ بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَّنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ**

## برائے رو سحر

بعض لوگ بہت سے اچھے کھاتے پیتے لوگوں کو دیکھ کر بغرض مالی مفاد حاصل کرنے کے واسطے بہت سی نوجوان لڑکیاں اپنی ہوس اور خواہش نفسانی کو اور مالی مفاد کو پورا کرنے کیلئے سحر کرادیتے ہیں۔ مردوں کو ان کی بیویوں سے جدا کرادیتے ہیں۔ لڑکوں کو والدین سے جدا کر دیتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کے واسطے جو کسی کے دام محبت میں پھنس کر دیوار ہوئے ہوں۔ گھر سے بے خبر ہو گئے ہوں۔ اپنے پرائے بیگانے ہو گئے ہوں۔ تو ایسے نئے لوگوں کے واسطے عزیمت مذکور کو لکھ کر پیالہ یا کاغذ پر صحیح کونہار منہ چٹا کیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔ عشق و محبت دل نے کافور ہو گا وہ عزیمت یہ ہے۔

اب وال دل الیؤہ ننساگم کمانسیتتم لقاء یوم مکم هذا  
وَنِسْعَ مَا قَدَّمْتَ يَدَاهُ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ فَتَسْعَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَذَماً۔

## برائے رو سحر

عشق و محبت فراموش کرانے کے واسطے ہے۔ اس عزیمت کو لکھ کر چٹا کیں۔ عزیمت یہ ہے۔

یَكُمُوْش، یَكُمُوْش، بَهْمُوْش، وَیَكُمُوْش اللہمَ بِحَقِّ هَذِهِ  
الاَسْمَاءِ فَلَان بن فلان کے دل سے فلان بن فلانہ کی محبت نکال دے۔

## عشق و محبت فراموش کرانے کے واسطے

عشق و محبت فراموش کرانے کے واسطے اس عزیمت کو پیالہ میں یا کاغذ پر لکھ کر

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
پٹا کیں۔ سات روز تک اور ایک دن میں تین بار چٹا کیں۔ وہ عزیمت یہ ہے۔

سَفُوْسٍ سَفُوْسٍ سَفُوْسٍ اللَّهُمَّ بَرِّدْ فَلَانَ بْنَ فَلَانَهُ مِنْ قَلْبِ  
فَلَانَ بْنَ فَلَانَهُ كَمَا بَرَّدَتْ نَارًا لِتَمْرُودَ عَلَى سَيِّدَنَا إِبْرَاهِيمَ  
عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَثَلَ كَلِمَةٍ حَبِيبَتِهِ كَشْجَرَةٍ حَبِيبَتِهِ اجْتَمَعَتْ مِنْ  
فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ وَلَامَكِينٌ كَذَا إِلَكَ لَا يَكُونُ  
لِفَلَانَةَ بِنْتِ فُلَانَةَ فِي قَلْبِ فُلَانَ بْنِ فَلَانَةَ قَرَارٌ وَلَامَكِينٌ  
فَحُشُوْبًا خَشَخَصٌ سَرَاهُ لِمَفْعَمَ افْسَخَ عَنْ مُحَبَّةِ فُلَانَ بْنِ  
فُلَانَةَ الْعَجَلُ الْوَحَّا السَّاعَةُ

## برائے رو سحر

بعض لوگ شہوت نفسانیہ کو معدوم کرنے کیلئے یا بہت مشتعل کرنے کیلئے سحر غلی  
کر دیتے ہیں اگر کسی کی شہوت نفسانیہ کو مشتعل کر دیا گیا ہو اور کسی شخص پر غلبہ شہوت  
نفسانیہ غالب آجائے تو اسماء باری تعالیٰ میں سے وہ اسماء جن میں سی آتا ہو وہ لکھ کر  
پٹا کیں۔ وہ اسماء یہ ہیں۔

عَلَيْ عَلِيِّمَ عَظِيْمَ رَحِيْمَ كَرِيْمَ قَدِيْرَ، حَكِيْمَ نَعِيْمَ رَشِيْدَ.  
بَصِيْرَ، عَزِيْزَ يَا بَارِيُ الْعَجَلُ الْوَحَّا. السَّاعَةُ

## مریض عشق کا ایک اور آسان مجرب عمل

مریض عشق کا ایک اور آسان مجرب عمل اس طرح ہے کہ اس عزیمت کو کفن کے  
کھڑے پر لکھیں اور سموار کے دن لکھیں اور بکری کے سینگ میں رکھ کر منہ پر مومن گا کر  
پرانی قبر میں سموار یا منگل کے ہی دن گاڑیں۔ وہ عزیمت یہ ہے۔

يَعْلَمُ لِيَقَاءَ يَوْمَكُمْ هَذَا كَذَلِكَ يُعْلَمُ  
الْيَوْمَ نَسَاكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِيَقَاءَ يَوْمَكُمْ هَذَا كَذَلِكَ يُعْلَمُ  
(عاشق کانام) مِنْ (معشوق کانام) يَئِسَ مِنْكَ يَئِسَ  
الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُوْرِ قَالَ رَبِّ لِهِ حَشْرٌ تَبَّأْ أَغْنِيَ وَقَرَ  
كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ  
تُنْتَ (معشوقہ کانام مع والدہ) مِنْ قَلْبِ (عاشق کانام مع  
والد) الْعَجْلُ الْعَجْلُ الْعَجْلُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ

### برائے رو سحر مر بوٹ

اگر کوئی سحر زدہ اس قدر مغلوب ہو جکہ اس کو کچھ اور نظر نہ آتا ہو تو  
جنون و دیوانگی میں حد تک پہنچ گیا ہو کوئی نصیحت کوئی علامت کوئی ترکیب و تدبیر کا رکن  
ہوتی ہو تو اس عزیت کو منی کے کوڑے بیالے میں لکھیں اور سحر زدہ کو پلاں گیں۔ ان شاء اللہ  
بعرصہ چالیس یوم میں مریض عشق کا افقہ ہو جائے گا۔ وہ عزیت یہ ہے۔

سَقَيْنَ سَقَيْنَ سَنَسِيْنَ اللَّهُمَّ بَرِّدِدْ سُحْنَتَةَ فُلَانَةَ  
إِنْتَ فُلَانَةَ مِنْ قَلْبِ فُلَانَ بْنِ فُلَانَةَ كَمَا بَرَّدَتْ نَارَ النَّمُوذَ عَلَى  
سَيِّدَنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَثَلَ كَلِمَةٍ خَبِيْشَةٍ كَشَجَرَةٍ  
خَبِيْشَةٍ اجْتَثَثَ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ وَلَا مَكِينٍ فِي  
فُلَانَةَ إِنْتَ فُلَانَةَ مِنْ قَلْبِ فُلَانَ بْنِ فُلَانَةَ الْعَجْلُ الْعَجْلُ  
الْعَجْلُ الْوَحَا الْوَحَا السَّاعَةُ السَّاعَةُ

### برائے رو سحر مر بوٹ کا علاج

مر بوٹ جمع ربوط کی ہے۔ ربط یعنی قوت رجولیت کے بند ہونے کی تمنی تسمیہ ہے۔  
آسیب جو گیان و پریان دیگر چیزوں میان اثرات سے قوت مردی مختقو و ہو جاتی ہے۔  
دوسرے بین آدم یعنی عوام انسان میں سے کسی کے جادو سحر غسلی و ٹونے وغیرہ کرنے سے  
قوت مردی بند ہو جاتی ہے یعنی وہ مسحور ہمستری کے لاکن نہیں رہتا۔  
طبعاً واصاحاً پیدائشی نامرد ہوتا ہے۔ اول جو جنائی اثرات سے متاثر ہوتے ہیں اس  
کی علامت یہ ہے کہ عورت کے قریب جاتے ہی متنی خارج ہو جاتی ہے۔ یادخواں  
ہوتے ہی متنی خارج ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے۔ کہ تمنی انڈے لاؤے اور  
اویں انڈے پر وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِيٍّ وَإِنَّا لَمُوْسِعُونَ - دوسرے  
انڈے پر وَالْأَرْضَ فَرَشَنَهَا فَنِعْمَ الْمَهْدُونَ۔ تیسرا انڈے پر  
وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ لکھیں۔ پہلا انڈا مرد  
خود کھائے دوسرے پورا عورت کو کھلائے اور تیسرا آدھا آدھا انڈا عورت مرد دونوں  
کھائیں سات مرتبہ اسی طرح استعمال کریں ان شاء اللہ سحر دور ہو گا۔ اور صحبت  
ہو گی۔

### برائے رو سحر مر بوٹ

اگر کوئی شخص اس عارضہ میں مبتلا ہو گیا ہو تو چاہیے کہ ایک مرغی سیاہ رنگ کی لائے اور  
اس کو صاف غذا کھائیں۔ صبح کو گیہوں کا دانہ اور رات کو جوار کا دانہ کھلانا چاہیے۔ صبح والے  
دانہ پر قل اعوذ بر رب الفلق ۲۱ مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور شام کو دانہ جوار پر قل اعوذ بر رب  
الناس ۲۱ مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ اور جب وہ مرغی انڈا دینے لگے تو ایک چھری لے کر اس

پر یہ عزیت لکھے اور اسی پھری سے اندادا ہے۔ اس دوستے ادھار میں کیسری سرعت سے محفوظ رہے گا اور ہمیشہ کیلئے محنت کامل حاصل ہوگی۔

مَلَأْتُه مَلَأْتُه  
مَلَأْتُه مَلَأْتُه  
مَلَأْتُه مَلَأْتُه

ہر سی شخص کی منی یا مددی باندھ دی گئی ہو یا کسی شخص کا پیشہ کا بندھ دال دیا گیا ہو  
یا بادی و خونی بو اسیر کیلئے سحر سفلی کرا دیا گیا ہو تو اسکی صورت میں چاہیے کہ روز بندھ کی  
جی سے بچے کے درمیان ایک کانڈ پر چینی کی پلیٹ میں لگای کر ۸ عدد نقش تیار کریں  
کو داہنے بازو میں باندھیں۔ وحونی مود کی دینی چاہیے۔ روز تک ان شاء اللہ تعالیٰ سحر  
کلی و عطا کی وسیعی باطل ہوگا۔ وہ عزیمت یہ ہے۔

**الْعَجْلُ الْعَجْلُ الْعَجْلُ الْعَجْلُ الْعَجْلُ الْعَجْلُ الْعَجْلُ**

أَبْطَلُوا أَبْطَلُوا وَآخِرِ جُوْهٌ وَآخِرِ جُوْهٌ وَحُقُّوْهُ وَحُقُّوْهُ أَفْتَحُوا  
أَفْتَحُوا شَرَاهِيًّا بِعِزَّةِ اللَّهِ يَزْوُلُ بِقُوَّةِ اللَّهِ يَزْوُلُ كُلُّ بَأْسٍ  
وَيُقْدِرُ اللَّهُ يَنْحَلُ كُلُّ مَغْقُودٍ ك ॥ دو ٣٣٦ ١٩٨ العجل

الْعَجْلُ الْعَجْلُ الْعَجْلُ الْعَجْلُ الْعَجْلُ الْعَجْلُ الْعَجْلُ الْعَجْلُ

# روتھر برائے معقوود

اگر کسی مرد کی قوت نفسانیہ کو باندھ دیا گیا ہو تو اس کے واسطے سہل الحصول محیر العقول  
محبوب عمل ہے۔ ترکیب اس طرح ہے کہ اول آیت مذکورہ کو ۳۱ مرتبہ پانی پر دم کر کے  
پانچیں اور شہلا نمکیں۔ دوسری آیت کو مع عزیمت کے لکھ کر ریزہ ریزہ کرو اور پھر انداختا کر کے  
باندھنا ہے۔ ان شاء اللہ سحر سفلی و ثونہ باطل ہو گا اور مریض کو شفائے عاجل صحبت کامل  
ہو گ۔ اول آیت جو یانی پر پڑھی جائے گی وہ یہ ہے۔

وَاتَّبِعُوا مَا تَنْتَلُو الشَّيَاطِينُ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ  
دوسري آيت یہ ہے۔ ددددد خ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ  
الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔

پر یہ عزیت لکھے اور اسی پھری سے اندھا ہے۔ اونس ووڈھا سے ادھا گورت کو حاصل کرنے کی سرعت سے مکنون ڈار ہے کا اور ہمیشہ کیلئے سوت کامل حاصل ہو گی۔

مَلَأْتُه مَلَأْتُه  
مَلَأْتُه مَلَأْتُه  
مَلَأْتُه مَلَأْتُه

اگر کسی شخص کو کسی دشمن یا حاسد وغیرہ نے سحر سفلی کرا دیا ہو اور سرعت انزال میں پہنچا ہو گیا ہو یا منی یا لندی کا ذرا شمارے پر اخراج ہو جاتا ہو یا کسی فون ٹو وغیرہ کو دیکھ منی یا لندی کا اخراج ہو رہا ہو تو ایسے شخص کیلئے آیت مذکورہ کو لکھ کر تعویذ بنا کر ناف نیچے پہنچو پر باندھیں اور ایک عدد تعویذ روز پانی میں دھو کر پلاںیں ان شاء اللہ منی انداز کا اخراج اور سرعت انزال کی شکایت دور ہو گی۔ بحکم ربی شفائے کامل حاصل ہو گی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
كُلُّتُّمَا كَيْفَيَّتِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۔

# برائے رہسحر

اگر کوئی شخص سرعت انزال میں یادی یا منی کے اخراج میں بستلا ہو تو چینی کی پیسے میں سورۃ القدر پوری لکھ کر روز صح کو پلاٹیں اس شاء اللہ تعالیٰ فائدہ کشیر ہو گا۔ اخراج میں یادی بندہ ہو گا سرعت انزال سے محفوظ رہے گا۔ قوت مردمی میں اضافہ ہو گا۔

## رُدُّ سُحْرٍ بِرَأْيِ قَدْرَتٍ

اگر کوئی شخص بوجہ سحر عورت پر قادر نہ ہوتا ہو اور ملتے ہی اخراج ہو جاتا ہو تو اس کو ام (القہار) یاد کرائیں تاکہ ہر نماز کے بعد ۷۳۳ مرتبہ پڑھے۔ اور عامل اس ام کا نقش کر دیوے ۲۱ روز تک برابر ایک بار روزانہ صبح پیتا رہے ان شاء اللہ عورت پر قادر ہو کر جلد ازالہ ہو گا۔ اسم القہار کا نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۸۲	۸۷	۹۰	۷۶
۸۹	۷۷	۸۳	۸۸
۷۸	۹۲	۸۵	۸۲
۸۶	۸۱	۷۹	۹۱

## بِرَأْيِ رُدُّ سُحْرٍ

اگر کسی شخص پر کسی ظالم دشمن جان نے سحر سفلی یا ثونہ، ٹوٹکا یا سیفی عمل کرادیا ہو اسکے صورت میں مذکورہ آیات کو ایک کاغذ پر لکھ کر تیار کریں۔ اور ایک تعویذ بنائیں میں ڈالیں۔ اور ایک تعویذ کو تین بار پیئیں۔ یعنی صبح سے شام تک ۲۱ یا چالیس روز تک ان شاء اللہ تعالیٰ صحت کامل شفائے عاجل ہو گی۔ مجرب ہے۔ وہ آیات یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَبَنَيْنِ آدَمَ حُذُوا زِينَتَكُمْ إِنَّ

كُلُّ مَسْجِدٍ وَكُلُّوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِينَ۔ قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادَةِ  
وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۝ قُلْ  
إِنَّمَا حَرَمَ رَبِّ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمُ وَالْبَغْيُ  
يُغَيِّرُ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ  
تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

## بِرَأْيِ رُدُّ سُحْرٍ

اگر کسی پر کسی ظالم نے اہم اور سخت قسم کا سحر کرادیا ہو تو چاہیے کہ آیت مذکورہ و متبصرہ کے ۲۲ عدد نقش تیار کرے۔ اول مریض کے گلے میں باندھے اور باقی ایک نقش روز صبح کو نہار منہ پلاسیں ان شاء اللہ تعالیٰ چند روز میں صحت کامل ہو اگر ضرورت ہو تو ان آیاتے کو ۱۰۰ مرتبہ بیری کے پتوں پر دم کر کے پانی میں پتوں کو پکا کر مریض کو تین دن غسل کرایا جائے ان شاء اللہ تعالیٰ شفائے عاجل ہو گی۔ وہ آیت شریفہ یہ ہے۔

فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقُوَّا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ۔ فَلَمَّا  
الْقَوَا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ  
لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ۝

## رُدُّ سُحْرٍ بِرَأْيِ اَظْهَارِ لُوْشِيدَه سُحْرٍ

اگر کسی شخص کو اپنے مکان یادوگان میں شبہ ہو کہ کسی جگہ سحر کر کے دفن کیا گیا ہے۔ تو اس شخص کو چاہیے کہ یہ نقش سفید کاغذ پر لکھے اور سفید مرغ کے گلے میں باندھے اور مرغ کو

چھوڑ دے مرغ جس جگہ پر جا کر بیٹھے اسی جگہ دفن کیا ہوا سحر ہو گا۔ اس کو گھوڑ کر نکالا جائے تو  
بے۔ مجرب و آزمودہ ہے۔

۷۸۶

۵۰۳۳۲	۵۰۳۳۳	۵۰۳۳۱	۵۰۳۳۷
۵۰۳۳۰	۵۰۳۲۸	۵۰۳۳۳	۵۰۳۳۸
۵۰۳۲۹	۵۰۳۳۳	۵۰۳۳۵	۵۰۳۳۲
۵۰۳۳۲	۵۰۳۳۱	۵۰۳۳۰	۵۰۳۳۲

### رُدِّ سحر برائے دور کرنے سحر ہندو سفلی

کسی کو ہندو یا یہودی یا نصرانی نے کسی افسوس یا منتر وغیرہ سے جادو کرایا ہو تو اس عزیمت کے سات عدد نقش تیار کرے اول محور کے گلے میں باندھے۔ دوسرا پانی میں پکا کر غسل کرے اور باقی نقش پینے کے واسطے کام میں لائے ایک تعویذ کا پانی ۲ دن تک پھیئے۔ ۳ تعویذ آٹھوں میں پلا کیں۔ پانچواں تعویذ اس کا پانی تین دن تک پلا کیں۔ ان شاء اللہ مسحور صحت کامل پائے گا۔ اور ساحر پر پلٹ کر اثر انداز ہو گا۔ مجرب ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ حَبْسٍ حَابِسٍ وَشَجَرٍ يَابِسٍ وَشَهَابٍ قَابِسٍ  
رَدَدَتْ عَيْنَ الْعَائِنَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيْهِ فَازْجَعَ الْبَصَرَ  
هُلْ تَرَى مِنْ فُتُورٍ - ثُمَّ أَرْجَعَ الْبَصَرَ كَرَتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ  
الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ

### برائے رُدِّ سحر

اگر کسی شخص پر کسی شمن نے سحر ہندو کر دیا ہو تو اس شخص کے واسطے ایک تعویذ عزیمت ہذا کا لکھ کر گلے میں باندھے۔ اور سات عدد نقش لکھ کر تیار کر کے ایک نقش روز پانی میں سے تھوڑا پانی نکال کر گرم پانی میں نہلائے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ عرصہ سات روز میں شفائے کامل حاصل ہو گی۔ عزیمت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ لَخَلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ  
مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلِكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ فَازْجَعَ الْبَصَرَ  
هُلْ تَرَى مِنْ فُتُورٍ - ثُمَّ أَرْجَعَ الْبَصَرَ كَرَتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ  
الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ۔ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُؤْلِقُونَكَ  
بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لِمَجْنُونٌ ۝ وَمَا هُوَ  
إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلَمِينَ۔

### جادو کے زور کا خاتمه

بعض اوقات کسی گھر یا انسان یا گھر میں رہنے والے افراد یا کاروباری فرد پر جادو کا اثر چلتا ہے جس سے وہ اس ان دیکھے بدآثرات کو محسوس کرتے ہوئے اس میں مسلسل بتارہتا ہے کوئی بھی علاج دوادعا کوئی بھی شے اپنا اثر ہرگز نہیں دکھاتی، پریشانیاں مصیبتیں عزیمت یہ ہے۔

دکھ تکلیف اور اڑیت ناکیاں ایک دم سے زندگی بھر میں ابھر آتی ہیں گھرو کاروبار کا سارا اچھا بھلا چلتا ہوا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے ہر کوئی ایک دوسرے کو مارنے پر تلا ہوتا ہے کوئی کسی کی چھوٹی سی بات بھی برداشت نہیں کرتا تقصیبات مسلسل ہوتے رہتے ہیں زندگی سمٹ کر صرف ان کے لئے چند قدموں تک محدود ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی ان کی اولاد آپس میں

ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور سمجھنہ میں آتی کہ ایسا کیا کام کیا جائے جس سے یہ کوشش ختم ہو جائے۔ ایسے بد اعمال و جادو بہت ہی نزدیک رہنے والے اور کسی نہ کسی مقدار کی سمجھیل کی خاطر مختلف مالیں سے ایسے بد اعمال کرواتے ہیں۔ جس سے ایسی شرائیں یا ان کی زندگی کا ایک حصہ ہن جاتی ہیں۔ اگر کوئی اس بدل کے زیر سایہ آچکا ہو تو وہ اس قصہ پر روز نو چھڈی جمعرات زعفران سے سفید کاغذ پر بنائے ایک کوکارو باری مقام پر چوکھ کے اوپر اور دوسرے کو گھر کی چوکھت کے اوپر لگائے باقی جتنے گھر کے افراد ہوں ان سب کے لگے میں اس نقش کو سفید کاغذ پر زعفران سے لکھ کر پہنایا جائے اور اسی نقش کو منی کے برتن میں ڈال کر سادے پانی سے دھو کر پورے گھر میں چھینٹے لگائے اور ایک عدد ایک بخ کا زائد لکھ کر گھر میں ہر کوئی اسی کا دھویا ہو اپانی پیسے اس نوری عمل کی بدولت جس بھی نوعیت کا عمل ہاؤ ہو گا۔ وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ لیکن اس پانی کی بے ادبی نہ کرے اللہ فضل فرمائے گا۔ زبردشت نقش مبارک ہے۔ نقش یہ ہے

۷۸۶

۱	۲۱۷۳۵	۱۱	۸
۱۲	۷	۲	۲۱۷۳۲
۶	۹	۷	۳
۲۱۷۳۶	۳	۵	۱۰

### برائے آسیب زدہ

یہ نقش لکھ کر مریض کے تمام جسم پر تاک مل کر اس کی دھونی مریض کو دے اس طریقہ کا دھوان مریض کے تمام بدن کو لگے۔ چار پائی پر بمحاذ کراو پر چادر یا کمبل ڈال

جادو اور جنات سے عمل شرطیہ نجات

اوپر چار پائی کے نیچے سے دھواں دے۔ نقش یہ ہے۔

ابو جہل شستی	ابو جہل شستی	ابو جہل شستی
ابو جہل شستی	ابو جہل شستی	ابو جہل شستی
ابو جہل شستی	ابو جہل شستی	ابو جہل شستی

### گھر کو جنات، جادو اور سفلی کے اثر سے پاک کرنا

اگر کسی گھر میں جنات نے گھر کر لیا ہو یا جادو سفلی کے اثرات سے گھر کے اکثر افراد طرح طرح کی یہاں یوں میں بتا رہتے ہوں یا گھر میں کسی کا دل نہ لگتا ہو یا طرح طرح کے ذرا نے خواب نظر آتے ہوں یا رات کو چھوٹے بچے سوتے سوتے چونک کرائی جاتے ہوں اور روشن اشروع کر دیتے ہوں تو اس کے لیے یہ عمل مجرب ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے گھر کے حالات درست ہو جائیں گے اور گھر ہر قسم کے اثرات بد سے محفوظ ہو جائے گا۔ عمل یہ ہے۔

صحیح سورج نکلنے کے بعد اور شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے کسی ایک کمرے میں کوئی شخص باوضو کمرے کے درمیان کھڑے ہو کر درمیانی آواز سے اذان دے اور آہان کی طرف پھونک مار دے۔ پھر اسی جگہ کھڑے ہو کر دوبارہ اذان دے اور اذان ختم کرنے کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے پھونک مار دے پھر اسی جگہ کھڑے ہو کر تیسرا مرتبہ اذان دے کر شمالی کی طرف (یعنی اپنے داہنی طرف) پھونک مار دے۔ پھر اسی جگہ کھڑے ہو کر چوتھی مرتبہ اذان دے کر جنوب (قبلہ کی طرف منہ کر کے اذان دیں گے تو جنوب بائیں طرف ہو گا) کی طرف پھونک مار دے۔ پانچویں بار اذان دے کر مشرق کی طرف پھونک مار دے۔ چھٹی بار اذان دے کر زمین کی طرف پھونک مار دے۔ اس طرح

بادو اور جنات کے نیچے سے دھواں دے۔ نقش یہ ہے۔

ابو جہل شستی	ابو جہل شستی	ابو جہل شستی
ابو جہل شستی	ابو جہل شستی	ابو جہل شستی
ابو جہل شستی	ابو جہل شستی	ابو جہل شستی

### معجم گھر کو جنات، جادو اور سفلی کے اثر سے پاک کرنا

اگر کسی گھر میں جنات نے گھر کر لیا ہو یا جادو سفلی کے اثرات سے گھر کے اکثر افراد طرح طرح کی بیماریوں میں بیتلار ہتے ہوں یا گھر میں کسی کا دل نلگتا ہو یا طرح طرح کے ذرا ورنے خواب نظر آتے ہوں یا رات کو چھوٹے بچے سوتے سوتے چونک کر انہوں جنات ہوں اور روشن شروع کر دیتے ہوں تو اس کے لیے یہ عمل مجرب ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے گھر کے حالات درست ہو جائیں گے اور گھر ہر قسم کے اثرات بد سے محفوظ ہو جائے گا۔ عمل یہ ہے۔

صحح سورج نکلنے کے بعد اور شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے کسی ایک کمرے میں کوئی شخص باوضو کمرے کے درمیان کھڑے ہو کر درمیانی آواز سے اذان دے اور آسمان کی طرف پھونک مار دے۔ پھر اسی جگہ کھڑے ہو کر دوبارہ اذان دے اور اذان ختم کرنے کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے پھونک مار دے پھر اسی جگہ کھڑے ہو کر تیسرا مرتبہ اذان دے کر شمالی کی طرف (یعنی اپنے داہمنی طرف) پھونک مار دے۔ پھر اسی جگہ کھڑے ہو کر چوتھی مرتبہ اذان دے کر جنوب (قبلہ کی طرف منہ کر کے اذان دیں گے تو جنوب بائیں طرف ہو گا) کی طرف پھونک مار دے۔ پانچویں بار اذان دے کر مشرق کی طرف پھونک مار دے۔ چھٹی بار اذان دے کر زمین کی طرف پھونک مار دے۔ اس طرح

186  
جادو اور جنات سے معلم شرطیہ نجات  
ایک دھرمے کے دہن بن جاتے ہیں۔ اور سمجھنہیں آتی کہ ایسا کیا کام کیا جائے جس سے یہ گردش ختم ہو جائے۔ ایسے بد اعمال وجادو بہت ہی نزدیک رہنے والے اور کسی نہ کسی متصدی کی تھیں کی خاطر مختلف مالیں سے ایسے بد اعمال کرواتے ہیں۔ جس سے ایسی شرائیں دار ان کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتی ہیں۔ اگر کوئی اس بد عمل کے زیر سایہ آچکا ہو تو وہ اس نقش بروز تو چندی جمعرات زعفران سے سفید کاغذ پر بنائے ایک کوکار و باری مقام پر چوکر کے اوپر اور دھرمے کو گھر کی چوکر کے اوپر لگائے باقی جتنے گھر کے افراد ہوں ان سے کے نکلے میں اس نقش کو سفید کاغذ پر زعفران سے لکھ کر پہنانا یا جائے اور اسی نقش کو منی کے برتن میں ڈال کر سادے پانی سے دھو کر پورے گھر میں چھینٹے لگائے اور ایک عدد ایک نیٹ کا زائد لکھ کر گھر میں ہر کوئی اسی کا دھویا ہو پانی پئے اس نوری عمل کی بدولت جس بھی نوعیت کا بد عمل جادو ہو گا۔ وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ لیکن اس پانی کی بے ادبی نہ کرے اللہ فضل فرمائے گا۔ زبردشت نقش مبارک ہے۔ نقش یہ ہے

۷۸۶

۱	۲۱۷۳۵	۱۱	۸
۱۲	۷	۲	۲۱۷۳۲
۶	۹	۷	۳
۲۱۷۳۶	۳	۵	۱۰

### معجم براۓ آسیب زده

نقش لکھ کر مریض کے تمام جسم پر ناف تک مل کر اس کی دھونی مریض کو دے اس طرح کہ اس کا دھواں مریض کے تمام بدن کو لگے۔ چار پائی پر بٹھا کر اوپر چادر یا کمبل ڈال

کل چھ مرتبہ اذان پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد اسی جگہ اذان دینے والا یہ دعا کرے۔  
”اے پروردگار عالم! نبی مخلوق اور ارواح خبیث کے اثرات بد اور نقصان سے  
ہماری حفاظت فرم اور انہیں کسی اور جگہ منتقل ہونے کی توفیق عطا فرم۔“  
اس کے بعد تین بار درود شریف پڑھ کر جملہ اہل خانہ پردم کر دے۔ اس طرح یہ مل  
آتا یہ دن تک کرے۔

انشاء اللہ تعالیٰ مکان جنات اور تمام برے اثرات سے پاک و صاف ہو جائے گا

### مکان سے جن بھوت بھگانے کا طریقہ

اگر کسی مکان میں جن بھوت پریت آسیب نے قبضہ کر لیا ہو اور گھر کے لوگ اکٹھے طرح طرح کی بیماریوں میں بتلا رہتے ہوں تو پانچ ٹھیکریاں کو رے منکلے کی لیں (کورامنا) وہ ہے جس کو بھٹے سے نکال کر پانی سے نہ دھو یا گیا ہو) اور بعد نماز باوضو ہر ٹھیکری پر پانچ پانچ مرتبہ سورہ عصر پڑھ کر دم کریں اور چار ٹھیکریاں مکان کے چار کونوں میں اور ایک ٹھیکری مکان کے صحن میں دفن کر دیں۔

انشاء اللہ تعالیٰ تمام جنات و شیاطین کے اثرات سے گھر محفوظ ہو جائے گا یہی مل دوکان اور کارخانے کے لئے بھی کر سکتے ہیں۔ چاروں ٹھیکریاں چاروں کونوں میں اور ایک ٹھیکری دوکان یا کارخانے کے بیچ میں دفن کریں۔

### ۲۰ حاسدین کے حسد اور شر سے حفاظت

دنیا میں جو شخص ترقی کرتا ہے اور روز بروز بلندی پر چڑھتا جاتا ہے اس کی ترقی سے بعض لوگ حسد کرنے لگتے ہیں اور اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ یہ شخص دوبارہ بھوکا ننگا ہو جائے اور پائی پائی کا محتاج ہو کر بیکار ہو جائے ذہنی مریض بن جائے۔

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات 189  
اس کا علاج اور حاسدین کے حسد سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابندی کر کے اللہ کے دینے ہوئے رزق میں سے صدقہ خیرات کرتا رہے۔ ہر شخص سے بہن کر ملنے اور کسی سے تباخ کامی نہ کرے اس کے علاوہ یہ مکمل بھی کرے انشاء اللہ تعالیٰ بہن کر ملنے اور کسی سے تباخ کامی نہ کرے اس کے علاوہ یہ مکمل بھی کرے انشاء اللہ تعالیٰ

HASDIN کے ہر قسم کے شر سے محفوظ رہے گا۔  
اسدین کے ہر قسم کے شر سے محفوظ رہے گا۔  
اول گیارہ بار درود شریف پڑھے اور اس کے بعد قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (مکمل سورت) ایک سو بار اس کے بعد درود شریف پڑھ کر جملہ اہل خانہ پردم کر دے۔ اس طرح یہ مل

### آسیب و جنات گھر خالی کر دیں

إِنَّهُمْ يَكِنِّدُونَ كَيْنَدًا وَأَكِنِّدُ كَيْنَدًا فَمَهِلِ الْكُفَّارِ نِينَ أَمْهِلْهُمْ  
رُؤِنَدًا

۲۵، ۲۵ مرتبہ پڑھ کر ایک ایک کیل پردم کرو اور مکان کے چاروں کونوں میں ایک ایک کیل گاڑو۔ آسیب و جنات سے مکان محفوظ ہو جائے گا اور جنات بھاگ جائیں گے۔

### جادو سفلی کی کاٹ کا عمل

اگر کسی پر کوئی شخص سفلی جادو کرا تا رہتا ہو جس سے کارو بارتباہ ہو گیا ہو اور صحت بر باد ہو گئی ہو اور ہر قسم کے ڈاکٹری اور حکیمی علاج سے فائدہ نہ ہوتا ہو تو اس کے لئے پانچوں وقت یعنی ہر نماز کے بعد قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (مکمل) اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (مکمل) تین تین بار پڑھ کر مریض اپنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور انگلیوں پردم کر کے دونوں ہاتھ تمام جسم پر پھیر لے۔ بدن کا کوئی حصہ ہاتھ پھیرنے سے نہ رہ جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ سحر، جادو، سفلی، جنات سے محفوظ رہے گا اور اگر بتلا ہو جائے تو ان سورتوں کے عمل کی

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
برکت سے تمام حرج، سفلی، جادو اور جنات سے کامل نجات حاصل ہو جائے گی۔ اور جادو  
کرانے والے کامل ضائع ہو جائے گا۔

190

جذبات کی شرارت سے بچنے کا نبوی نسخہ

ابن الی حاتم میں ہے کہ ایک یہاں شخص جسے کوئی جن ستار ہاتھا۔ حضرت عبد اللہ بن  
معودؓ کے پاس آیا تو آپؓ نے درج ذیل آیت پڑھ کر اس کے کان میں دم کیا۔  
آفَحَسِبْتُمْ أَنَّهَا خَلْقُنَا عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعْلَمُوا  
اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعِزْمِ وَمَنْ يَدْعُ  
مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أُخْرَ لَا يُبْرَأَ لَهُ إِلَّا بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا  
يُفْلِحُ الْكُفَّارُ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرُّّحْمَنِ۔

وہ اچھا ہو گیا جب نبی کریم ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو آپؓ ﷺ نے فرمایا  
عبد اللہ تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا تھا؟ آپؓ نے بتلا دیا تو حضور ﷺ نے فرمایا  
نے یہ اس کے کان میں پڑھ کر اسے جلا دیا واللہ ان آیتوں کو اگر کوئی با یمان شخص بالقین کسی  
پہاڑ پر پڑھتے تو وہ بھی اپنی جگہ سے مل جائے۔ (تفیر ابن کثیر جلد ۳ صفحہ ۲۷۲)

جادو کا مکمل علاج

اگر کسی شخص پر کسی ظالم نے جادو کر دیا ہو اور اس کی یہاں کی نہ جاتی ہو تو اس کے لیے  
مندرجہ ذیل آیات گیارہ مرتبہ پڑھ کر تازہ پانی پر پھونک مارے اور اس پانی میں سے تین  
گھونٹ مریض کو پلا دیں اور باقی پانی سے مریض کو نہلا دیں۔ نہلا تے وقت پانی کو مر پر  
ڈالا جائے اور تمام بدن پر بھایا جائے یہ عمل گم از گم گیارہ دن تک کرے ورنہ مریض کے  
ٹھیک نہ ہونے کی صورت میں چالیس دن تک کرے انشاء اللہ مریض جادو سے نجات

191

مکمل شرطیہ نجات

باب: ۲

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
کامل کر لے گا اور اس کی یہاں کی دور ہو جائے گی۔  
وہ آیات یہ ہیں۔

فَلَمَّا أَقْوَاقَاهُ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ  
اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحَقِّقُ اللَّهُ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ  
وَلَوْكَرَةَ الْمُجْدِرِ مُؤْنَ فَوْقَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  
فَغُلْبِيُّوا هُنَّا لَكَ وَأَنْقَلَبُوا ضَغِيرِينَ وَأُلْقَى السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ  
قَالُوا أَمَنَّا بِرَبِّ الْعَلِمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ  
إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْنُودُ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السِّحْرُ حَيْثُ أُتْقَى

### ۳) ارواح سفلیہ کے مخفی نقصانات

یہ سفلی ارواح کا رو بار، نکاح، رشتہ، رزق، روزی، سونامی بی جانا، خوش قسمی بدست می  
میں بدی جانا، اپنے غیر بی جانا، اچانک یہاں یوں اور مشکلات و مصائب میں بیٹلا ہو جانا،  
اولاد کا پڑھائی میں دل نہ لگنا، کارو باری مقام سے بھاگ جانے کو دل کرنا، والدین سے  
بدتیزی کرنا، اور اس قسم کے جتنے بھی اور قباحت والے اعمال ہیں وہ اس نوعیت کی مخلوق  
سے منسوب ہیں۔ ایسے اعمال کو بھی مفاد پرست انسان عزیز واقارب میں سے کوئی کرواتا  
ہے جس سے نقصان و نقصان ہوتے چلتے جاتے ہیں۔ نماز، روزے اور کسی بھی نیکی کا کوئی  
بھی اثر نہیں ہوتا اور انسان بے چارہ توبہ استغفار اللہ رب العزت کی کامل رحمت پر شک  
کرنے لگتا ہے۔ جب کہ اللہ رب العزت تو خود انسان سے اتنا پیار کرتا ہے جتنا اس کی والدہ  
بھی نہ کرتی ہو گی تو اتنی پیاری ہستی کسی کو کیونکر نقصان میں بیٹلا کرے گی۔ لیکن حالات ایسے  
پیدا ہو جاتے ہیں جس سے انسان کا علم اور سفلی اعمال کے عالمیں کے در کے چکر لگاتا ہوا  
ایسے کئی جھوٹے اعمال خود اپنے ہاتھ سے اس قباحت سے نکلنے کیلئے کرتا ہے۔ جس کا ایک

رتی بھی اثر نہیں ہوتا اس صورت میں اس نقش کو گلے میں باندھا جائے اور گلاب کے عرق سے دھو کر پیا جائے اللہ کے حکم سے شفائے کاملہ نصیب ہوگی۔

۷۸۶

۳۷۰۱	۳۷۰۲	۳۷۰۷	۳۶۹۳
۳۷۰۶	۳۶۹۵	۳۷۰۰	۳۲۰۵
۳۶۹۶	۳۷۰۹	۳۷۰۲	۳۶۹۹
۳۷۰۳	۳۶۹۸	۳۶۹۷	۳۷۰۸

### سحر (جادو) کا خاتمه

بیری کے سات پتے جن میں سوراخ نہ ہوں لے کر ان میں سے ہر پتے پر تین بار یہ آیت پڑھیں اور ہر بار پڑھ کر دم کریں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتَلَوَ الشَّيْطِينُ سے لَهُ كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تک پوری آیت (البقرہ ۱۰۲)

اس طرح سات پتوں پر کل اکیس بار یہ آیت پڑھی جائے گی ان پتوں کو پاک ہاتھوں سے توڑ کر پانی میں ڈال دیں مریض سات دن تک یہ پانی پیتا رہے پانی کم ہونے پر اور پانی ملاتے رہیں۔ یہ پانی گھر اور دکان پر چھڑکیں انشاء اللہ شفا ہوگی۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بَابُ نَبْرَزٍ

آسیب اور جنات کو فوراً  
حاضر کرنے کے مجرب  
ترین اعمال

## پیغام شفاء

جسمانی بیماریوں کا روحمانی علاج

ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مندرجہ ذیل جسمانی بیماریوں سے صرف ایک ہی باردم کروانے سے فوراً مکمل شرطیہ نجات حاصل کریں۔

بلڈ پریشر	کالاير قان	شوگر
بواسیر	دمه	ہر قسم کی پتھری

انشاء اللہ تعالیٰ صرف پہلے ہی ہفتے میں رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا ہمارے علاج و طریقہ کار کا پہلے تجربہ کریں اور بعد میں دنیا کو بتائیں۔

ہمارے ہاں مندرجہ بالا جسمانی بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے عملیات و تعویذات بھی سکھائے جاتے ہیں، فوری اثر کرنے والے عملیات و تعویذات سکھنے کے خواہش مند حضرات رابطہ کریں ہدیہ 4000 ہزار روپے

روحانی و حکیم حافظ عبد الرؤف ماہر عملیات جسمانی معانج

مرکز طبی و روحمانی دارالشفاء توحید پارک نزد گول مسجد امامیہ کالونی شاہدرہ لاہور

0300-4347214-0345-4190427

## آسیب فوراً حاضر ہو جائے

”برائے حضوری آسیب“۔ اگر کوئی عامل چاہے کہ آسیب وغیرہ کو حاضر کرے تو اس حاضرات کو کام میں لائے۔ ان شاء اللہ کامیابی ہوگی۔ اول اس عزیمت کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عروج ماہ میں بروز ہفتہ شروع کرے اور اکیس روز تک ۱۲ مرتبہ روز پڑھے۔ اکیسویں روز ایصال ثواب کرے اور شیرینی تقسیم کرے۔ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بعدہ ۱۱ مرتبہ روز ورد میں رکھے۔ جب عامل حاضرات کرنا چاہیے تو چند خوشبو دار پھول لائے اور ان پر عزیمت پڑھ کر دم کر کے آسیب زدہ کے سر پر رکھے اور عامل ۱۰ مرتبہ عزیمت پڑھ کر دم کرتا رہے۔ ان شاء اللہ اذیت دینے والا آسیب حاضر ہوگا۔ ۱۰ مرتبہ عزیمت پڑھ کر دم کرتا رہے۔ ان شاء اللہ اذیت دینے والا آسیب حاضر ہوگا۔

ہمکام ہو گا اور اطاعت کرے گا۔ پھر عامل اپنا اختیار استعمال کرے۔ یعنی قید کرے آزاد کرے یا جلائے۔ وہ عزیمت یہ ہے۔


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، عَزَّمْتُ عَلَيْكُمْ يَا مَالِكَ الْأَزْوَاجِ لُفْظُوِّشِ صَارِعًا أُخْضُرُوا يَا أَصْحَاحَ الْجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ مِنْ جَانِبِ الْمَسَارِقِ وَالْمَغَارِبِ وَمِنْ جَانِبِ الْأَيْمَنِ وَالْأَيْسَرِ.

## حاضرات آسیب

برائے حاضر کردن برسر مریض آسیب وغیرہ، اس نقش کو بروز جمعہ لکھ کر تیار رکھے۔

بوقت حاضرات فتیلہ بن اکر چراغ میں جلائے اور مریض کو چراغ کے سامنے بٹھائے۔ مریض کے بدن میں جو آسیب و جن ہو گا، حاضر ہو گا۔ اب عامل چاہے دفع کرے، قید کرے، یا جلا کر خاکستر کرے۔ اس نقش کو ریشمی کپڑے پر لکھے جو کہ کیسری رنگ کا ہو۔

ع	يَا	او	۱۰
ف	ر	و	۳
ح	ف	ط	و
ل	ی	م	ع



اجہد

## آسیب کی حاضری

جو کوئی چاہے کہ آسیب حاضر ہو جائے یا یہ معلوم کرنا مقصود ہو کہ فلاں آسیب زدہ ہے یا نہیں، تو چاہے کہ باوضوحالت میں بیٹھے اور مریض کو اپنے سامنے بٹھائے۔ پہلے سورہ میں تین دفعہ پڑھ کر مریض پر دم کرے۔ اس کے بعد ایک سو مرتبہ یہ عزیمت پڑھ کر دم کرے اور آسیب زدہ کو دھونی دے۔ عزیمت یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَبْرَأْتُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ أَسْتَفْتِحْ فَهُوُشْ قَرْثُ  
شَتِّ قُوَّةٍ شَتِّ هُوَ يَا بَرْيَا أَخْضُرُوْ وَأَخْضُرُوْ يَا أَصْحَبَ

بادوار جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
الْجِنِّ وَالشَّيْطَنِ مِنْ جَانِبِ الْأَيْسِرِ وَمِنْ جَانِبِ  
الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ بِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ  
اللّٰهِ بِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ بِحَقِّ لَا إِلَهَ  
إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ بِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ  
رَسُولُ اللّٰهِ

اس عمل کی برکت سے آسیب حاضر ہو جائے گا۔ عامل کو چاہیے کہ وہ اس سے قول  
ذرا لے کر جانے دے تاکہ مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے  
یہ نہایت محب و آزمودہ عمل ہے۔

## حاضرات آسیب

برائے آسیب، اگر کوئی کسی آسیب کو کسی مریض کے سر پر حاضر کرنا چاہے تو ہدای  
ہیں، اور پشم میں تینوں اشیاء کو باہم ملا کر ان پر ۱۳ مرتبہ عزیمت مندرجہ ذیل پڑھ کر دم  
کرے اور آسیب زدہ کو سنجھائے۔ ان شاء اللہ فوراً آسیب حاضر ہو گا اور بمحکام ہو گا۔ وہ  
عزیمت یہ ہے۔

أَبْرَأْتُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ أَسْتَفْتِحْ فَهُوُشْ قَرْثُ  
شَتِّ قُوَّةٍ شَتِّ هُوَ يَا بَرْيَا أَخْضُرُوْ وَأَخْضُرُوْ يَا أَصْحَبَ

## حاضرات آسیب

”برائے آسیب بر سر مریض،“ عامل کو چاہیے کہ مگس یعنی شہد کی مکھی ۲۱ عدد پکڑ

جادا و اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
کر لائے اور ہر ایک مکھی پر گیارہ گیارہ مرتبہ الحمد للہ شریف مع بسم اللہ کے پڑھ کر دم کرے  
بعدہ روئی میں لپیٹ کر بیت بنائے اور چدائغ نو میں رکھ کر تیل ڈال کر جلائے۔ چدائغ کے پڑھ  
مئی کی پیالی لٹکائے۔ تاکہ کاجل حاصل کیا جاسکے۔ ان شاء اللہ کا جل اکسیر تیار ہو جائے گو  
وقت ضرورت اگر عامل کسی مریض کی آنکھوں میں کاجل ڈالے تو مریض  
کے سر پر فوراً مطلوبہ آسیب حاضر ہو گا۔ اور ہمکلام ہو کر ساری کیفیت سے روشناس کرائے  
گا۔ مجبوب ہے۔

### حاضراتِ آسیب

”برائے جنات“ جب کوئی عامل کسی مریض کے سر پر آسیب  
کو حاضر کرنا چاہے تو تین پچھول چھمبیلی یا گلب کے لے اور ہر پچھول پر تین مرتبہ عزیمت  
حاضر کر کرنا چاہے تو دو عدد گل سمن لائے اور ہر ایک پچھول پر ۱۳۱، ۳۱، ۳ مرتبہ قل  
اعوذ بر رب الفلق پڑھ کر دم کرے، بعدہ مریض کو سنگھائے ان شاء اللہ تعالیٰ آسیب فرا  
حاضر ہو کر اطاعت کر گا۔ اور اگر حاضر نہ ہو تو تھوڑی دیر بعد دوبارہ پچھول سنگھائے۔ ان شاء  
اللہ آسیب یاد یو حاضر ہو گا اور اطاعت کرے گا۔ مجبوب ہے۔

### حاضراتِ آسیب

باب: ۳  
بادا و اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات 199  
بَعْدَ دَرَهُ هُوَ كَيْ تَيْشَكُرِي يَكْتَيْكِيوْ يَادَ كَرَتْيَ بَعْهَمَنْ  
بَعْهَمَنْ تَيْشَكُرِي مَلْ مَيْلَوَهَ كَانَ يَكْوُكَ كَوْرِشَ آيْكَ  
لِسَا هِيْ مَهْيَا إِيْلَ مَهْا بِيْلَا مَنَابِيْلَا دَرَهَ سُلَيْمَانَ  
بَلْقِيْسَ مِنْ نَشَاءُ مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ  
وَصَدَقَ الرَّسُلُونَ.

### حاضراتِ آسیب

”برائے آسیب بر سر مریض“، اگر کوئی عامل کسی مریض کے سر پر آسیب  
کو حاضر کرنا چاہے تو تین پچھول چھمبیلی یا گلب کے لے اور ہر پچھول پر تین مرتبہ عزیمت  
مندرجہ ذیل کو پڑھ کر دم کرے اور مریض کو سنگھائے ان شاء اللہ تعالیٰ مریض کو جو بھی  
آسیب ستاتا ہو گا، فوراً حاضر ہو گا، اگر حاضر نہ ہو تو دوسری عزیمت پڑھے ان شاء اللہ تعالیٰ  
ہر حال میں آسیب و جنات حاضر ہو گا اور ہمکلام ہو گا۔ مجبوب ہے۔ وہ عزیمت یہ ہے۔  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ يَا ذَا الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَالْمُلْكِ  
الْقَدِيمِ وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ أَنْسِلِ الرِّيَاحَ وَفَالْقُلُّ الْأَضْبَاجَ  
وَيَا بَاعِثَ الْأَرْوَاحَ وَيَا مَجُودَ الصَّبَاجَ يَا اللَّهَ يَا اللَّهَ يَا رَحْمَنَ  
يَا رَحْمَنَ يَا رَحِيمَ يَا أَحَدَ يَا صَمَدَ يَا فَرَدَ يَا وَتَرَ وَإِنْ  
تَرْسَائِي بِحَقِّ تُورِيتِ مُوسَى صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ وَإِنْ مَنْفِي بِحَقِّ زَبُورِ دَاؤِدِ صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ  
وَإِنْ كَبْرِيَائِي بِحَقِّ انجِيلِ عِيسَى صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ وَإِنْ مُسْلِمَانِي بِحَقِّ فَرْقَانِ  
مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ وَبِحَقِّ جَبَرَائِيلِ صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ وَمِيكَائِيلِ صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ  
وَاسْرَافِيلِ صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ وَعَزْرَائِيلِ صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ وَبِحَقِّ عَزَّةِ جَلَالِ خَدا حاضر شو  
حاضر شو حاضر شو۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا مَمِينُونَ زَنْجِيْ يَا مَمِينُونَ  
حَبْشَيْ وَيَا مَمِينُونَ دَهْنُونَ وَصَاحِبِ الْأَعْوَانِ الْهِنْدِيِّ

# رَوْبِعُونَ وَمُبْعَدٌ

باب نمبر ۴

آسیب اور جنات سے متأثرہ  
مریضوں کا مجرب ترین علاج

اگر حاضر ہو وے تو اس عزیمت کو سات مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کرے۔

اللہ فوراً حاضر ہو وے۔ دوسری عزیمت یہ ہے۔

يَا جَبَّارُ بِجَبَرُوتٍ بِالْجَبَرُوتِ وَالْجَبَرُوتِ فِي الْجَبَرُوتِ  
يَا جَبَرُوتُ يَا جَبَّارُ.

## حاضرات آسیب

”برائے آسیب بر سر مریض“، اس عزیمت مذکورہ کی پہلے ۳۰ روز کا عمل کر کے زکوٰۃ کرے۔ بروز جمعرات شروع کرے، اور بعد نماز عشاء ۱۲۱ مرتبہ روزانہ پڑھے۔ اول آن ۱۱، ۱۱ مرتبہ درود شریف پڑھے۔ عمل متواتر چالیس روز تک کرے۔ چالیسویں روز ایضاً ثواب کرے اور شیرینی تقسیم کرے۔ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ بعد ۱۱ مرتبہ روز ورود میں رکھے وقت ضرورت عزیمت کو چند مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کرے، ان شاء اللہ ایذا اور آسیب و جنات حاضر ہوگا۔ جب جنات حاضر ہو جائے ایک مرتبہ عزیمت پڑھ کر مریض کے سر کے بالوں میں گردہ لگادے۔ ان شاء اللہ جب تک گردہ نہ کھو لے ہا آپ فرار نہ ہو گا بلکہ مقید رہے گا۔ وہ عزیمت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَزَّمْتُ عَلَيْكُمْ يَا شَاهِ يَكْتَانُوشْ  
مُلْكُ الْعَنْشِ وَالْعَرَبِ وَالْعَجَمِ بِحَقِّ أَبُو دَمْ أَبُوكَ وَبِحَقِّ أَبُوكَ  
جَهْمُوْرَشْ أَخُوكَ بِتَاجِ الْمُلْكِ إِبْنَاكَ نَجَّبَا نَجَّبَا سَاعَةً سَاعَةً  
كَيْهُولَهْ كَيْهُولَهْ . حَتَّىٰ حَتَّىٰ كَيْهُولَهْ كَيْهُولَهْ عَجَلَ عَجَلَ  
يَا شَاهِ يَكْتَانُوشْ بِحَقِّ سُلَيْمَنْ بْنِ دَاؤَدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بِحَقِّ  
مَيْمُونَ زَمْگَ وَمَيْمُونَ هِنْدِی يَا إِبْنَ مَيْمُونَ بْنِ مَيْمُونَ،  
صَالَاغُونَ الْهِنْدِیُّ تَعَالَى تَعَالَى يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْأَرْوَاحِ.

## پیغام شفاء

جسمانی بیماریوں کا روحاںی علاج

ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مندرجہ ذیل جسمانی بیماریوں سے صرف ایک ہی باردم کروانے سے فوراً مکمل شرطیہ نجات حاصل آئے گی۔

بلڈ پریشر

کالا یرقان

شوگر

بواسیر

دمہ

ہر قسم کی پتھری

انشاء اللہ تعالیٰ صرف پہلے ہی ہفتے میں رزلٹ آپ کے سامنے ہو گا  
ہمارے علاج و طریقہ کار کا پہلے تجربہ کریں اور بعد میں دنیا کو بتائیں۔

ہمارے ہاں مندرجہ بالا جسمانی بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے عملیات و تعویذات بھی سکھائے جاتے ہیں، فوری اثر کرنے والے عملیات و تعویذات سکھنے کے خواہش مند حضرات رابطہ کریں  
ہدیہ 4000 ہزار روپے

روحاںی و جسمانی معانع حکیم حافظ عبدالرؤف ماہر عملیات و تعویذات

مرکز طبی و روحاںی دارالشفاء توحید پارک نزد گول مسجد امامیہ کالونی شاہدرہ لاہور

0300-4347214-0345-4190427

## آسیب نقسان نہ پہنچائے

بس گھر میں آسیب کا خطرہ ہوتا ذیل میں دیا ہوا نقش پاک سفید کاغذ پر عرق گاہ  
و زغفران و مشک سے لکھ کر گھر کی دیوار پر چپاں کر دے ان شاء اللہ تعالیٰ آسیب دور ہو گا۔  
اور نقسان نہ پہنچائے گا۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۹۹۱۶	۹۹۱۹	۹۹۲۲	۹۹۰۹
۹۹۲۱	۹۹۱۰	۹۹۱۵	۹۹۲۰
۹۹۱۱	۹۹۲۳	۹۹۱۷	۹۹۱۲
۹۹۱۸	۹۹۱۳	۹۹۱۲	۹۹۲۳

یہ نقش پاک دیوار پر چپاں کرنے کے بعد ہر جمعرات کو حسب توفیق بچوں میں  
شیرینی تقسیم کریں بفضلِ باری تعالیٰ آسیب دوبارہ اس گھر کا رخ نہیں کرے گا۔

## خبریث چڑیوں سے نجات

اگر کسی مکان میں آسیب و جنات کا یا خبیث و جو گیاں و چڑیاں و مژدیاں کا سایہ ہو  
یا کسی شخص کو مذکورہ شے ستاتی ہو تو اس نقش کو لکھ کر بروز جمعرات تیار کر کے رکھے اور آسیب  
زدہ شخص کے گلے میں باندھے اور آسیب زدہ مکان کی دیوار پر لٹکائے ان شاء اللہ تعالیٰ  
آسیب زدہ بھی اور مکان بھی ہر قسم کی بلیات و آفات سے محفوظ رہے گا۔

۵۳۵۹	۵۳۳۷	۵۳۷۱	۵۳۶۰	۵۳۷۷	۵۳۲۱
۵۳۳۵	۵۳۷۳	۵۳۶۱	۵۳۷۰	۵۳۵۲	۵۳۵۸
۲۳۶۸	۵۳۲۳	۵۳۳۸	۵۳۳۲	۵۳۳۲	۵۳۷۶
۵۳۶۲	۵۳۶۹	۵۳۷۵	۵۳۳۲	۵۳۵۵	۵۳۵۱
۵۳۳۹	۵۳۵۷	۵۳۳۳	۵۳۷۳	۵۳۲۵	۵۳۶۶
۵۳۷۲	۵۳۳۲	۵۳۵۶	۵۳۵۰	۵۳۶۲	۵۳۶۷

## آسیب و جنات نقسان نہ پہنچا سکیں

اگر کسی شخص کو آسیب تاتا ہو یا جن مختلف قسم کی ہکایف پہنچاتا ہو تو اس نقش کو لکھ کر پڑھیں۔ سات مرتبہ آیت الکرسی اور سات مرتبہ معاوذۃ عین پڑھ کر دم کر دیں۔ اس تیل سے شام تک پلائے۔ ان شاء اللہ صحت کامل ہو گی۔

نقش اگلے صفحے پر ہے۔

۲	ط	۵۵	ص
عره	ع	الہو	م
ھود	ن.	مسون	د
د	مطا	مسح	ج

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا اللّٰهُ جمیع آسیب و جنات سے محفوظ فرم۔

## جن و آسیب بھاگ جائیں

اس مقصد کے لئے ذیل میں دیا ہوا نقش پاک باوضو حالت میں عرق گلاب وزعفران سے سفید کاغذ پر لکھیں اور سرسوں کے تیل میں کلوچی کا تھوڑا سا تیل اور اکتا لیں سیاہ مرچیں پیس کر ڈال دیں۔ نقش بھی اس میں شامل کریں اور گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ سات مرتبہ آیت الکرسی اور سات مرتبہ معاوذۃ عین پڑھ کر دم کر دیں۔ اس تیل کو آسیب زدہ کے چہرے، سر، پیشانی اور سینے پر ماش کریں۔ ایک گھنٹہ بعد آسیب زدہ غسل کرے۔ غسل کے بعد سات مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے۔ اکیس یا اکتا لیں یوم کے اس عمل سے ان شاء اللہ تعالیٰ آسیب دفع ہو جائے گا۔ نقش پاک ہے۔

۷۸۶

۱	۲۹۹۹۶	۲۹۹۹۴	۲
۷		۲	۲۹۹۹۵
۲	۲۹۹۹۸	۲۹۹۹۱	۳
۳		۲۹۹۹۹	۲۹۹۹۷
۵	۲	۲۹۹۹۲	۳۱

### آسیب و جنات سے چھٹکارا

اگر کسی مکان میں آسیب یا جنات کا سایہ ہو یا کسی شخص کو کوئی خبیث آسیب و جنستاتا ہوا اور کوئی چھٹکارے کی راہ نہ ہو تو اس ترکیب کو مکام میں لائے کہ ایک کپڑا پاک صاف لے کر اس کو ہلدی میں رنگے اور چالیس فتیلہ تیار کرے اور ہر فتیلہ پر ۹ مرتبہ اسم اللہ کھیص اور ایک فتیلہ روز جلا سکیں چالیس روز میں ان شاء اللہ تعالیٰ مکان آسیب و جنات کے اثرات سے پاک ہو جائے گا اور آسیب زدہ مریض جس مکان میں سوتا ہواں مکان میں فتیلہ جلائے اور آسیب زدہ چراغ کی لو میں دیکھتا رہے ان شاء اللہ تعالیٰ چالیس روز میں مریض کو مکمل صحت و شفا حاصل ہوگی۔ مجبوب ہے۔

### جن و آسیب کو جلانا

مندرجہ ذیل نقش باوضو کھکھل کر فتیلہ بنائ کر اتوار کی شب، پیر کی شب یا بدھ کی شب میں جلا سکیں۔ نئے چراغ میں حسب قاعدہ جلا سکیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ جو بھی آسیب ہوگا۔ نقش

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات کے مطابق اس کو چراغ کی لو میں حاضر کریں گے۔ فتیلہ کا نئے کے گھنی میں جلا سکیں۔ اتوان کے مطابق اس کو چراغ کی لو میں حاضر کریں گے۔ فتیلہ کا نئے کے گھنی میں جلا سکیں۔ اتوان کے دھونی دیتے رہیں اور گیارہ چھٹا نک شیرینی اور پچھتازہ پھول چراغ کے نیک رکھیں۔ پھر اس شیرینی اور پھولوں کو بھی چراغ کے ساتھ تالاب میں چینک دیں۔ لش کے پچھے مریض اور اس کی ماں نام لکھ کر نیچے یہ عبارت لکھ دیں۔ جو کچھ اس مریض کے جسم میں ہے اور تکلیف دیتا ہے، اسے موکلو اس کو حاضر کرو اور جلا دو۔ نقش یہ ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحيم

۳۱	۳۸	۲	۷
۶	۳	۳۵	۳۳
۳۷	۳۲	۸	۱
۳	۵	۳۳	۳۶

### آسیب کو جلانا

فليتہ واسطے آسیب کے جلائے روغن تلخ میں آسیب جل کر خاکستر ہو جائے گا۔  
بِحَقِّ عَدِيْقًا أَهْيَا إِشْرَاهِيَا بِحَقِّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ  
نَسْتَعِيْنُ بِحَقِّ عَدِيْقًا مَلِيْقًا أَهْيَا إِشْرَاهِيَا بِحَقِّ إِيَّاكَ  
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ.

۸	۱۱	۱۳	۱
۱۳	۲	۷	۱۲
۳	۱۶	۹	۶
۱۰	۵	۳	۱۵

ہر کہ در وجود مسی فلاں آزار دہ حاضر شود بہ سوز و دفع شود

## آسیب بھاگ جائے

واسطے دفع آسیب کے اثر سے محفوظ رہے۔ جنات اسے نقصان نہ جو کوئی یہ چاہے کہ وہ آسیب کے اثر سے محفوظ رہے۔ جنات اسے نقصان نہ پہنچا سکیں تو وہ نمازِ عصر کے بعد باوضوحالت میں قبلہ رخ ہو کر عرق گلاب وزعفران سے سفید  
وَالإِنْسُونَ وَالثَّقَلَانِ يَعْقِلُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔  
سُبُّوْخٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلِئَكَةَ وَالرُّفُّعُ حَمْ حَمْ ہو ہو  
بِحَقِّ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ يَا غَفُورُ يَا غَفُورُ

۵۲۱ حجج دود ۳۱۴ دا ۱۷۱

## جن و آسیب کے اثرات کا خاتمه

اگر کسی شخص کو جن و آسیب کے اثرات کی وجہ سے شدید بخار ہو یا خوف و دہشت کی وجہ سے کسی کا بدنبال کپکپاتا ہو تو یہ نقش باوضو لکھ کر مریض کے گلے میں ڈالیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ چند گھنٹوں میں بخار اتر جائے گا اور خوف و دہشت سے بھی نجات مل جائے گی۔

نقش اس طرح بنیں گے۔ دونوں نقش ایک ہی کاغذ پر لکھ کر ایک تعویذ بنائیں اور مومن جائے کے بعد کا لے کپڑے میں مومن جامہ کرنیں کسی اور رنگ کے کپڑے میں نہ کریں۔

یا بدوح	یا بدوح

یا بدوح	یا بدوح

## آسیب کے اثر سے بچاؤ

جو کوئی یہ چاہے کہ وہ آسیب کے اثر سے محفوظ رہے۔ جنات اسے نقصان نہ پہنچا سکیں تو وہ نمازِ عصر کے بعد باوضوحالت میں قبلہ رخ ہو کر عرق گلاب وزعفران سے سفید کاغذ پر ذیل میں دیا ہو نقش پاک لکھے۔ گیارہ مرتبہ آیت الکرسی اور گیارہ مرتبہ سورہ والناس پڑھ کر دم کرے اور اپنے بازو پر باندھ لے ان شاء اللہ ہر طرح کے آسیب کے اثر سے بچار ہے گا۔ اللہ رب العزت اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ نقش یہ ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحيم گھییغص

۷۸۷۹۹	۷۸۸۰۲	۷۸۸۰۲	۷۸۷۹۲
۷۸۸۰۵	۷۸۷۹۳	۷۸۷۹۸	۷۸۸۰۳
۷۸۷۹۲	۷۸۸۰۸	۷۸۸۰۰	۷۸۷۹۷
۷۸۸۰۱	۷۸۷۹۱	۷۸۷۹۵	۷۸۸۰۷

گھییغص یا حفیظ

## آسیب کو بھگانا

باب:



اگر کسی شخص کو آسیب یا جن ستاتا ہو تو اس نقش کو جمعہ کے دن بعد نماز فجر با وضو کرو کر تیار رکھیں اور ضرورت پڑنے پر ایک نقش موم جامد کر کے مریض کے گھنے میں ڈالیں اور ایک نقش آسیب زدہ کو بوعل میں ڈال کر اس کا پانی پلاتے رہیں۔ ان شاء اللہ مریض کو شفافیب ہوگی۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۳۹۱۱	۳۹۰۲	۳۹۰۹
۳۹۰۶	۳۹۰۸	۳۹۱۰
۳۹۰۷	۳۹۱۲	۳۹۰۵

## آسیب و جنات سے نجات

اگر کوئی آسیب زدہ شخص کسی صورت اور کسی ترکیب سے ہوش میں نہ آ رہا ہو تو اس غزیت مندرجہ ذیل کو لکھ کر گلے میں باندھیں اور سات مرتبہ پڑھ کر پانی پر درم کر کے پلاکیں اور تھوڑا پانی آسیب زدہ کے منہ پر ملے اور ایک دو قطرے بھی حلق سے نیچے اگراز جائیں تو ان شاء اللہ فی الفور آسیب زدہ کو ہوش آجائے گا۔ مجرب ہے وہ غزیت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَزَّمْتُ عَلَيْكُمْ بِرَبِّ جَبَرَا  
ثَلَلَ مَنِيكَائِيلَ إِسْرَافِيلَ عَزْرَائِيلَ أَمْنَحْتَا الَّذِي جَعَلَ

جادا و اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات

الْعَدْشَ . عَزَّمْتُ عَلَيْكُمْ بِالَّذِي أَجَابَ أَذَهَبَ لَهُ عَيْسَى  
بْنُ مَرْيَمَ وَأَيَّدَنَا بِرُوحِ الْقُدْسِ وَأَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِعَهَاتِمِ  
سَلَيْئِينَ بْنِ دَاؤَدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ الَّذِي سَعَرَلَهُ الرِّيَاحُ  
وَالْجَنَّ وَالشَّيْطَنَ سَرِيعًا .

## برائے دفعیہ آسیب و حرکات و خبات جنات

جس گھر میں جنات شرارت کریں اور مردوں عورتوں کے ساتھ فتنہ برپا کریں تو  
حضرت درخواستی مدظلہ کا مندرجہ ذیل عمل کریں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ جنات بھاگ جائیں  
گے۔ تجربہ میں آچکا ہے۔

ترکیب یہ ہے

پڑھنے والا سب سے پہلے سورۃ اخلاص تین بار اور معاوذتیں تین تین بار پڑھ کر اپنے  
اوپر دم کرے۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ سات بار، سورۃ بقرہ ازابتدا تا مفلحون سات بار آیہ  
الکری سات بار، افحسبتم تا آخر سات بار اور سورۃ حشر آخر از هوا لہ الذی لا اله  
الا ہو سے آخر سورۃ تک سات بار اور سلم علی نوچ فی الغلیمین سات بار اور  
سلم قولاً مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ سات بار، آئُهَا الْجَانُ الْمَارِدُ أَخْرُجْ عَنَّا  
فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ عَنَّا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ قِنَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ سات بار پانی پر پڑھ  
کر دم کرے اور آسیب زدہ سارا دن اس پانی کو پیتا رہے اور بدن پر اور منہ پر چھینئے  
مارتا رہے۔ دوسرے دن جدید پانی پر بطریق بالا پھر پڑھ کر دم کرے اور اسی طرح  
استعمال کرے سات دن تک یہ عمل کرے ان شاء اللہ جن چھوڑ کر بھاگ جائیں گے  
اور مندرجہ ذیل تعویذ مبارک لکھ کر مکان کے چاروں گوشوں میں لٹکائے اور ایک تعویذ  
مریض آسیب زدہ گلے میں لٹکائے۔ تعویذ یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً  
لِلْعَالَمِينَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْبَاطٍ يُفْسِدُونَ فِي  
الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ سَلْمًا عَلَى نُوْجٍ فِي الْغَلَبِينَ  
سَلِئِقُولًا قَمْنَ رَبِّ الرَّحِيمِ أَيُّهَا الْجَانُ الْمَارِدُ أَخْرَجَ  
عَنَّا فَإِنْ لَمْ تَعْرُجْ عَنَّا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ قَمْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

### ڈائی کی نظر سے محفوظ رہے

جو کوئی یہ چاہے کہ وہ ڈائی کی نظر بد سے محفوظ رہے اور ڈائی اسے کوئی نقصان نہ پہنچے  
سکے تو ذیل میں دیا ہوا نقش پاک باوضوحالت میں عرق گاب اور زعفران سے لکھ کر اپنے  
بازو پر باندھے یا گلے میں ڈالے ان شاء اللہ تعالیٰ ڈائی کی نظر سے بچا رہے گا۔ پروردید  
عالم اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ نقش پاک یہ ہے۔

### یا حی حین لا حی فی دیمو مه ملکہ وبقاءہ

۸	۱۱	۱۲	۱
۱۳	۲	۷	۱۲
۳	۱۶	۹	۶
۱۰	۵	۳	۱۵

جب یہ تعویذ اپنے بازو پر باندھے تو سب توفیق شیرینی منگلو تقسیم کرے اور تعویذ  
باندھتے وقت باوضوح برباد آزمودہ تعویذ ہے۔

### آسیب و سحر کا خاتمه

حر و آسیب کے خاتمے کے لیے باوضوحالت میں بروز سوموار نماز نجر کے بعد سورج  
ملوٹ ہونے سے قبل ذیل میں دیا ہوا نقش دو عدد عرق گاب و زعفران سے سفید کاغذ  
پر کھینچ کر اکیس مرتبہ معوذ تین پڑھ کر دم کریں۔ ایک نقش تعویذ  
کی طرح مریض کے بازو میں یا ندھر دیس جگہ دوسرے نقش روغن کلنوچی میں حل کر کے مریض  
کے سر، پیشانی اور سینے پر ماش کی جائے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ مریض کو صحبت ہو جائے گی۔

۷۸۶

۵۳۳۰	۵۳۳۳	۵۳۳۷	۵۳۲۳
۵۳۳۶	۵۳۲۳	۵۳۲۹	۵۳۳۴
۵۳۲۵	۵۳۳۹	۵۳۳۱	۵۳۲۸
۵۳۳۲	۵۳۲۷	۵۳۲۶	۵۳۳۸

صحت یا بی کے بعد حسب توفیق شیرینی تقسیم کریں۔

### آسیبی اثرات کا خاتمه

سورہ مومنوں (پارہ نمبر ۱۸) کی آخری آیات سات مرتبہ باوضوح پڑھ کر پانی پر دم کر  
کے آسیب زدہ کو پلا سکیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دو روز میں طبیعت بحال ہو جائے گی  
اور آسیبی اثرات سے نجات مل جائے گی۔ آیات یہ ہیں۔

أَفْعَسْبَلْتُمْ أَنَّهَا خَلْقُنِكُمْ عَبَّثًا وَ أَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

### جن و آسیب دور ہو جائیں

اگر کسی شخص کو کوئی سخت آسیب آزار پہنچاتا ہو تو اس نقش کو لکھ کر کام میں لائیں۔ ایک نقش ٹھلے میں باندھیں اور ایک نقش روز مسلسل ۲۱ روز تک پانی میں دھو کر ایک نقش ٹھلے میں باندھیں اور ایک نقش روز صبح و شام ایک تعویذ آسیب زدہ کے تمام بدن پر مل کر آگ میں پالائیں اور ۳۲ روز تک روز صبح و شام ایک تعویذ آسیب زدہ کے تمام بدن پر مل کر آگ میں جائیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ صحت ہو اور آسیب دور ودفع ہو۔

۷۸۲

۱۷۹۵	۱۷۹۸	۱۸۰۱	۱۷۸۷
۱۸۰۰	۱۷۸۸	۱۷۹۳	۱۷۹۹
۱۷۸۹	۱۸۰۳	۱۷۹۶	۱۷۹۳
۱۷۹۷	۱۷۹۲	۱۷۹۰	۱۸۰۲

یا اللہ ہر قسم کے آسیب و جنات دور شود

### آسیب و جنات کو بھگانا

اس نقش کو لکھ کر فتیلہ بنائے کر چراغ میں جائیں اور مریض کو سامنے چراغ کے بھٹکائیں آسیب حاضر ہو گا۔ چاہیے جائیں یا آزاد کر دیں نقش اگلے صفحے پر ہے۔

فَتَعْلَمَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ  
وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَلًا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا  
جِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكُفَّارُ وَقُلْ رَبِّيْتُ أَغْفِرْ وَ  
أَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ

### آسیب و جن فوراً خاکستر ہو

اگر کوئی عامل کسی جن کو کوئی دفعہ حاضر کر چکا ہو اور وعدے لے چکا ہو لیکن وہ جن یا آسیب پھر بھی باز نہ آتا ہو تو اس نقش کو لکھ کر فتیلہ بنائے کر چراغ نو میں رکھ کر جلائے اور فتیلہ کے نیچے مریض کا نام مع والدہ کے لکھے اور مریض کو رو برو بٹھائے اور فتیلہ جلائے اور عامل خود آئیہ الکری پڑھتا رہے اور وَلَا يَؤْدُهُ حَفْظُهُمَا کی تکرار کرتا رہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آسیب جل جائے گا۔

ع ع ع ع ع ع ع ع

۱۱	۸	۱	۱۳
۲	۱۳	۱۲	۷
۱۶	۳	۶	۹
۵	۱۰	۱۵	۳

ع ع ع ع ع ع ع

۷۸۶

۱۳۶۳۸	۱۳۶۳۳	۱۳۶۲۰
۱۳۶۳۹	۱۳۶۳۷	۱۳۶۳۵
۱۳۶۳۲	۱۳۶۳۱	۱۳۶۳۶

یا اللہ جمع آسیب و جنات سے محفوظ فرمा

اس مقصد کے لئے یہ نہایت مجرب و آزمودہ نقش ہے۔ عمل کرنے کے بعد در توفیق شیرین پتوں میں تقسیم کریں۔

### بندشِ آسیب

جب کسی مریض کے سرپر عامل کسی جن کو حاضر کرے یا بذات خود آسیب و جنات حاضر ہو اور اس کو قید کرنا ہو تو سرخ ریشم کا دھاگہ لے اور پھر سات تار کا گنڈہ بنائے پانچ گنڈے بنائے اور ہر گنڈہ سات گرہ کا تیار کرے اور ہر گرہ پر مندرجہ ذیل عزیمت ۷۔ ۷۔ مرتبہ پڑھ کردم کرے۔ گنڈے پہلے سے بھی تیار کر کے رکھے جاسکتے ہیں۔ جب ایسا موقع درپیش ہو تو ایک گنڈہ گلے میں باندھے دوسرا داہنے بازو میں تیسرا بائیکیں بازو میں باندھے۔ چوتھا گنڈہ داہنے پیر کے انگوٹھے میں اور پانچواں بازو میں پیر کے انگوٹھے میں باندھے۔ ان شاء اللہ آسیب و جن قید ہو گا۔ اور راہ فرار اختیار نہ کرے گا۔“ عزیمت یہ ہے۔

بُسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . حَتَّمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
سَتُعِيهُمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غَشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

### بندشِ آسیب

”برائے آسیب و جن“، اگر کسی مریض کے سرپر جنات و خبیثات وغیرہ سے کوئی شے حاضر ہو اور اس کو قید کرنا چاہے تو ریشم کا دھاگہ کے سات تار لے کر گنڈہ بنائے اور سات گرہ لگائے اور ہر گرہ پر ۷۔ ۷۔ مرتبہ یہ عزیمت پڑھ کردم کرے اور مریض کے گلے میں باندھ دے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آسیب و جن بھاگ نہ پائے گا۔ جب تک گنڈہ مریض کے گلے میں رہے گا۔ مجرب ہے۔ وہ عزیمت یہ ہے۔

بُسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَزَّمْتُ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بُسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَهْيَا أَشْرَاهَيَا بَطْوُلُهُ سِيَّا بَلْ مَرْسِيَا قَهَّارًا بِعَقِّ سُلَيْمَنِ نُبْنِ دَاؤَدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بَنْدُشُو بَنْدُشُو بَنْدُشُو

### بندشِ آسیب

”برائے آسیب و جنات“ قید کرنے کے لیے اس عزیمت کو کام میں لا گئیں اگر مریض عورت ہے اور سرپر آسیب یا جنات حاضر ہے تو مریضہ عورت کی نیچ کی انگلی و شہادت کی انگلی یعنی دونوں انگلیوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھے۔ اور اگر مریض مرد ہے تو اس کی داہنے ہاتھ کی مشھی بند کرائے اپنے ہاتھ میں پکڑے اور عزیمت مندرجہ ذیل کو ۵ مرتبہ پڑھ کردم کرے ان شاء اللہ تعالیٰ آسیب و جن قید ہو گا اور راہ فرار اختیار نہ کرے گا۔ وہ عزیمت یہ ہے۔

بُسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا حَمْيَ يَا قَيْوُمُ يَا ذِكْرَ طَاهِرِيْنَ

مِنْ كُلِّ أَفَةٍ بِقُبُودَهُ يَأْرُفُهُ يَا قَدُّوسُ بِعَقْيٍ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاؤُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بَنَدْشُود بَنَدْشُود

### آسیب و جنات تنگ نہ کریں

اگر کوئی شخص آسیب و جنات کا تایا ہوا ہو تو اس آسیب زدہ کا علاج اس نقش سے کریں۔ ایک نقش گلے میں باندھیں اور ایک نقش روز متواترے اروز تک پلاں کیں اور ایک نقش تیل میں پکا کر رکھیں اور آسیب زدہ کی ماش صبح و شام کریں متواتر سترہ روز تک۔ ان شاء اللہ آسیب زدہ کو شفاۓ کامل اور سخت عاجل حاصل ہوگی۔ بروز جمعہ تیار کر کے رکھ لیں مجبوب ہے۔ وہ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۲۱۰۱۲۲۳	۲۱۰۱۲۲۴	۲۱۰۱۲۲۹	۲۱۰۱۲۱۵
۲۱۰۱۲۲۸	۲۱۰۱۲۱۶	۲۱۰۱۲۲۲	۲۱۰۱۲۲۷
۲۱۰۱۲۱۷	۲۱۰۱۲۳۱	۲۱۰۱۲۲۳	۲۱۰۱۲۲۱
۲۱۰۱۲۲۵	۲۱۰۱۲۲۰	۲۱۰۱۲۱۸	۲۱۰۱۲۳۰

چالیس روز کے بعد حسب توفیق گھر میں کوئی چیز پکا کر غرباء و مساکین میں تقسیم کرے آسیب و جنات کو بھگانے کے لیے یہ نہایت موثر و آزمودہ عمل ہے۔

### آسیب و جنات کو بوتل میں بند کرنا

اول عزیمت مندرجہ ذیل کی زکوٰۃ ادا کرے۔ طریقہ ہے کہ عروج ماہ میں بعد نماز عشاء ۱۲۱ مرتبہ روزانہ پڑھئے۔ چالیسویں دن ایصال ثواب کرے اور شیرینی تقسیم کرے۔ ان شاء اللہ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ بعدہ ۱۱ مرتبہ روز ورد میں رکھئے۔ وقت ضروت جب کسی جن، دیو، آسیب، کفتار ان بیابان و عفریت وغیرہ کو قید کرنا ہو تو تخت سلیمان علیہ السلام روز چہارشنبہ صبح ۶ تائے بجے کے درمیان لکھے اور تیار کر کے رکھیں۔ چدائغ نوجلاں میں اور تخت سلیمان والا نقش مریض کے دونوں ہاتھوں میں پکڑ واکیں اور مریض اس کو دیکھتا

۲۳	۲۸	۳۱	۱۷
۳۰	۱۸	۲۳	۲۹
۱۹	۳۳	۲۶	۲۲
۲۷	۲۱	۲۰	۳۲

یا اللہ جمیع آسیب و جنات دور شود


### آسیب و جنات بھاگ جائیں

آسیب زدہ کے واسطے ایک نقش لکھ کر گلے میں باندھئے اور ایک نقش پانی کی بوتل

بَاب: ۲۰  
رہے۔ ان شاء اللہ جن، آسیب، تخت سلیمان میں دروازہ سے داخل ہو گا بوتل مظبوطہ اس  
والی تیار رکھیں۔ تخت سلیمان کا دوسرا کونہ بوتل کے منہ کے پاس رکھیں اور عامل ہدایت  
کرے کہ بوتل میں داخل ہوں تو جن بوتل میں داخل ہو گا۔ عزیمت پڑھ کر ذات پر  
کر کے بوتل کامنہ بند کر کے کسی پرانی قبر میں گھر آگزٹھا کھود کر فن کر دے تاکہ نکلنے  
پائے۔ وہ عزیمت یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ سَلَكْٰتْ سَلَكْٰتْ سَلَكْٰتْ  
يَلْكَٰتْ يَلْكَٰتْ حَيْدَرَ حَيْدَرَ دَجْنَكَسْ مَنْكَسْ جَلُو مَلُو لَلُو  
يَلُو يَا قَهَّارَ تَقْهَّرُتْ بِالْقَهْرِ وَالْقَهْرِ فِي الْقَهْرِ قَهَّرُتْ يَا قَهَّارَ  
يَا جَنُو كَحِبِيْبَ حَاضِرًا وَرَدِيْمَ تَحْتَ سُلَيْمَنَ بْنَ دَاؤُدَ  
عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

وہ تخت سلیمان یہ ہے۔



### آسیب تنگ نہ کرے

مرجع برائے دفع آسیب جن و خبیث یہ نقش لکھ کر گلے میں باندھے۔ اللہ تعالیٰ کے

بادو اور جنات سے تکمیل شرطیہ نجات  
کرم سے آسیب دفع ہو گا۔ آزمودہ و مجرب ہے۔

۸	۲۳۹۱	۳۳۹۳	۱
۲۳۹۳	۲	۷	۹۳۲۹۲
۳	۲۳۹۶	۲۳۸۹	۲
۲۳۹۰	۵	۲	۲۳۹۵

### آسیب کو خاکستر کرنا

شب اتوار یا سوموار خواہ بدھ چراغ میں جائے۔ مریض سے کہے کہ چراغ کی  
طرف نگاہ رکھے جو کچھ آسیب ہو گا۔ موکل حاضر کریں گے اور اگر بیماری ہو گئی خبر دیں گے  
روغن گاؤں میں فلیتہ روشن کرے خواہ روغن کنجد میں بخور لو بان و عود و صندل اور شیرینی یا بارہ  
چھٹا نک اور پھول رکھ کر فاتحہ دے کر صحیح کو ان سب اشیاء کو دریا میں ڈال دے نام مریض  
مع والد اس تعویذ کے نیچے لکھے، بنت فلاں کو تکلیف دیتا ہے اے موکلو! ان کو حاضر لاو اور  
جلادو یہ ہے۔

۳۱	۲۸	۲	۷
۶	۳	۳۵	۳۳
۳۷	۳۲	۸	۱
۳	۵	۳۳	۳۲

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
ہو جائے گا۔ جب حاضر کرنا منظور ہو تو وہ پھول کھول دے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ عَلَيْنَا<sup>۱</sup>  
حَصَارِيَةُ مُحَمَّدٍ رَّسُولُ اللَّهِ قِفْلَةُ مِسْمَارَةٌ.

### آسیب و جنات کو بھگانا

جس مکان میں اینٹ پتھر آتے ہوں اور اس مکان میں رہنے والے پریشان ہو گئے ہوں تو نقش لکھ کر فتیلہ بنا کر مکان میں جلائے متواتر سات روز تک۔ ان شاء اللہ اینٹ و پتھر کا آنا بند ہو گا۔ اور مکان محفوظ و مامون رہے گا اور مکینوں کو کسی قسم کا خطرہ لا جو نہ رہے گا۔ مجرب ہے نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۱	۱۲	۱۱	۸
۱۲	۷	۲	۱۳
۲	۹	۱۶	۳
۱۵	۲	۵	۱۰

### یا اللہ جمیع آسیب و جنات دور شود

سات یوم کے بعد حسب توفیق نیاز پکا کر تقسیم کریں اور گھر کے افراد ساتویں روز نماز شاء کے بعد چار رکعت نفل نماز ادا کریں۔

### برائے دفع آسیب

جب عامل کسی آسیب، دیویا جن وغیرہ سے بات کر چکے اور رخصت کرنا چاہئے یا بغیر بات کے ہی اس کو دفع کرنا چاہئے تو مندرجہ ذیل عزیمت کو پڑھ کر دم کرے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے چلا جائے گا۔ وہ عزیمت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَمْعَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ  
أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
فَانْفُذُو لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنٍ فِيَأْيِ الَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ  
يَمْعَشَرَ الْجِنِّ بِحَقِّ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ أُخْرِجُوا مِنْ  
هَذِهِ الْجَسَدِ وَالْعِظَامِ وَالْعُرُوفِ بِهَيْبَةِ اللَّهِ وَبِقُوَّةِ اللَّهِ  
وَبِجَلَالِهِ وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ أَهْمَى إِشْرَاهِيَا يَمْعَشَرَ الْجِنِّ  
وَالْإِنْسِ إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ فَانْفُذُو لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنٍ فِيَأْيِ الَّاءِ  
رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ . الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ

### آسیب کی بندش

برائے ضبط کرنے آسیب کے سات مرتبہ اور انگشت شہادت کے پڑھ کر اور آسیب زدہ کے انگلی گھمادے۔ آسیب بند ہو جائے گا خواہ اور پھول خوبصوردار کے سترہ مرتبہ پڑھ کر دم کر کے وہ پھول آسیب زدہ کے سر کے بال میں باندھ دے آسیب بند

## برائے دفع آسیب

اگر کوئی مریض بیہوش ہو تو مندرجہ ذیل آیت ۱۱ مرتبہ پانی پر پڑھ کر دم کرے اور مریض کے منہ پر مٹے اور تھوڑا تھوڑا کر کے کئی بار پلاۓ۔ ان شاء اللہ مریض ہوش میں آجائے گا اور جون یا آسیب ہو گا۔ دفع ہو گا۔ وہ آیت یہ ہے

**وَلَقَدْ فَتَنَّا سَلَيْمَنَ وَالْقَيْنَاتِ عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَكَابَ وَأَتَيْنَاهَا دَأْفَدَ زَبُورًا.**

۱۱ آسیب وغیرہ کو دفع کرنے کیلئے پہلے تو آیت مندرجہ بالا کی زکوٰۃ ادا کرے۔ طریقہ کہ عروج ماہ بروز جمعرات شروع کرے اور بعد نماز عشاء ایک ہزار مرتبہ روزانہ ۳۱ روز تک متواتر پڑھے۔ اکتا لیسویں روز ایصال ثواب کرے اور شیرینی تقسیم کرے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا ہو گی۔

وقت ضرورت اول مریض کے دانے کان میں ۲۱ مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور باعث میں کان میں ۱۹ مرتبہ پڑھ کر دم کرے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ جن و آسیب وغیرہ دفع ہو گا۔

## برائے دفع آسیب

جن و آسیب وغیرہ کو دفع کرنے کے لیے مریض کے کان میں اذان پڑھے، اور سورہ فاتحہ، اور چاروں قل پڑھے پھر آیۃ الکرسی اور سورہ طارق اور سورہ حشر کا آخری رکوع اور سورہ صافات مِنْ طِينٍ لَازِبٌ تک بلند آواز سے پڑھے۔ ان شاء اللہ آسیب و جن وغیرہ فرار ہو جائے گا۔ یا جل جائے گا۔ محرب ہے۔

## برائے دفع آسیب

اگر کوئی مریض کئی گھنٹے سے بیہوش ہو اور کسی صورت ہوش ن آ رہا ہو تو سورہ مومنون کا آخری رکوع آفَحَسِبَتْهُمْ آتَيْا سے آخر سورہ تک کان میں پڑھے۔ اور پانی پر آیۃ الکرسی، سورہ فاتحہ، اور سورہ جن کی شروع کی پانچ آیتیں گلی چا تک پڑھ کر دم کرے

## برائے دفع آسیب

وَلَقَدْ فَتَنَّا سَلَيْمَنَ وَالْقَيْنَاتِ عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَكَابَ وَأَتَيْنَاهَا دَأْفَدَ زَبُورًا.

آسیب وغیرہ کو دفع کرنے کیلئے پہلے تو آیت مندرجہ بالا کی زکوٰۃ ادا کرے۔ طریقہ کہ عروج ماہ بروز جمعرات شروع کرے اور بعد نماز عشاء ایک ہزار مرتبہ روزانہ ۳۱ روز تک متواتر پڑھے۔ اکتا لیسویں روز ایصال ثواب کرے اور شیرینی تقسیم کرے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا ہو گی۔

وقت ضرورت اول مریض کے دانے کان میں ۲۱ مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور باعث میں کان میں ۱۹ مرتبہ پڑھ کر دم کرے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ جن و آسیب وغیرہ دفع ہو گا۔

## برائے دفع آسیب

آسیب زده کے واسطے یہ فتیلہ بھی پرتا شیر اور زود اثر ہے۔ اس فتیلہ کو لکھ کر نیلا دھاگہ لپیٹ کر بنائے کر چراغ میں سرسوں کا تسلیل ڈال کر جلائے اور مریض کو بٹھائے یا آسیب زده اور سحر زدہ کو سنگھائے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ جو بھی آسیب و جن آزار پہنچانا ہو جل کر خاکستر ہو گا۔ یہ نقش محرب و آزمودہ اور نہایت سریع الاثر ہے۔

فرعون	ابلیس	ہامان	شداد
ابلیس	ہامان	شداد	نمرود
ہامان	شداد	نمرود	لعین
شداد	نمرود	لعین	ابلیس

ہر کہ درد جود فلاں مستولی شدہ کشنة شود

اور مریض کے منہ پر چھینٹا مارے اور تحوزہ اخوڑا اپلاے بھی۔ ان شاء اللہ فوز اہوش میں تک  
گا اور باقی پانی مکان میں چھڑک دینا چاہیے۔

## برائے دفع آسیب جنات

اس نقش معظم کو بعد نماز فجر عروج ماہ میں لکھ کر آسیب زدہ کے گلے میں بامسح ان  
شاء اللہ تعالیٰ کامل صحت حاصل ہوگی اور آئندہ بھی ہر قسم کے آسیب و جنات و ہجگیاں  
کلبیان، شیریان، کفتاران کے شر سے محفوظ رہے گا۔ مجرب و آزمودہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَمْغَشِّرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ  
وَالْأَزْوَاجِ وَصَاحِبِ الشَّرِّ وَالْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ مِنْ كُنُوزِ  
مُلْكِهِ بِحَقِّ الْمَيِّمُونِ زَنجِينَ وَبِحَقِّ الْمَيِّمُونِ حَبْشَى أَخْرِيجِ  
الْجِنَّ وَالْجِنَّى إِنَّهُ جَنِّيْرُ الْأَمْرَاضِ وَالْأَفْرَادِ أَخْرِيجُ مِنْ كُلِّ  
مَكَانٍ وَمَقَامِ خَاتِمِ الْمُرْسَلِينَ سَلَيْمَانَ بْنَ دَاؤَدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ  
يَا قَوْقَلْ يَا قَوْقَلَانْ يَا هُوكَلْ يَا هُوكَلَانْ، يَا عَجُوزُ أَقْدَرْ  
الْقِبْلَيَانْ نُحْدُ هَذَا وَهَذَهْ بِحَقِّ تَوْرَةِ مُوسَى وَإِنْجِيلِ  
عِيسَى، وَزَبُورِ دَاؤَدْ وَفُرْقَانِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَبِحَقِّ  
جَمِيعِ الْكُتُبِ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ。 إِذْفَعْ بِحَقِّ  
شَيْحِ الْمَشَايخِ حَضْرَتْ سُلْطَانِ شِيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ  
جِيلَانِيْ عَلِيِّقَا مَلِيِّقَا طِلِيِّقَا أَنْتَ تَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ  
طِلِيِّقَا مَلِيِّقَا بِحَقِّ جَمِيعِ مَؤْكَلَاتِ وَمَلَائِكَانِ أَحْضَرُوا  
بِحَقِّ يَا بُدُّوْخ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

اوں عزیمت کی زکوٰۃ ادا کرے۔ طریقہ یہ ہے کہ بروز جمعرات بعد عشاء کسی  
صاحب مزار کی قبر کے قریب بیٹھ کر روزانہ ۱۵ بار بلانا غمہ پڑھے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ چالیس  
روز میں زکوٰۃ ادا ہوگی۔ چالیسویں روز ایصال ثواب کرے اور شیرینی تقسیم کرے۔ ان شاء

## برائے دفع آسیب

اول سورۃ لایلاف (سورۃ قریش) کی زکوٰۃ ادا کرے۔ طریقہ یہ ہے کہ بڑا پخشنہ سے شروع کرے اور بعد نماز عشاء ۱۲۵ مرتبہ روزانہ پڑھ کر چالیس روز میں ۳۱ مرتبہ پخشنہ سے شروع کرے۔ ترک حیوانات اور پرہیز جمالی کرے۔ چالیسویں روز ایصالِ ثواب اور شیرینی تقسیم کرے۔ ان شاء اللہ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ مجبوب ہے۔ بعدہ ۲۱ مرتبہ روز ورد میں رکھے۔ اس عمل سے مندرجہ ذیل خاصیتیں عامل کے اندر پیدا ہوں گی۔

- (۱) عامل آسیب زدہ کو اپنا سلام کہلا کر بھیجیں ان شاء اللہ آسیب بھاگ جائے۔
- (۲) اگر عطر یا پھول پرے مرتبہ پڑھ کردم کرے تو آسیب فوراً مریض کے سر پر حاضر ہوا اور تابعداری کرے۔
- (۳) اگرے مرتبہ پڑھ کر پانی پردم کر کے آسیب زدہ کے چہرے پر چھینٹے مارے تو بطور آگ کے جلے گا اور چھینٹ مارے گا۔
- (۴) اگر مریض کے بدن میں قید کرنا چاہے تو تین گندے سات سات تار کے سات گرہ کے تیار کرے اور ہر گرہ پر سات سات مرتبہ پڑھ کردم کرے۔ اول گندہ جو کہ گلے میں باندھا جائے گا اس میں درمیان کی تین گرہ تین تین پھنڈوں کی لگائے اور ہر گرہ پر گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ کردم کرے باقی چار گرہ پر سات سات مرتبہ پڑھ کردم کرے۔ اس کو گلے میں باندھے۔ باقی دو گندوں میں سے ایک داہنے بازو میں اور دوسرا باخیں بازو میں باندھے۔ جب تک گندے نہ کھونے جائیں گے اس وقت تک قید رہے گا کسی صورت بھی فرار نہ ہو پائے گا۔ مجبوب ہے۔
- (۵) اگر آسیب یاد یو یا جن بات کرتے ہوئے تنگ کر رہا ہو تو ایک سو ایک مرتبہ سورۃ لایلاف پڑھ کردم کرے عطر پر اور آسیب زدہ کو سنگھائے تو آسیب یا جن جو بھی ہو گا عاجز و تنگ آجائے گا اور اطاعت و فرمانبردار اختیار کرے گا۔
- (۶) اگر گیارہ مرتبہ پانی پردم

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
کر کے مریض کو پلاۓ تو ان شاء اللہ شفاۓ کامل پائے گا۔ (۷) اگر پیلیا والے کو گیارہ مرتبہ پڑھ کر پانی پردم کر کے تین روز پلاۓ تو ان شاء اللہ تعالیٰ شفا ہوگی۔ (۸) جس کمانے پر گیارہ مرتبہ پڑھ کردم کرے برکت ہوئے، اور کھانے کے اندر جو مضرت ہوگی درہ ہوگی۔ (۹) اگر گلاب، زعفران سے لکھ کر پانی سے دھو کر زہر خوردہ کو پلاسیں تو ان شاء اللہ زہر اڑنہ کرے گا اور مریض اچھا ہو جائے گا۔ (۱۰) اگر کسی کوشش کا در دشکم ہو تو اس درت کو لکھ کر ناف کے اوپر پیٹ پر باندھے۔ ان شاء اللہ در دشکم فوراً ادور ہو گا۔

## آسیب شیطان شریر جن

بادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات

The image shows a circular cover of an Islamic prayer book. The outer ring contains the text "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" repeated eight times. The inner circle features a central calligraphic composition with the following text:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِي مُحَمَّدٍ  
يَعْدِ كُلَّ ذَرَّةٍ مَائَةً أَلْفِ  
أَلْفِ أَلْفِ مَرَّةٍ وَبَارِكْ وَسِلِّمْ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ  
الرَّحِيمِ مُلِكِ يَوْمِ الدِّينِ  
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا  
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ  
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ  
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

The entire book cover is framed by a decorative border.

بڑا اور بے  
دوسرا نئش پاک ہے

۲۸۴

الرحيم	الرحمن	بسم الله
الله	يَا مُحَمَّد	نصر من
قريب	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	وفتح
	مُحَمَّد رَسُولُ اللَّهِ	
فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	يَا اللَّهُ يَا رَزَاقَ يَا فَتَاحَ يَا فَتَاحَ	وَبِشْرُ الْمُؤْمِنِينَ

## آپکی اثرات سے خلاصی

اگر کسی شخص کو جن یا آسیب ستاتا ہو یا جن و آسیب کا اثر محسوس ہوتا ہو تو صحیح و شام یہ کلمات باوضو پڑھے۔ صرف ایک بار صحیح ایک بار شام۔

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ وَقُلْ رَبِّ  
أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمْزَتِ الشَّيْطَنِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَخْضُرُونَ

اس کے بعد ایک ایک مرتبہ معوذین پڑھے۔ ان شاء اللہ چند دن اس پر عمل کرنے کے بعد زبردست سکون اور آسیبی اثرات سے نجات محسوس کرے گا۔

## آسیبی اثرات سے خلاصی

اس فتیلے کو بعد نمازِ ظہر لکھ کر تیار رکھے اور وقتِ ضرورت کام میں لائے۔ اگر کوئی

جاداً وَ جَنَاتٍ مَكْلُولِ شَرْطِيَّةِ نَجَاتٍ  
آسِيب زَدَه بَيْهُ هُوَ تَوَاسُ فَتِيلَه كُوسَرُوسُونَ كَتِيلَ مِيزَ تَلِيَه  
كُونَكَحَاهَ - ان شاء اللہ تعالیٰ صحت حاصل ہو۔ نہایت تجرب و آزمودہ ہے۔ مرینغ جب  
صحت یا ب ہو جائے تو سب توفیق کھانا پا کر تقسیم کرے۔

232

جاداً وَ جَنَاتٍ مَكْلُولِ شَرْطِيَّةِ نَجَاتٍ  
آسِيب زَدَه بَيْهُ هُوَ تَوَاسُ فَتِيلَه كُوسَرُوسُونَ كَتِيلَ مِيزَ تَلِيَه  
بَاب: ۲۳۲  
کُونَكَحَاهَ - ان شاء اللہ تعالیٰ صحت حاصل ہو۔ نہایت تجرب و آزمودہ ہے۔ مرینغ جب  
صحت یا ب ہو جائے تو سب توفیق کھانا پا کر تقسیم کرے۔

الله	دلو	وصى	٣
٢٠٠	٥	١٧	سلیمان
١٠	٥	٣	١٥
٣	٦	٩	٦
١٣	٦	٧	١٢
٨	١٢	١١	١

## برائے دفع آسیب

رسول کے تیل پر مندرجہ ذیل آیت ۲۱ مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور آسیب زدہ  
و سحر زدہ یا کسی بھی یماری میں درد شدید ہو تو اس تیل کو دونوں بھنڈوں پر ناک کئے تھوں میں،  
کان کی پاپڑیوں پر، بیسون ناخنوں پر، اور دل کے مقام پر اور درد کی جگہ پر لگا گیس ان شاء  
اللہ تعالیٰ آسیب و سحر و یماری زائل ہو کر آرام و سکون ہو گا۔ وہ آیت شریفہ یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ  
وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ يَتُوبُونَ فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ الْحَرِيقِ

233

مکمل شرطیہ نجات

باب: ۲

## آسیب بھاگ جائے

آسیب سے نجات کے لیے عامل غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہنے اور نہایت  
آسیب یکسوئی کے ساتھ یہ نقش لائے۔

۸	۲	۳	۲
۲	۳	۲	۸
۲	۸	۲	۳
۳	۲	۸	۲

مکمل  
عکس  
آسیب  
مکمل  
عکس  
آسیب  
مکمل  
عکس  
آسیب

چھر فایتہ بنائے کروئی میں لپیٹے۔ اس کے اوپر کو راجانغ رکھ دے اس میں  
سرسون کا تیل ڈالے اور فایتہ رکھ کر روشن کرے اس چرانغ کے پاس ہی بچوں اور شیرینی  
رکھے اور لوبان سلاگائے۔ چھر آسیب زدہ کو غسل دے کر پاک صاف لباس پہنانا کر اپنے  
پاس بھائے اور دھواں اس تک پہنچائے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ شفا ہو گی۔ اور آسیب بھاگ  
جائے گا اس کے بعد شیرینی بچوں میں تقسیم کر دے۔

## برائے دفع آسیب

مندرجہ ذیل عزیمت کو سات عدد کاغذ پر لکھ کر سات روز تک آسیب زدہ کو پلاۓ۔ ان  
شاء اللہ صحبت کاملہ و شفا یہ عاجله حاصل ہو گی۔ اور شیرینی تقسیم کرے۔ وہ عزیمت یہ ہے۔  
عَلَيْقَا مَلِيْقَا طَلِيْقَا أَنْتَ تَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ طَلِيْقَا

## بَرَاءَ دَفْعٍ آسِيبٍ

اس عزیت کو بھی سرسوں کے تیل پر گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور مریض کے چہرے پر ملنے۔ ان شاء اللہ کتنا ہی سخت آسیب و جن و دیو وغیرہ ہو دور و دفع ہوگا۔ اور فریادی ہوگا۔ وہ عزیت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرَةَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى إِنَّ رَبَّكُمْ أَنَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي الَّلَّيلَ النَّهَارَ يَظْلَبُهُ حَثِيشًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِإِمْرِهِ أَلَا لَهُ الْعَلْقُ وَالْأَمْرُ، تَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَدْعُوكُمْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَأَدْعُوكُمْ حَوْفًا وَظَمَعَدَ، إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

## آسیب و جنات بھاگ جائیں

اگر کسی مکان میں کوئی جن یا آسیب اینٹ، پتھر، پھینکتا ہو یا کپڑوں میں آگ لگاتا ہو اس نقش کو خوش خط لکھ کر مکان کی اس دیوار پر لگائے جس سے نقش کامنہ کعبہ شریف کی طرف رہے۔ اور بچوں کو شیرینی تقسیم کرے، ان شاء اللہ تعالیٰ مکان ہر قسم کے آسیب و جنات و بلیات و آفات سے محفوظ رہے گا۔ مجرب و آزمودہ ہے۔

۷۸۶

۱۵	۳	۵	۱۰
۶	۹	۱۶	۳
۱۲	۷	۳	۱۳
۱۰	۱۳	۱۱	۸

عَجَّاجِحٌ عَجَّاجِحٌ

## بَرَاءَ دَفْعٍ آسِيبٍ

اگر کسی شخص کو آسیب زیادہ تنگ کرتا ہو یا مختلف طریقہ سے اذیتیں دیتا ہو تو مندرجہ ذیل عزیت کو سرسوں کے تیل پر تین مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور آسیب زدہ کے چہرہ پر ملنے۔ ان شاء اللہ آسیب و جن عاجز ہوگا۔ فریادی ہوگا اور دفع ہوگا۔ وہ عزیت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ رَبَّكُمْ أَنَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي الَّلَّيلَ النَّهَارَ يَظْلَبُهُ حَثِيشًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِإِمْرِهِ أَلَا لَهُ الْعَلْقُ وَالْأَمْرُ، تَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَدْعُوكُمْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَأَدْعُوكُمْ حَوْفًا وَظَمَعَدَ، إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

## آسیب و جنات کے اثرات سے محفوظ

اگر کسی مکان میں آسیب و جنات کے اثرات ہوں تو پانچ کیل لوہے کی لیوے اور ہر ایک کیل پر سات سات مرتبہ مندرجہ ذیل عزیت پڑھ کر دم کرے۔ چار کیلیں مکان کے چاروں کونوں میں گاڑ دیں اور پانچویں کیل صدر دروازے میں گاڑ دے۔ ان شاء اللہ مکان کے ہر قسم کے آسیب و جنات و جمیع بلیات و آفات سے محفوظ رہے گا۔ وہ عزیت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدًا فَمَهِلِ الْكُفَّارِينَ أَمْهَلُهُمْ رُؤْيَدًا. سَقَدَ سَامِلَ كَسَنَا يَا تُؤْيَا عَلَفَ بِحَقِّ سُلَيْمَنِ بْنِ دَاؤَدَ عَلِيهِمَا السَّلَامُ عَلِيهِمَا مَلِيْقًا طَلِيْقًا أَنْتَ تَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ طَلِيْقًا.

## برائے دفع آسیب

مندرجہ ذیل نقش کرم کو بروز جمعرات صبح ۹ اور ۱۰ بجے کے درمیان لکھ کر رکھے۔ وقت ضرورت کسی بھی آسیب زدہ کو دیوے کہ وہ مومن جامدہ کر کے کالے کپڑے میں سی کردھوں دے کر گلے میں ڈالے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آسیب دفع ہوگا۔ اور آسیب زدہ محفوظ رہے گا۔

۷۸۶

۶۸۱۵۸	۶۸۱۶۱	۶۸۱۶۲	۶۸۱۵۱
۶۸۱۶۳	۶۸۱۵۲	۶۸۱۵۷	۶۸۱۶۲
۶۸۱۵۳	۶۸۱۶۶	۶۸۱۵۹	۶۸۱۵۶
۶۸۱۶۰	۶۸۱۵۵	۶۸۱۵۳	۶۸۱۶۵

## آسیب و جنات کو بھگانا

اگر کسی کو کوئی خبیث جن ستاتا ہوا اور بازنہ آتا ہو تو اس فتیلہ کو بروز جمعرات لکھ کر تیار کر کے اور ضرورت کے وقت کام میں لائے۔ فتیلہ بنا کر مریض کا پہنا ہوا کپڑا لے کر جلانے اور مریض کو رو بٹھائے یا نیلا کپڑا لے کر اسے لپیٹ کر جلانے ان شاء اللہ برائے اثرات مریض سے اور مکان سے دور ہو جائیں گے۔ ایک فتیلہ روز جلانے اور سات روز تک جلانے۔ مجبوب ہے فتیلہ یہ ہے۔

ہر رج	رج	رج	رج
۱۱	۸	۱	۱۲
۲	۱۳	۱۲	۷
۱۶	۳	۶	۹
۵	۱۰	۱۵	۸

## برائے دفع آسیب

اگر عامل کسی آسیب زدہ کے دابنے کا نہ میں اذان پڑھے اور بائیں کا نہ میں تکبیر پڑھے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آسیب و جنات و خوبیات دفع ہوگا اور مریض کو صحبت کا مل حاصل ہوگی۔ مجبوب ہے۔

## آسیب و جنات خاکستر ہو جائے

آسیب زدہ کے واسطے اس نقش کو لکھ کر فتیلہ بنایا کر نیلا دھاگہ لپیٹ کر سروں کے تیل میں ترکر کے آسیب زدہ کو سنگھائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آسیب و جن بھاگ جائے گا۔ اور پھر نہ آئے گا اگر جلانا چاہو تو اس فتیلہ کو چراغ میں جلاو تو جو بھی آسیب یا جن ہوگا حاضر ہوگا۔ اور جل کر خاکستر ہوگا اور ان شاء اللہ تعالیٰ مریض کو صحبت کا مل ہوگی۔ مجبوب ہے۔

۷۸۶

۱۱۳	ہامان	ابیس	فرعون
۱۱۳	ہامان	ابیس	فرعون
۱۱۳	ہامان	فرعون	ہامان
۱۱۳	ہامان	ابیس	فرعون


۵۱۸ س ۱۷۱ س ۱۵۳

ہ

دروجود فلاں بن فلاں حاضر شود بسو ز دگر دو

برائے دفع آسیب

اگر کوئی شخص گم (بے ہوش) ہو اور کسی صورت پتہ نہ لگ رہا ہو کہ اس مریض کو کیا عملت ہے تو اس نقش کو لکھ کر مریض کو دکھلادے (چند منٹ تک) اگر آسیب ہو گا تو مریض رونا شروع کر دے گا۔ اور خبیث و گندے اور پلیدی اثرات ہوں گے تو ہنسنا شروع کر دے گا اور اگر جسمانی مرض ہے تو چپ اور خاموش رہے گا۔ یہ جاننے کے لیے اس نقش کا فتیلہ بنائے جس کا چڑاغ میں جلا دے۔ روئی لپیٹ کر بنتی بنا کر سرسوں کے تیل میں روشن کرے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آسیب چینے گا چلائے گا اور فریادی ہو گا اور دفعہ ہو گا۔ نقش یہ ہے۔



اس نقش کو بروز جمعرات، سوموار یا بدھ کو بعد نماز فجر لکھ کر ایک نقش مریض کے گلے میں باندھے اور سات عدد نقش سات روز تک پانی میں دھوکر پلائے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ہر قدم کا آسیب دفع ہو گا اور مریض صحستیاب ہو گا۔

۷۸۶

ناصر	وکیل	رقیب	حافظ	حافظ
نصریں	ناصر	وکیل	رقیب	حافظ
قادر	نصریں	ناصر	وکیل	رقیب
قدیر	قادر	نصریں	ناصر	وکیل
سلام	نذیر	قادر	نصریں	ناصر

### برائے دفع آسیب

اس نقش کو بروز سموار تین سے چار بجے کے درمیان لکھ کر گلے میں باندھے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آسیب و جنات د جمیع خطرات سے حفظ و مامون رہے گا۔

۲۷	۳۰	۳۳	۲۰
۳۲	۲۱	۲۶	۳۱
۲۲	۳۵	۲۸	۲۵
۲۹	۲۳	۲۳	۳۲

### برائے دفع آسیب

ف	ع	ح	لو
ح	و	د	ن
و	د	لہ	و
زد	ح	سرہ	ۃ

اس نقش کو بروز جمعرات، سموار یا بدھ کو بعد نماز فجر ایک کھلے منہ کے اسکو رے میں

بادو اور جنات سے تکمیل شرطیہ نجات  
اور جس مکان میں آسیب جن، دلو، پریس وغیرہ کے دخول کا شہر ہو یا جن، آسیب،  
نکھلے ہوں تو نہ کورہ بال نقش لکھ کر مکان کی چھت میں لٹکئے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ہر قسم  
وغیرہ نکھلے ہوں تو آسیب دیکھ دیکھ دو رو دفع ہو گا۔

### برائے دفع آسیب

آخر سی کو آسیب ستاتا ہو اور کسی صورت بھی چھکنا رانہ ہو تو نہ کورہ نقش لکھ کر مجھے میں  
باندھے اور بیس روز تک ایک نقش پلائے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ تکمیل آرام ہو گا۔

قیوس	صموس	حیوش
بر خیا	ابر خیا	طوس
بحق حضرت	میمون	میمون
سلیمان	حابثی	زندگی

### برائے دفع آسیب

اول نقش چوتیس کی زکوڑا دا کرے۔ ترکیب یہ ہے کہ چوتیس روز تک ہر روز چوتیس  
نقش لکھ کر آٹے میں گولیاں بنائے کر دیا میں ڈالے بعد نماز فجر یا بعد نماز عشاء لکھے۔ چوتیس  
روز میں زکوڑا دا ہو گی۔ اس روز شیر بینی تقسیم کرے۔

### دوسری ترکیب:

دوسری ترکیب یہ ہے جو پہلی ترکیب کے مقابلہ میں زیادہ طاقت والی ہے۔ اول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات

تو چوتیس روز تک ہر روز چوتیس نقش لکھے۔ بعدہ سولہ روز تک سولہ ہی نقش لکھے اس کے بعد چار روز تک چار نقش لکھے اور دریا میں ڈالتا رہے۔ چاہے اکٹھے ڈالے یا روز ڈالتا رہے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ بعدہ ایصال ثواب کرے اور شیرین تقسیم کرے۔ بعد زکوٰۃ ادا کرنے کے جس مقصد یا حاجت کے لئے لکھے وہ مقصد نقش کے نیچے لکھ دے۔ ان شام اللہ تعالیٰ مراد پوری ہوگی۔ آسیب زدہ، حمرزدہ، اور کسی مرض والے کے گلے میں باندھے۔ ان شام اللہ سکون و آرام حاصل ہوگا۔ آسیب زدہ کو فتیلہ بنایا کر بھی سنگھایا جاسکتا ہے۔ ان شام اللہ تعالیٰ آسیب فوراً دفع ہوگا۔ مجرب و آزمودہ ہے۔ نقش یہ ہے

۸	۱۱	۱۳	۱
۱۳	۲	۷	۱۲
۳	۱۶	۹	۶
۱۰	۵	۳	۱۵

### برائے دفع آسیب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مندرجہ ذیل عزیمت آسیب زدہ کو لکھ کر دیں اور صبح و شام پانی میں دھو کر پلاۓ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آسیب زدہ کو شفا کے کامل حاصل ہوگی۔ مجرب ہے۔ وہ عزیمت یہ ہے۔

مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ.

### برائے دفع آسیب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اگر کسی شخص کو کوئی آسیب یا جن ستاتا ہو اور آسیب زدہ بیہوش ہو تو اس عزیمت کو لکھ کر پانی میں دھو دے اور تھوڑا پانی منہ پر ملے یا چھٹے مارے اور پانی تھوڑا تھوڑا پلاۓ۔ ان شاء اللہ آسیب زدہ بیہوش میں آجائے گا۔ یہ مجرب ہے وہ عزیمت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَلَيْقَا مَلِيْقَا حَالِقَا

مَخْلُوقًا أَنْتَ تَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مَلِيْقَا.

دوسری عزیمت زعفران و گلاب سے لکھ کر گلے میں باندھے۔ عزیمت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا حَافِظُ يَا حَفِيظُ يَا رَقِيبُ يَا وَكِيلُ

اگر کسی شخص کو کوئی آسیب ستاتا ہو یا جن ودیو وغیرہ تنگ کرتا ہو یا کوئی پری درپے آزار ہو تو اس نقش کو بروز جمعرات صبح ۶ بجے سے ۷ بجے کے درمیان لکھ کر آسیب زدہ کے گلے میں باندھے۔ یہ نقش ناداعلی ہے۔ جس شخص کے بازو میں یا پکڑی وٹوپی میں یہ نقش کرم بندھا ہوگا اس شخص دیکھے گا وہی محب و مشفق اور دوست ہو گا وہ نقش یہ ہے۔

۱۰۲۳	۱۰۲۷	۱۰۳۰	۱۰۱۷
۱۰۲۹	۱۰۱۸	۱۰۲۳	۱۰۲۸
۱۰۱۹	۱۰۳۲	۱۰۲۵	۱۰۲۲
۱۰۲۶	۱۰۲۱	۱۰۲۰	۱۰۳۱

يَا أَللّٰهُ يَا أَللّٰهُ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

نقش یہ ہے۔

حافظ	حفیظ	وکیل	رقیب	برائے دفع آسیب
۳۱۳	۶۵	۹۹۰	۹۹۷	يَا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ
۶۲	۳۱۰	۱۰۰۰	۹۹۱	يَا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ
۹۹۹	۹۹۲	۶۳	۳۱۱	يَا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ

يَا اللّٰهُ ۲۳	يَا اللّٰهُ ۱۸	يَا اللّٰهُ ۲۵	يَا اللّٰهُ ۲۴
يَا اللّٰهُ ۲۲	يَا اللّٰهُ ۲۰	يَا اللّٰهُ ۲۰	يَا اللّٰهُ ۲۲
يَا اللّٰهُ ۱۹	يَا اللّٰهُ ۲۱	يَا اللّٰهُ ۲۱	يَا اللّٰهُ ۲۰

### برائے دفع آسیب

اگر عامل کے پاس کوئی آسیب زدہ یا سحر زدہ یا مسان زدہ یا کسی بھی مرض میں بتلا کوئی شخص آئے تو اس نقش کو لکھ کر دریا کے پانی میں یا کنوں کے پانی میں پکا کر یا اس کے پانی میں ہی پکا کر غسل کرائے۔ ان شاء اللہ مریض شفائے کامل اور سخت عاجل پاوے۔ بروز جمعہ، جمعرات، سوموار یا اتوار کو لکھ کر تیار کر کے رکھے اور نقش کی پشت یہ لکھے۔

أَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا رُوْقَيَا ئِيلٍ

و نقش یہ ہے۔

### برائے دفع آسیب

اگر کوئی شخص خفت آزار میں بنتا ہو تو اس نقش کو بروز جمعرات صبح اذان و جماعت کے درمیان لکھے اور بوقت ضرورت یہ نقش آسیب زدہ کو دیوے کے وہ نقش کو دیکھ کر سووے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آسیب دفع ہو گا اور مکمل طریق سے اثرات کے بارے میں آگاہی ہو گی۔

برب ہے نقش مندرجہ ذیل ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ  
اللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ لَا إِلٰهَ إِلَّا إِلٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ

### برائے دفع آسیب

اگر کسی آسیب زدہ شخص پر آسیب حاضر کرنا مقصود ہو تو اس نقش کو لکھ کر آسیب زدہ کی پیشانی پر چپ کا دیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آسیب حاضر ہو گا۔ اور اگر دفع کرنا مقصود ہو تو کام میں باندھیں ان شاء اللہ آسیب دفع ہو گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

حافظ	حفیظ	وکیل	رقیب	برائے دفع آسیب
۳۵۲	۳۳۰	۳۵۱	۹۹۰	۳۳۹
۹۹۶	۳۳۹	۹۹۷	۹۹۰	۹۹۱
۹۹۲	۳۳۹	۹۹۵	۹۹۲	نَصِيرٌ

۳۰۹۱۹	۳۰۹۲۳	۳۰۹۱۷
۳۰۹۱۸	۳۰۹۲۰	۳۰۹۲۲
۳۰۹۲۳	۳۰۹۱۶	۳۰۹۲۱

### برائے دفع آسیب

اگر کوئی مریض آسیب میں مبتلا ہو یا سحر سفلی و علوی کا شکار ہو یا کوئی گندی پلیدش نے پکڑ رکھا ہو تو اس نقش کو لکھ کر پانی میں پکا کر مریض کو سات روز یا کیس یا چالیس روز غسل کرائے۔ ان شاء اللہ صحستیاب ہوگا۔ اور ہر عمل سے چھٹکارا ملے گا۔ اگر کسی دو کان میں یا مکان میں جنات و خوبیات یا سحر سفلی و علوی کا شاپے ہو یا کسی بھی قسم کی نجاست ہو تو اس نقش کو لکھ کر پانی میں پکا کر پورے مکان یا دکان میں چھیننے مارے کونول اور دروازوں میں چھڑ کے ان شاء اللہ تعالیٰ جنات و سحر سفلی و علوی و نجاست ہر قسم دور ہوگی۔ مجبوب ہے۔

۷۸۶

۸	۲	۱۰
۹	۷	۲
۳	۱۱	۵
۲۵۳		

### برائے دفع آسیب

اگر کسی مکان میں آسیب اینٹیس پھینکتا ہو یا کپڑوں میں آگ لگاتا ہو یا کپڑے کا تباہ ہو کسی لڑکی یا لڑکے کے بال کا تباہ ہو یا جسم پر ناخن جیسی ضرب مارتا ہو یا قم چراتا ہو یا کسی ایسا مان غائب کر دیتا ہو یا کپڑوں کو بستر و کھانے پینے کی چیزوں کو گندہ کر دیتا ہو یا کسی عورت سے نیم غفتہ میں یا مکمل غیند کی حالت میں ہبستر ہوتا ہو یا کوئی اجنبیہ کسی مرد سے رات کو سوتے میں ہبستر ہوتی ہو تو ان سب حالتوں میں اس نقش کو کام میں لا کیں ان شاء اللہ فائدہ ہو گا۔ اور ہر قسم کے آسیب و جنات سے مریض کو چھٹکارا نصیب ہو گا۔ اور صحبت کامل اور خفایے عاجله نصیب ہو گی۔ مجبوب ہے۔ اس نقش کو بروز ہفتہ یا جمعرات لکھ کر بوقت صبح ۹:۴۸ بجے کے درمیان تیار کر کے رکھے۔ ایک نقش مریض کے گلے میں باندھے اور سات نقش ایک روپ زبانی میں دھو کر صبح، دو پہر، شام پلاۓ اور سات عدد رکھے اور ایک روپ زبانی میں پکا کر مریض کو نہلاۓ اور مکان کی چھست میں لٹکائے یا صندوق میں رکھے اور ایک روپ زبانی میں پکا کر پورے مکان میں چھڑ کے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آسیب زدہ محفوظ مامون رہے گا۔

۷۸۶

دی	ع	۲۱ مار	ف
ے	ک	ل	ف
ق	م	و	ک
بدو	بدو	ی	۱۵

## برائے دفع آسیب

اگر کسی شخص کو کوئی آسیب بری طرح لگ کرتا ہو اور کسی صورت باز نہ آتا ہو تو ان آیت و عزیمت کو لکھ کر آسیب زدہ کے گلے میں باندھے ان شاء اللہ تعالیٰ آسیب و جن دفع ہو گا۔ اور مریض محفوظ و سلامت رہے گا۔ وہ عزیمت یہ ہے۔

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطَقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ . فَوَقَعَ الْحُقْقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمْ بِسَاطَلَبُوا فَهُمْ لَا يَنْتَظِرُونَ حَمَ عَسْقَ حُمِينَ كَهْبِيَعْصَ كُفِيَّتُ عَقْدُتُ عَنْكَ يَا حَامِلَ كِتَابِيْ هَذَا السَّنَةُ الْخَلَقُ الْمُبَشِّرِيْنَ كُلُّ أُنْثَى وَذَكَرٌ بِالْفِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ . وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْهَ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا قَرَأَتِ الْقُرْآنَ جَعَلَنَا بَيِّنَكَ وَبَيِّنَ النَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُوْرًا . وَجَعَلَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوْهُ وَفِي أَذَانِهِمْ وَقَرَأْ وَإِذَا ذَكَرَتْ رَبِّكَ فِي الْقُرْآنَ وَحْدَةً وَلَوْ أَعْلَى أَذْبَارِهِمْ وَزَادَهُمْ نُفُورًا .**

## برائے دفع آسیب

اگر کسی شخص کو آسیب یا جن ستاتا ہوتا ان آیات کوے مرتبہ پڑھ کر پانی پردم کر کے من و شام پلاۓ یا چینی کی پلیٹ میں لکھ کر صبح و شام تھوڑا سا شہد ڈال کر مریض کو پلاکیں۔ ان شاء اللہ آسیب و جن دفع ہو گا وہ آیات یہ ہیں۔

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَيْمَنِهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ**

جاداً ورجنات سے مکمل شرطیہ نجات  
آحدَ عَشَرَ كَوْكِبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَجَدَيْنَ يَا مَغْفِرَةً  
الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفَدِدُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَ  
الْأَرْضِ فَانْفَدِدُوا لَا تَنْفَدِدُونَ إِلَّا إِسْلَطْنَ فَيَا يَاهُ رَبِّكَمَا تَكْنِيْنِ

## برائے دفع آسیب و جن پری

اگر کسی شخص کو کوئی جن، آسیب یا پری ستائی ہو اور کسی صورت بھی چھکارے کی راہ سے  
نکلنی ہو تو سورہ مزم شریف پڑھے۔ بعد نماز فجر یا بعد نماز عصر متواتر میں روز تک پڑھ  
کر پری زدہ پردم کرے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ صحت کاملہ پاوے۔ آسیب زدہ کیلئے بعد نماز  
فجر یا بعد نماز عشاء ایک مرتبہ سورہ مزم شریف ترکیب مذکورہ کے ساتھ پڑھ کر دم کرے۔  
ان شاء اللہ تعالیٰ شفائے عاجله پاوے۔ اور دیگر اثرات کو ختم کرنے کے لئے کسی بھی وقت  
پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک ایک بوتل پانی پردم کرے دیوے تاکہ اس میں سے صبح  
شام مریض پیوے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ صحت کاملہ پاوے۔ مجبوب ہے۔ وہ ترکیب یہ ہے۔  
سورہ مزم شریف میں وطا کی تکرار ۹ مرتبہ کرے اور وکیلہ کی تکرار ۹ مرتبہ کرے۔ اور  
چینیاً کو چالیس مرتبہ پڑھے۔ اور وَاللَّهِ يُقْدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ کی تکرار ۹ مرتبہ  
کرے اور وَالْأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَدْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تِيْنَ مرتبہ  
پڑھے۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ تِيْنَ مرتبہ پڑھے۔ اور انَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ تِيْنَ مرتبہ پڑھ  
کر دم کرے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ شفائے کامل پاوے۔

## فتیلہ برائے دفع آسیب و جنات

اگر کسی جن کو جلانا مقصود ہو تو عامل کو چاہیے کہ بروز ہفتہ بوقت ۸ تا ۹ بجے کے  
درمیان ایک فتیلہ لکھ کر تیار کئے اور بوقت ضرورت کام میں لائے۔

سوختن جملہ دیویان و پریان و کفتاران و جوگیان  
و شریان و خبیثات آنچہ در وجود مزاحمت بدھد بسوزد  
و خاکستر گردد بحرمت علیقاً ملیقاً طلیقاً انت تعلم  
ما فی قلوبہم ما فی انفسہم علیقاً ملیقاً طلیقاً ما فی  
قلوبہم وما فی انفسہم ملیقاً طلیقاً علیقاً انت هربلا در  
وجود فلاں بن فلاں باشد سوختن فتیله در آمدہ در چراغ  
حاضر شوداً گر در نگ نه باید سوزد و خاکستر گردد.

جب کسی مرض کے سر پر جن حاضر ہو یا کسی مرض پر حاضر کیا گیا ہو اور اس  
کو جلانا ہو تو اس فتیلہ کو جلا کر و برمیں کر کے اور عامل خود اس عزیمت کو پڑھتا رہے ان  
شاء اللہ تعالیٰ سخت سخت جن آسیب جل کر خاک ہو گا۔ مجب ہے وہ عزیمت یہ ہے۔

عَلَيْقَا مَلِيقًا طَلِيقًا أَنْتَ تَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مَا فِي أَنفُسِهِمْ

## برائے دفع آسیب و جنات و بلیات

یہ عزیمت حضرت سعید بن میبؓ سے روایت ہے اور یہ حفاظت کی کنجی ہے۔  
اگر کوئی عامل اس دعا کاہمیشہ بعد نماز فجر و مغرب ۳۔ ۳ مرتبہ پڑھے۔ اول آخر ۱۱۔ ام رتبہ  
درود شریف پڑھے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آسیب و جن کے گزند سے محفوظ و مامون رہے۔  
اور سحر سفلی و علوی کے حملے سے مامون رہے اور ہر قسم کی بلیات و آفات ارضی و سماوی سے  
گہانی و ناگہانی سے محفوظ و مامون رہے۔ اور اگر اس کی زکوٰۃ ادا کرے تو وہ عزیمت مندرجہ  
ذیل کا عامل ہو گا۔ اگر کسی آسیب زدہ کو لکھ کر دیں ایک باندھے اور چند تعویذ پلانے کیلئے  
دیں ان شاء اللہ تعالیٰ عرصہ سات روز میں صحیح تیاب ہو وے اگر کسی سحر سفلی و علوی میں بتلا  
شخص کو ایک تعویذ باندھے اور چند تعویذ پلانے یعنی عرصہ اکیس روز تو مکمل شفا پائے۔ اگر لکھ

جاداً وَ جَنَّاتٍ مُكَمِّلٍ شَرْطِيَّةِ جَنَّاتٍ

کر کسی مکان میں بیکانے کے واسطے دے تو اس مکان میں آسیب کا گزرنہ ہو گا۔ اور نہ ہی  
کسی قسم کا سحر سفلی و علوی حرہ کا میا ب ہو گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ مکان میں خوشحالی  
اور خیر و سلامتی اور برکت کا دور دورہ ہو گا۔ کسی بھی مرض والے کو ایک تعویذ گلے میں باندھنے  
کے واسطے اور چند تعویذ پلانے کے لیے دیں ان شاء اللہ تعالیٰ شفایے کامل پاوے گا۔ اگر  
اس تعویذ کو باندھ کر کسی بادشاہ کسی امیر، وزیر یا کسی حاکم کے پاس جاوے تو وہ بادشاہ،  
امیر، وزیر اور حاکم کمال مہربانی سے پیش آوے اور مقصد برآری ہو گی۔ اگر کوئی  
ما فر سفر میں باندھ کر جائے ان شاء اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون سفر سے بخیر و سلامت واپس  
آئے۔ اگر کشتی یا جہاز میں باندھے یا لٹکائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہر قسم کے خطرات سے  
محفوظ رہے اور اگر کسی بیہو ش مریض کو پلاٹ فوراً ہو ش آئے اور وجہ بیہو شی رفع ہو۔ مقدمہ  
کی کامیابی کیلئے اس عزیمت کو بروز جمعرات لکھ کر داہنے بازو پر باندھ کر جائے ان شاء اللہ  
تعالیٰ مقدمہ میں کامیابی ہو اور حاکم مدگار ہو وے اور مختلف زیر ہو جائے۔ اگر کسی شخص کی  
نوكری چھوٹ گئی ہو اور مالک کسی صورت بھی بلانے کو تیار نہ ہو تو اس عزیمت کو بروز سوموار  
لکھ کر داہنے بازو میں باندھے ان شاء اللہ تعالیٰ چند روز میں نوکری دوبار لگ جائے گی۔  
اگر کوئی شخص قرض داری میں بیٹلا ہو وے تو اس عزیمت کو عروج ماہ میں ۲۱ مرتبہ بعد نماز  
عشاء پڑھے اول آخر ۷۔ ۷ مرتبہ درود شریف پڑھے ان شاء اللہ تعالیٰ غائبانہ مدد حاصل  
ہو گی۔ اور قرضداری سے سبد و شی حاصل ہو گی۔ ترکیب زکوٰۃ یہ ہے۔ کہ عروج ماہ میں بروز  
یکشنبہ بعد نماز عشاء شروع کرے اول آخر درود شریف ۱۱۔ ۱۱ مرتبہ اور در میان میان میں ۱۲۵  
مرتبہ روزانہ متواتر چالیس روز تک عزیمت پڑھے۔ چالیس روز ایصال ثواب کرے  
اور شیرینی تقسیم کرے۔ ان شاء اللہ زکوٰۃ ادا ہو گی۔ وہ عزیمت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كُلُّ ذِي الْمُلْكِ مَمْلُوكُ اللَّهِ  
وَكُلُّ ذِي عَزَّ فَغَالِبُهُ اللَّهُ وَكُلُّ ذِي قُوَّةٍ فَضَعِيفُ عِنْدَ اللَّهِ وَكُلُّ

پلائے۔ سات روز تک ان شاء اللہ افاقت ہو گا اور اگر سحر زدہ کو ایسے بھی سات روز تک پلائے تو ایک تعویذ گئی میں باندھے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ صحت کامل پائے۔ عزیت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ أَذْنَ لَكُمْ أَمْرَهُ عَلَى اللَّهِ تَفَتَّوْنَ

### برائے دفع آسیب و جنات

اگر کسی مکان میں آسیب، جن یا سحر سفلی و علوی ہو تو بروز سوموار یا بدھ، جمعرات یا جمعہ کو صاف کاغذ پر خوش خط لکھ کر مکان کی دیوار پر لگائے اور ۲۴ مرتبہ اصحاب کہف کے ناموں کو پڑھ کر دم کرے، پانی پر اور مکان میں اس پانی سے چھینٹے دیوے ان شاء اللہ مکان ہر قسم کے آسیب و جنات، دیو، پری وغیرہ کے اثر سے محفوظ و سلامت رہے گر اور مکان میں خوش حالی اور خیر و برکت ہو گی۔ وہ اسماء اصحاب کہف یہ ہیں۔

يَتَلَيْخَا مَكْسُلُمِينَا كَشْفُوطَ أَذْرَ قَظِيْوَنَسْ تَبَيِّوْنَسْ  
بُوَالَّسْ بُوْسْ كَلْبُهُمْ قِطْمِيْرُ وَعَلَى اللَّهِ قَضَدُ السَّبِيلِ  
وَمِنْ حَلْجَادُو مَا شَاءَ لَهَدَا كُمْ أَجْمَعِينَ

### برائے دفع آسیب

### و خا کستر کردن جنات

اگر کوئی عامل کسی جن کو کئی دفعہ حاضر کر چکا ہو اور وعدے لے چکا ہو لیکن وہ جن یا آسیب پھر بھی بازنہ آتا ہو تو اس نقش کو لکھ کر فتیلہ بنایا کر چراغ نو میں رکھ کر جلائے اور فتیلہ کے نیچے مریض کا نام مع والدہ کے لکھے اور مریض کو رو بربھائے اور فتیلہ جلائے اور عامل خود آیتہ الکری پڑھتا رہے اور **وَلَا يَؤْدُهُ حِفْظُهُمَا** کی تکرار کرتا رہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آسیب جل جائے گا۔

۱۳	۱	۸	۱۱
۷	۹	۱۲	۲
۶	۳	۱۳	۱۶
۳	۱۵	۱۰	۵

مریض کا نام فلان بن فلانہ

### برائے دفع آسیب و جنات

عامل اس نقش کو بروز جمعہ لکھ کر رکھے ایک مریض کے گلے میں باندھے اور سات روز تک ایک تعویذ روز پانی میں گھول کر یعنی دھو کر صحیح سے شام تک پلائے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ہر قسم کے آسیب و جنات سے محفوظ و مامون رہے۔

۷۸۶

۱۵۵۸	۱۵۶۱	۱۵۶۵	۱۵۵۱
۱۵۶۳	۱۵۵۲	۱۵۵۷	۱۵۶۲
۱۵۵۳	۱۵۶۷	۱۵۵۹	۱۵۵۶
۱۵۶۰	۱۵۵۵	۱۵۵۳	۱۵۶۶

۷۸۶

۱۷۹۵	۱۷۹۸	۱۸۰۱	۱۷۸۷
۱۸۰۰	۱۷۸۸	۱۷۹۳	۱۷۹۹
۱۷۸۹	۱۸۰۳	۱۷۹۶	۱۷۹۳
۱۷۹۷	۱۷۹۲	۱۷۹۰	۱۸۰۲

یا اللہ ہر قسم کے آسیب و جنات دور شود

### برائے دفع آسیب

اس نقش کو لکھ کر آسیب زدہ کے گلے میں باندھیں اور سات روز تک پلا کیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ صحت یابی ہوگی۔ مجبوب ہے۔

۷۸۶

۷۳	۶۶	۱۷
۲۸	۷۰	۷۲
۶۹	۷۳	۶۷

### برائے دفع آسیب و جن و دیو

اگر کسی شخص کو آسیب ستاتا ہو یا جن مختلف قسم کی تکالیف پہنچاتا ہو تو اس نقش کو لکھ کر رکھ۔ ایک نقش گلے میں باندھے اور سات روز تک ایک نقش روز پانی میں دھو کر صبح شام تک پلا کئے ان شاء اللہ تعالیٰ صحت کامل ہوگی۔

۷۸۶

۸	۳۹۹۹۳	۳۹۹۹۶	۱
۳۹۹۹۵	۲	۷	۳۹۹۹۲
۳	۳۹۹۹۸	۳۹۹۹۱	۶
۳۹۹۹۲	۵	۳	۳۹۹۹۷

### برائے دفع جن و آسیب

اگر کسی شخص کو کوئی سخت آسیب آزار پہنچاتا ہو تو اس نقش کو لکھ کر کام میں لا کیں۔ ایک نقش گلے میں باندھیں اور ایک نقش روز مسلسل ۲۱ روز تک پانی میں دھو کر پلا کیں اور ۲۲ روز تک روز صبح و شام ایک تعویذ آسیب زدہ کے تمام بدن پر مل کر آگ میں جلا کیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ صحت ہو۔ اور آسیب دور و دفع ہو۔ نقش اگلے صفحے پر ہے۔

## برائے دفع جن و آسیب

آسیب زدہ کے واسطے ایک نقش لکھ کر گلے میں باندھے اور ایک نقش پانی کی بوتل میں ڈال کر چالیس روز تک اس بوتل کے پانی کو آسیب زدہ کو پلاٹے۔ اور ایک نقش سرسری کے تیل میں ڈال کر رکھیں اور آسیب زدہ کے بدن پر ماش کرائیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ صاحب کامل ہوگی۔ اور شفائے عاجل حاصل ہوگی۔ یہ نقش مکمل اعداد قرآن شریف کا ہے (۲۳۳۰۲۸۹۳) یہ نقش مرتع ہے۔

۷۸۶

۶۱۰۱۲۲۳	۶۱۰۱۲۲۶	۶۱۰۱۲۲۹	۶۱۰۱۲۱۵
۶۱۰۱۲۲۸	۶۱۰۱۲۱۶	۶۱۰۱۲۲۲	۶۱۰۱۲۲
۶۱۰۱۲۱۷	۶۱۰۱۲۳۱	۶۱۰۱۲۲۳	۶۱۰۱۲۲۱
۶۱۰۱۲۲۵	۶۱۰۱۲۲۰	۶۱۰۱۲۱۸	۶۱۰۱۲۳۰

یا اللہ آسیب و جنات خبیثات کفتار ان کلبیان دور شود  
دوسری نقش مثلث ہے۔ جو اگلے صفحہ پر ہے۔

۷۸۶

۸۱۳۳۹۶۵	۸۱۳۳۹۶۰	۸۱۳۳۹۶۸
۸۱۳۳۹۶۷	۸۱۳۳۹۶۳	۸۱۳۳۹۶۲
۸۱۳۳۹۶۱	۸۱۳۳۹۶۹	۸۱۳۳۹۶۳

یا اللہ آسیب و جنات خبیثات کلبیان جو گیان دور شود  
ذکورہ نقوش بہت ہی خواص رکھتے ہیں۔ اگر پورے خواص لکھتے جائیں تو انہی دو نقوش کیلئے پوری کتاب بھی کم ہے۔ تاہم مختصرًا کچھ خواص تحریر کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ یہ نقاش کیلئے پوری کتاب بخیہ ہے۔ ہر مطلب و مقصد کا انجام بخیر ہو۔ آسیب وغیرہ کے علاوہ سحر زدہ کو ہر حاجت کی بخیہ ہے۔ جسم پر مل کر آگ میں جلا یا جائے اور تیل میں ڈال کر بدن کی ماش کرائی چلایا جائے۔ جسم پر مل کر آگ میں جلا یا جائے اور تیل میں ڈال کر بدن کی ماش کرائی جائے۔ ان شاء اللہ سحر زدہ صحت کامل پائے، ہر مصیبت زدہ، مصیبت سے چھٹکارے کیلئے دابنے بازو میں باندھے۔ ان شاء اللہ سخت سے سخت مصیبت سے جلد چھٹکارا چاوے۔ در دسر، در دپھلو، در دکمر، در د جگر، در د سینہ، در د بازو، در د ٹانگ، اور عرق الناس چاوے۔ در د کی جگہ باندھیں۔ ان شاء اللہ ہر قسم کے درد سے نجات حاصل ہووے۔ بخار، تپ میں در د کی جگہ باندھیں۔ ان شاء اللہ ہر قسم کے درد سے نجات حاصل ہووے۔

ازہ، سر سام، والے کے گلے میں باندھیں اور شہد سے دھوکر چٹائیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ شفائے کامل پاوے۔ در د شکم، در د کلیجہ، در د گردہ، در د مشانہ، در د قونچ، در د کمر، در د ناف میں ایک نقش درد کے مقام پر باندھیں اور ایک نقش پانی میں دھوکر کھلیں تھوڑا تھوڑا تین روز تک پلاٹیں۔ ان شاء اللہ صحت کامل ہوگی۔ دونوں نقوش کی ایک سی خوبیات ہیں۔ ظالم حاکم، امیر متكبر، یا منصف متعصب سے کوئی مقصد ہو تو اس نقش کو بروز پختنیہ بعد نماز،

چاشت لکھ کر عطر لگا کر موم جامد کر کے لو باں یا صندل کی دھونی دے کر دابنے بازوں پر  
ٹوپی میں رکھ کر قائم حاکم، امیر متکبر و منصف متعصب کے رو برو جائے۔ ان شاء اللہ تھامہ زم  
زمن گفتاری سے پیش آئے۔ اور مقصد و مطلب انجام کا رپورٹ ہوئے۔ اور مقدمہ کی کامیابی  
کے لیے نقش کے نیچے مدعا علیہ کے نام مع ماں کے نام کے لکھے اور مقدمہ نمبر اور نام  
کا نام لکھے اور دابنے بازو پر باندھ کر جائے۔ ان شاء اللہ کا میابی ہوگی۔ ترکیب یہ ہے۔  
”یا الہی مدعا علیہ فلاں بن فلاں مقدمہ نمبر فلاں میں حاکم فلاں  
بطرف فلاں مد فرم اور فلاں کو مقدمہ میں کا میابی عطا فرم۔“

مذکورہ بالاعبارت نقش کے نیچے لکھے۔ اگر کسی کی نوکری چھٹ گئی ہو تو نقش کے نیچے  
اعبارت لکھے۔ ”یا اللہ فلاں بن فلاں کی نوکری بحال فرم اغلاں حاکم کو مسخر و مہربان فرمائو  
دابنے بازو میں باندھ کر رو برا حاکم کے جائے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ نوکری بحال ہوگی۔ کوئی بھی  
دنیا و ما فیہا کی پریشانی ہوا سکو نقش کے نیچے عبارت میں لکھ دے۔ مجرب و آزمودہ ہے۔“

### برائے دفعِ جن و آسیب

اس نقش کو لکھ کر آسیب زدہ کے تمام بدن پر مل کر آگ میں جائے۔ صبح شام اکثر  
روز تک۔ ان شاء اللہ صحبت کامل حاصل ہوگی۔ مجرب ہے۔ آزمودہ ہے۔

۷۸۶

۸	۲	۱۰
۹	۷	۳
۳	۱۱	۶

### برائے دفعِ جن و آسیب

اگر کسی شخص کو آسمی عارضہ ہو وہ تو صبح و شام بعد نماز فجر و مغرب ایک ایک مرتبہ  
دورہ احافاف کر پانی پر دم کر کے پیے۔ یا کوئی عامل یا حافظ پڑھ کر دم کر کے پڑھے اور  
ایک نقش لکھ کر گلے میں باندھے اور چند نقوش لکھ کر پانی میں دھو کر پڑھے۔ مسلسل اکیس روز  
کی ایک نقش روز پڑھے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ صحبت کامل اور شفائے عاجل حاصل ہوگی۔  
مجرب و آزمودہ ہے۔

۷۸۶

۲۸۳۸۲۲	۲۸۳۸۲۵	۲۸۳۸۲۹	۲۸۳۸۱۵
۲۸۳۸۲۸	۲۸۳۸۱۲	۲۸۳۸۲۱	۲۸۳۸۲۶
۲۸۳۸۱۷	۲۸۳۸۳۱	۲۸۳۸۲۳	۲۸۳۸۲۰
۲۸۳۸۲۳	۲۸۳۸۱۹	۲۸۳۸۱۸	۲۸۳۸۳۰

یا اللہ ہر آفات و بلیات (ارضی و سماوی) سے محفوظ رکھ

### برائے دفعِ جن و آسیب

اگر کسی شخص کو سخت آسیب سے واسطہ چڑا ہو، اور کسی صورت چھکارانہ ہو تو اس نقش  
دورہ احافاف کو لکھ کر آسیب زدہ کے گلے میں باندھے۔ اور ایک نقش روز متواتر سات روز  
تک پڑھے۔ پانی میں دھو کر صبح سے شام تک۔ ان شاء اللہ صحبت کامل ہوگی۔ مجرب ہے۔

۷۸۶

۱۸۲۳۳	۱۸۲۳۶	۱۸۲۳۹	۱۸۲۳۶
۱۸۲۳۸	۱۸۲۳۷	۱۸۲۳۲	۱۸۲۳۷
۱۸۲۳۸	۱۸۲۵۱	۱۸۲۳۳	۱۸۲۳۱
۱۸۲۳۵	۱۸۲۳۰	۱۸۲۳۹	۱۸۲۵۰

یا اللہ جمع آسیب و جنات کو دور فرما

### برائے دفعِ جن و آسیب

آسیب زدہ کے واسطے ان آیات کو لکھ کر ایک تعویذ بنا کر گلے میں باندھے اور رات تعویذ لکھ کر سات روز تک ایک تعویذ کا پانی پلاۓ یا سات مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلاۓ، سات روز تک ان شاء اللہ آسیب زدہ کو صحت کامل حاصل ہو۔ وہ آیات یہ ہیں۔

إذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِي إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالْقَمَسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سِجِّينَ ۝ يَمْعَثِرُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِّي اسْتَطَعْتُهُمْ أَنْ تَنْفَذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفَذُوا إِلَّا تَنْفَذُونَ إِلَّا إِسْلَظِنِ .

### برائے دفعِ جن و آسیب

نقش سکر مبھی آسیب زدہ کے واسطے ہے۔ اس کو لکھ کر مووم جامدہ کر کے لوہا کی دھونی دے کر آسیب زدہ کے گلے میں باندھے اور سات نقش لکھ کر سات روز تک پانی میں دھون کر

باب: ۲

۷۸۶

۸	۱۸۲۵۲۹	۱۸۲۵۳۵	۱
۱۸۲۵۳۳	۲	۷	۱۸۲۵۳۱
۳	۱۸۲۵۳۹	۱۸۲۵۲۵	۲
۱۸۲۵۲۷	۵	۳	۱۸۲۵۳۷

یا اللہ جمع آسیب و جنات سے محفوظ فرمایا

### برائے دفعِ جن و آسیب

آسیب زدہ کے واسطے یہ فتیلہ بھی پرتا شیر اور زدہ اثر ہے۔ اس فتیلہ کو لکھ کر نیلا دھاگہ لپٹ کر بھی بنا کر چراغ میں سرسوں کا تسلیل ڈال کر جلانے اور مریض کو بھائے یا آسیب زدہ اور حمزہ زدہ کو سنجھائے ان شاء اللہ جو بھی آسیب و جن آزار پہنچاتا ہو گا جل کر خاکستر ہو گا۔ مجرب و آزمودہ ہے۔

۷۸۶

شداد	فرعون	ابليس	ہامان
نمرود	ابليس	ہامان	شداد
لعین	ابليس	نمرود	شداد
ابليس	shedad	نمرود	لعین

## برائے دفع آسیب و جنات

نقش لکھ کر آسیب زدہ کے گلے میں باندھے۔ اور ایکس نقش اکیس روز تک پلاۓ  
ان شاء اللہ صحت کامل ہوگی۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۲

۱۶۵۸	۱۶۶۱	۱۶۶۳	۱۶۵۱
۱۶۶۲	۱۶۵۲	۱۶۵۷	۱۶۶۴
۱۶۵۳	۱۶۶۶	۱۶۵۹	۱۶۵۶
۱۶۶۰	۱۶۵۵	۱۶۵۳	۱۶۶۵

یا اللہ ہر قسم کے آسیب و جنات سے محفوظ فرمایا۔

## برائے دفع جن و آسیب

یہ نقش بھی آسیب زدہ کے واسطے زد اثر تاثیر کرتا ہے ایک عدد گلے میں باندھے۔  
اور ایکس نقش اکیس روز تک پلاۓ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ سخت سے سخت آسیب و جنات دفع  
ہوگا۔ ورنہ مذکورہ نقش کا فتیلہ بنائے اور جراغ میں جلائے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ جل کر خاک ہوگا۔  
فتیلہ جلاتے وقت چھل قاف کا اور در کے اور مریض فتیلہ پر زگاہ رکھے اور مذکورہ نقش کو خوش خط  
لکھ کر مکان کے اندر دیوار پر سامنے لگائے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ مکان و دوکان بھی برے

جادو اور جنات کے اثر سے محفوظ رہیں۔ مجرب و آزمودہ ہے۔  
اڑات اور آسیب و جنات کے اثر سے محفوظ رہیں۔ مجرب و آزمودہ ہے۔

۷۸۲

۹۹۱۶	۹۹۱۹	۹۹۲۲	۹۹۰۹
۹۹۲۱	۹۹۱۰	۹۹۱۵	۹۹۲۰
۹۹۱۱	۹۹۲۳	۹۹۱۷	۹۹۱۲
۹۹۱۸	۹۹۱۳	۹۹۱۲	۹۹۲۳

یا اللہ جمیع آسیب و جنات سے محفوظ فرمایا۔

## برائے دفع آسیب و جن و نظر کفتران

اگر کسی شخص کو آسیب یا جنات خوبیات و جوگیاں و کفتران و بیان و عفریت  
نظر کفتران کا خلل ہو تو اس نقش کو لکھ کر مریض کے سامنے دیوار پر لٹکائیں تاکہ مریض کی  
نظر اس نقش پر پڑتی رہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ نظر کفتران و آسیب و جنات کا اثر زائل ہوگا۔  
اور مریض صحتیاب ہو گا مجرب ہے۔

۷۸۲

ابا بکر	عم
نعبد اللہ اشر اہیا ایا ک نعبد	ن
ن	ن
ن	ن
ن	ن

## برائے دفع آسیب و جنات

اگر کوئی آسیب زدہ شخص کسی صورت اور کسی ترکیب سے ہوش میں نہ آ رہا ہو تو اس عزیمت مندرجہ ذیل کو لکھ کر گلے میں باندھیں اور سات مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلاں کر اور تحوزہ اپنی آسیب زدہ کے منہ پر لیں اور ایک دو قطرہ بھی حق سے نیچے اگر اتر جائے گا تو ان شَاء اللہُ الْعَلِيُّ الْعَالِيُّ الفُور آسیب زدہ کو ہوش آجائے گا۔ مجبوب ہے۔ وہ عزیمت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَزَّمْتُ عَلَيْكُمْ بِرَبِّ جِبْرِيلَ  
مَيْنَكَايْنَ إِنْرَافِيلَ عَزْرَائِيلَ أَمْنَحْتَالَذِيْ جَعَلَ الْعَرْشَ عَزَّمْتَ  
عَلَيْكُمْ بِالَّذِيْ أَجَابَ أَذَهَبَ لَهُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَأَيَّدَنَاهُ بِرُوحِ  
الْقُدُسِ وَأَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِعَاتِمِ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاؤَدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ  
الَّذِي سَعَرَلَهُ الرِّيَاحُ وَالْجِنَّ وَالشَّيَاطِينَ سَرِيعًا۔

## برائے دفع آسیب و جنات

اگر کسی شخص کو آسیب و جنات کا خلل ہو تو اس نقش کو لکھ کر بروز سو مو ارتیار کر کے رکھ اور آسیب زدہ کے گلے میں باندھے۔ اگر کسی مکان میں آسیب و جنات کا اثر ہو تو اس نقش کو لکھ کر مکان کی دیوار پر لٹکائیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آسیب زدہ مکان محفوظ رہے گا اور آسیب دفع ہوگا۔

یا اللہ	آسیب	وجنات	دور شود
۸	۱۰	۵	۲
۱۳	۳	۶	۹
۲	۱۶	۱۶	۹
۳	۱۰	۱۰	۶
۱۲	۱۳	۱۳	۱۲
۱	۸	۱۱	۱۳
۱۵	۵	۵	۳
۲	۱۰	۱۰	۹
۱۵	۳	۳	۱۵
۱۲	۱۳	۱۳	۱۲
۱	۳	۳	۱

## برائے دفع آسیب و جنات

اگر کوئی شخص آسیب و جنات کا بتایا ہوا ہو تو اس آسیب زدہ کا علاج اس نقش سے کریں۔ ایک نقش گلے میں باندھیں اور ایک نقش روز متواترے اروز تک پلاں کیں اور ایک نقش پا کر رکھیں اور آسیب کے بدن کی ماش صبح و شام کریں متواتر سترہ روز تک ان شاء

جادا و اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
اللہ تعالیٰ آسیب زدہ کوششاے کامل اور صحت عاجل حاصل ہوگی۔ بروز جمعہ تیار کر کے کم لیں۔ مجبوب ہے۔ وہ نقش یہ ہے۔

268

بَاب: ۲۶۸  
اللہ تعالیٰ آسیب زدہ کوششاے کامل اور صحت عاجل حاصل ہوگی۔ بروز جمعہ تیار کر کے کم لیں۔ مجبوب ہے۔ وہ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۲۳	۲۸	۳۱	۱۷
۳۰	۱۸	۲۳	۲۹
۱۹	۳۳	۲۶	۲۲
۲۷	۲۱	۲۰	۳۲

یا اللہ جمیع آسیب و جنات دور شود

### برائے دفع آسیب و جنات

اس نقش کو لکھ کر فتیلہ بنایا کر چراغ میں جلا کیں اور مریض کو سامنے چراغ کے بھائیں۔ آسیب حاضر ہوگا، چاہے جلا کیں یا آزاد کر دیں نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۱۳۶۳۸	۱۳۶۳۳	۱۳۶۳۲
۱۳۶۳۹	۱۳۶۳۷	۱۳۶۳۵
۱۳۶۳۴	۱۳۶۳۱	۱۳۶۳۶

یا اللہ جمیع آسیب و جنات سے محفوظ فرمایا

### برائے دفع آسیب و جنات

اگر کسی مکان میں آسیب و جنات کے اثرات ہوں تو پانچ کیل لوہے کی لیوے اور ہر ایک کیل پر سات سات مرتبہ مندرجہ ذیل عزیمت پڑھ کر دم کرے۔ چار کیلیں مکان کے چاروں کونوں میں گاڑ دیں اور پانچویں کیل صدر دروازے میں گاڑ دیں۔ ان شاء اللہ مکان ہر قسم کے آسیب و جنات و جمیع بلیات و آفات سے محفوظ رہے گا۔ وہ عزیمت یہ ہے۔

بَاب: ۲۶۹

جادا و اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات ۲۶۹

### برائے دفع آسیب و جنات

نقش نمکورہ کو بروز جمعرات لکھ کر رکھے اگر کوئی آسیب زدہ یا جنات کا ستایا ہو باطن نثاران میں بتایا کوئی بچہ چلو اُس کا شکار ہو یا کوئی جو گیان، بھریان، دام اصہیان کے بارپہ میں بتایا ہو تو اس نقش کو لکھ کر مریض کے گلے میں باندھے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ صحت کامل ہو دے۔ مجبوب ہے۔ وہ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۵۲۱۲	۵۲۲۵	۵۲۲۲	۵۲۱۹
۵۲۲۳	۵۲۱۸	۵۲۱۳	۵۲۲۳
۵۲۱۷	۵۲۲۰	۵۲۲۷	۵۲۱۳
۵۲۲۶	۵۲۱۵	۵۲۱۲	۵۲۲۱

یا اللہ جمیع آسیب و جنات سے محفوظ فرمایا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكْيَدْ  
كَيْدًا. فَمَهِلِ الْكُفَّارُ أَمْهَلُهُمْ رُؤْيَا. سَقَدْ سَاقِل  
كَسْتَا يَا تُوْيَا عَلَفْ بِعَقَ سُلَيْمَنْ بُنْ دَاؤَدْ  
عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَلَيْنِقَا مَلِيْقَا طَلِيْقَا أَنْتَ تَعْلَمُ مَا فِي  
قُلُوبِهِمْ.

## برائے دفع آسیب و جنات

اگر کسی مکان میں آسیب و جنات کا یا خبیث و جو گیان و چڑیلان و مژیلان کا سایہ ہو  
یا کسی شخص کو مذکورہ شے ستاتی ہوں تو اس نقش کو لکھ کر بروز جمعرات تیار کر کے رکھ اور  
آسیب زده شخص کے گلے میں باندھے اور آسیب زده مکان کی دیوار پر لٹکائے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آسیب زده بھی اور مکان بھی ہر قسم کی بلیات و آفات سے محفوظ رہے گا۔

۷۸۶

۲	ط	۵۵	ص
عرہ	ع	الہو	م
ھود	ن	مسون	د
د	مسح	مطا	ج

یا اللہ جمیع آسیب و جنات سے محفوظ فرمा

## برائے دفع آسیب و جنات

جس مکان میں اینٹ پتھر آتے ہوں اور اس مکان میں رہنے والے پریشان ہوئے ہوں تو یہ نقش لکھ کر فتیلہ بنا کر مکان میں جلائے متواتر سات روز تک۔ ان شاء اللہ اینٹ و پتھر کا آنا بند ہو گا۔ اور مکان محفوظ و مامون رہے گا۔ اور مکینوں کو کسی قسم کا خطرہ لا جائے گا۔ محرب ہے۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۱	۱۲	۱۱	۸
۱۲	۷	۲	۱۳
۶	۹	۱۶	۳
۱۵	۳	۵	۱۰

یا اللہ جمیع آسیب و جنات دور شود

## برائے دفع آسیب و جنات و خبیث

اگر کسی شخص پر آسیب کا سایہ ہو تو مندرجہ ذیل عزیمت لکھ کر ایک عدد گلے میں باندھے اور دوسرے پندرہ روز تک پلاۓ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ صحت کامل ہو گی۔  
اگر کسی کو سخت آزار، آسیبی و جناتی ہو تو اس عزیمت کو پندرہ مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پندرہ دن تک پلاۓ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ سخت سے سخت آزار سے چھکا را ہو۔ اگر

کسی شخص کا جسم تمام آئیں جو جناتی علت سے جکڑا ہوا ہو تو پندرہ مرتبہ رسول کے تیل پہنچ کر دم کرے اور تمام بدن پر ماش کرے ان شاء اللہ تمام جسم درست ہوگا۔ اور ہر قسم کے درد دور ہوں گے۔

اگر کسی مکان میں آسیب کا، خبیث کا، چڑیل و مژیل کا، دیوکا یا جنات کا اثر ہو تو اس عزیمت کو پندرہ مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مکان کے چاروں کونوں میں صدر دروازے میں حتیٰ کہ پورے مکان میں چھینٹے دیوے ان شاء اللہ تعالیٰ آسیب و جنات کے اثرات یہاں تک کہ سحر سفلی و علوی کے اثرات سے بھی مکان محفوظ رہے گا۔ وہ عزیمت یہ ہے۔

جلیویش مربُوش ازبُوش حبیویش سلمویش مَرْلَهُویش  
میلو مالیس الینیا روما ذریا فردیا یا آہیوں۔

### برائے دفعِ آسیب و جنات

آسیب زدہ کے واسطے اس نقش کو لکھ کر فتیلہ بنائیں اور نیلا دھاگہ لپیٹ کر رسول کے تیل میں ترکر کے آسیب زدہ کو سنگھائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آسیب و جن بھاگ جائے گا اور پھر ن آئے گا اگر جلانا چاہو تو اس فتیلہ کو چرانگ میں جلاو تو جو بھی آسیب یا جن ہوگا وہ حاضر ہوگا اور جل کر خاکستر ہوگا اور ان شاء اللہ تعالیٰ مریض کو صحتِ کامل ہوگی۔ مجبوب ہے۔

۸۶

فرعون	ابليس	ہامان	۱۱۳
ابليس	ہامان	۱۱۳	فرعون
ہامان	فرعون	۱۱۳	ہامان
ابليس	فرعون	ہامان	۱۱۳

### برائے دفعِ آسیب و جنات

اگر کسی شخص کو کوئی جن ستانتا ہو تو اس عزیمت کو لکھ کر چھری پر چپکا میں یا چھری پر لکھ کر یا سات مرتبہ پڑھ کر چھری پر دم کر کے زمین پر مریض کے سامنے سات ضریب مارے۔ اس عزیمت کو پندرہ جن حاضر ہوگا۔ اور دور ہوگا۔ مجبوب ہے۔ وہ عزیمت یہ ہے۔

ان شاء اللہ وہ جن حاضر ہوگا۔

یافتاخ بِالْفَتْحِ وَالْفَتْحِ فِي فَتْحِكَ يَا فَتَّاحَ كَنْ فَيْكُونُ۔

در وجود فلاں بن فلاں حاضر شود

### برائے دفعِ آسیب و جنات

اگر کسی مکان میں آسیب یا جنات کا سایہ ہو یا کسی شخص کو کوئی خبیث آسیب و جن ستانتا ہو اور کوئی چھکارے کی راہ نہ ہو تو اس ترکیب کو کام میں لائے کہ ایک کپڑا پاک صاف کراس کو ہلدی میں رنگے اور چالیس فتیلہ تیار کرے اور ہر فتیلہ پر ۹ مرتبہ اسم اللہ کھیں اور ایک فتیلہ روز جلا سعیں چالیس روز میں ان شاء اللہ تعالیٰ مکان آسیب و جنات کے اثرات سے پاک ہو جائے گا۔ اور آسیب زدہ مریض جس مکان میں سوتا ہو اس مکان میں فتیلہ جائے اور آسیب زدہ چراغ کی لو میں دیکھتا رہے ان شاء اللہ چالیس روز میں مریض کو مکمل صحت و شفاء حاصل ہوگی۔ مجبوب ہے۔

### برائے دفعِ آسیب و جنات و سحر

کسی بھی قسم کا مریض ہو آئیں جو جناتی یا سحر سفلی و علوی کا شکار ہو، سحر کی زد میں ہو یا نونہ ٹونکہ جات میں بنتا ہو یا کسی جسمانی مرض سے دو چار ہو تو یہ تیل ہر قسم کے مریض پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ترکیب یہ ہے کہ رسول کا تیل لے کر اول آخر دور دشیریف لے۔

مرتبہ پڑھے۔ درمیان میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ ناس کو پوری لے۔ یہ مرتبہ پڑھ کر تین مرتبہ دم کرے۔ سورہ ناس میں آخر کا ”س“، ”چھوڑ کر پڑھے۔ یعنی قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّا . مَلِكِ النَّا إِلَهِ النَّا .

ای طرح پوری پڑھے اور مریض کے دونوں بھنلوں پر کان کی پاپڑیوں پر نماز کے نتھنوں پر، اور بیسوں ناخنوں پر اور دل کے مقام پر لگادے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ہر مریض سے ہر آسیب و جنات سے ہر قسم کے سحر سے، ہر قسم کے دردوں سے چھٹکارا ہووے۔ اور مریض کو صحت کا مل شفائے عاجل حاصل ہووے۔ مجبوب ہے۔

## برائے دفع آسیب و جنات

اگر کسی مکان میں کوئی جن یا آسیب اینٹ، پتھر پھینکتا ہو یا کپڑوں میں آگ لگا ہو تو اس نقش کو خوش خط لکھ کر مکان کی اس دیوار پر لگائے جس سے نقش کامنہ کعبہ شریف کی طرز رہے اور بچوں کو شیرینی تقسیم کرے ان شاء اللہ تعالیٰ مکان ہر قسم کے آسیب و جنات و بیلات و آفات سے محفوظ رہے گا۔ مجبوب و آزمودہ ہے۔

۷۸۶

۱۵	۳	۵	۱۰
۶	۹	۱۶	۳
۱۲	۷	۲	۱۳
۱	۱۳	۱۱	۸

محجع

## برائے دفع آسیب و جنات

اگر کوئی شخص گم (بیہوں) ہو اور کسی صورت پتہ نہ لگ رہا ہو کہ اس مریض کو کیا عملت ہے تو اس نقش کو لکھ کر مریض کو دکھلاؤے (چند منٹ تک) اگر آسیب ہو گا تو مریض رونا ڈروع کر دے گا۔ اگر خبیث و گندے اور پلیدی اثرات ہوں گے تو ہنسنا شروع کر دے گا۔ اور اگر جسمانی مرض ہے تو چپ اور خاموش رہے گا۔ یہ جانے کیلئے اس نقش کا نتہیہ بنائے کر جو اس میں جلاوے۔ روئی لپیٹ کر بتی بنائے کر سرسوں کے تیل میں روشن کرے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آسیب چھینے گا، چلائے گا اور روئے گا اور فریادی ہو گا اور دفع ہو گا۔ نقش یہ ہے۔



## برائے دفع آسیب و جنات

جس مکان میں بچہ کی پیدائش کے بارے میں دشواری ہوتی ہو یعنی چھلہ ہونا دشوار کن ہو دے تو اس نقش کو لکھ کر حاملہ کی چار پائی کے سرہانے کی طرف اوپر دیوار پر لگا لیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ بچہ و ماں دونوں نظر بد و آسیب و جو گیان و ثمریان و چڑیاں و کفتار ان

وَام الصَّيَانَ کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ اور چھلے بخیر و عافیت گز رے گا۔ نقشِ مدد و مدد

ذیل ہے۔

### یا جبرایل

۷۸۶

یا میریکا میکل	۱۶۸۳	۱۶۸۶	۱۶۷۲
۱۶۷۹			
۱۶۸۵	۱۶۷۳	۱۶۷۸	۱۶۸۳
۱۶۷۳	۱۶۸۸	۱۶۸۱	۱۶۷۷
۱۶۸۲	۱۶۷۶	۱۶۷۵	۱۶۸۷

### یا اسرائیل

### برائے دفع آسیب و جنات

باب: ۳ مکمل شرطیہ نجات 277  
جادوا وجنتاں سے محفوظ رہیں گے۔ اور چھلے بخیر و عافیت گز رے گا۔ نقشِ مدد و مدد ذیل ہے۔

دوسرا روز ایک ایک نقش کا تعمید بنا کر مکان میں چاروں کونوں میں فن کرے اور پانچواں نقش صدر دروازے میں فن کرے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ہر قسم کے جابر و خالم آسیب و جنات سے وحیثیات سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اور اہل خانہ بفضل ربی کریم محفوظ دامون رہیں گے۔ اور اینٹ، پتھر، آگ گندگی وغیرہ کا مکان میں آنا بند ہو جائے گا۔

مرب و مصدقہ ہے۔ وہ عزیمت جو چراغ کے پاس بینہ کر پڑھی جائے گی یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمُ الَّلَّهُمَّ أَخْرِقْ أَخْرِقْ أَبْرَىءْ ابْنَ مَرْدُودَ وَمَطْرُودَ وَمَلْعُونَ رَأْكَهُ دَرْخَانَهُ فُلَانَ بِنْ فُلَانَ سَنْگَ دُكْلُوخْ وَخِشْتَ مِنْ أَنْدَارَدْ وَبِعَقْ مَا فِي هَذَا النَّقْشِ أَبْجَدْ وَبِعَقْ مُحَمَّدْ مُضَطْفَى وَبِحُرْمَةِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللَّهِ وَبِعَقْ سَلَيْمَنْ بْنَ دَاؤَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِعَقْ عَلَى أَسْدُ اللَّهِ الْفَالِبِ وَبِحُرْمَةِ وَبِعَقْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدَ بْنَ مُحَمَّدَ رَسُولِ اللَّهِ وَبِحُرْمَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنَ آدَمَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ خَوَاصَ وَبِعَقْ خَاتَمُ النَّبِيِّنَ آقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا عَزَّرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا صَاحِبِ النَّارِ وَالنُّوتِ وَالْقَهْرِ وَيَا قَلْمَانِيْمَ وَيَا سَرَاکِنْتَائِيلُ بِعَقْ أَهْظَمَفَتَدَ آقْبِضُ وَآخْرِقُ رَوْحَ کَسے کہ سَنْگَ وَكُلُوخَ مِنْ آنْدَارُدُو آرْنَوْعَ مِنْ آنْجَامَدِ بِحُرْمَةِ صَفَاتِ جَلَالِ وَحَضْرَةِ ذِي الْجَلَالِ وَالْقَهْرِ وَالْقَبْضِ وَالْحَفْصِ وَلَا لَهُ وَبِحُرْمَةِ حُرُوفِ آتِیَشِی وَبُرُوجِ آتِیَشِی وَبِعَقْ سَاعَةِ الزُّخْلِ وَالْمَرِیخِ سُوكَهَ گُرَدَ وَشَكْسَتَهَ شُودَ وَأَسْلَكَ يَا شَدِیدَ الْقُوَیِ يَا شَدِیدَ الْبَطْشِ وَيَا ذَالْبَطْشِ الشَّدِیدِ يَا قَاهِرَ يَا قَهَّاَرَ يَا عَزِيزَ يَا جَبَّاَرَ يَا مَعْكَبِرَ يَا قَابِضَ يَا حَافِضَ يَا مُنْذِلَ يَا كَبِيرَ يَا جَمِيلَ يَا قَوْئَیِ يَا مَتَبِينَ يَا مَمِيَّثَ يَا مُنْتَقَمَ يَا مَقْسِطَ يَا مَانِعَ آنْ تَدْفَعَ وَتَحْرِقَ ایں بد بخت لَعِینَ وَآلَه

سنگ و ٹکوخ و خفت میں آنذازہ ذوق لذائچی رستاں دیتا ڈالجہ  
ڈالجہ لال بیگنیں ملعون رہا ہر بھر محرروقہ مُقْتَدِیٰ تا  
وَدَسْتَ وَنَیَاشِکِشَتَهِ حوالہ یکے از مردان احل اس خدمت کن بحرمت یکہ مر  
غوث صاحب اخیار عبد الرحمن قطب العالم قطب الاقطاب و عبد الرحيم و اصحاب  
قطب العالم کلیہ موجودات و سادہ دور جاہ سید علہ ہر یک جا حافظ ملکیت و خنزیر بچل  
ایداں و هشتاد تن نمازی و چھل نفر نجاء و هشتاد تن نقیاد چھار رکن عالم کہ حافظان ارض  
اندوی صد عاد الدین وی صد جمال الدین و صد و بست و دو مرد جہاں گیر و طائفہ عشرت  
ر حمیں ساعت اسی ملعون بسوزد و بیحق یا بُدُوج تبُدُوج تبُدُوج یا بُدُوج  
وَالْبُدُوج فی الْبُدُوج بَدُوج حک یا بُدُوج

مندرجہ بالا دعا پڑھتے رہیں اور سامنے چراغ جلتا رہے۔

اللہ بحرمت ابراہیم ۸۶ بن محمد رسول اللہ

رَبَّكَ	۱۲۵۰۱۲	۱۲۵۰۱۵	۱۲۵۰۱۸	۱۲۵۰۰۵
رَبَّكَ	۱۲۵۰۱۷	۱۲۵۰۰۶	۱۲۵۰۱۱	۱۲۵۰۱۶
رَبَّكَ	۱۲۵۰۰۷	۱۲۵۰۲۰	۱۲۵۰۱۳	۱۲۵۰۱۰
رَبَّكَ	۱۲۵۰۱۳	۱۲۵۰۰۹	۱۲۵۰۰۸	۱۲۵۰۱۹

اللہ بحرمة ابراہیم خلیل اللہ

اس نقش کا فلیتہ بنائ کر روئی لپیٹ کر چراغ میں رکھ کر قبلہ رو بیٹھ کر جلاں۔ مجرب

۔

## برائے دفع آسیب و جنات

اگر کسی شخص (عورت یا مرد کو، بورے ہے یا بچے کو) کسی خبیث جنات و آسیب بھیجاں  
کتنا ران و جو گیاں ثمریاں و غفریت نے بیحمدہ تایا ہوا اور مریض کمزور لا غریب ہوتا جا رہا ہو۔  
کوئی دعا و دو اثر نہ کریں ہو، اور کسی صورت سے کسی تمدیر سے آسیب زدہ مریض شناختیاں  
نہ ہو رہا ہو تو اس نقش کو بروز جمعہ اتوار، بدھ، جمعرات کو ۳ عدد لکھے اور ایک بحد مریض کے  
حکیم میں اور دوسرا کمر میں باندھے اور تیسرا چار پانی میں سربانے کی طرف باندھے اور روز  
ان ایک طشتی میں یا سفید کاغذ پر زعفران و گلاب سے لکھ کر پانی میں دھو کر صبح سے شام تک  
تحوڑا تھوڑا کر کے پلاتے رہیں اسی طرح تین روز تک پلاں گیں۔ تیسرا دن ایک تعویذ پانی  
میں پکا کر سحر زدہ و آسیب زدہ کو غسل کرائیں۔ ایسی جگہ جہاں سے پانی نالی میں نہ  
جائے۔ زمین میں خشک ہو جائے۔ یا ٹب میں بھلاک غسل کرائیں۔ اور استعمال شدہ پانی  
تالاب میں یا ندی میں ڈالیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ کتنا ہی مایوس کن آسیب زدہ مریض ہو  
صحت کامل پائے گا۔ مجرب ہے۔ ترکیب زکوٰۃ یہ ہے کہ اول عروج ماہ میں پنجشنبہ یا دوشنبہ  
سے شروع کرے روزانہ بعد نماز فجر ۱۰ نقش اکتیالیں روز تک لکھے اور دریا میں بھائے۔  
روز کے روز بھی بھا سکتا ہے اور کئی روز کے اکٹھے کر کے بھی بھائے جاسکتے ہیں۔ اکتیالیں  
روز شیرینی تقسیم کرے اور ایصال ثواب بروج پاک آقائے نامدار سید ابراہیم خلیل قادر مدینہ  
محمد رسول اللہ ﷺ و آل واصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پرتا بعین و تبع تابعین پر  
اویائے کرام و صوفیاۓ عظام حرمہم اللہ اجمعین پر بھیجے۔ زکوٰۃ مکمل ہوگی۔ اور پھر چہل قاف  
کی تاثیر کا اور قدرت کاملہ کا کرشمہ اور تاثیر ظہور کا نظارہ فرمائے کہ کس قدر زدہ اثر ہے۔  
دوران زکوٰۃ صلوٰۃ کی پابندی، کذب، چغل خوری اور فحش کلامی سے باز رہے بلکہ  
اذکار میں مشغول رہے۔ نقش چہل قاف مندرجہ ذیل ہے۔

باب: ۲

### عطرائیل

۳۹۰۹	۳۹۰۳	۳۹۱۱
۳۹۱۰	۳۹۰۸	۳۹۰۶
۳۹۰۵	۳۹۱۲	۳۹۰۷

عطرائیل

### برائے دفع آسیب و جنات

اگر کسی عامل کے پاس کوئی آسیب زدہ آئے تو اس کے دامنے کان میں یہ آیت سات مرتبہ پڑھ کر دم کرے۔

وَلَقَدْ سُلِّيْنَ وَالْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ  
ان شاء اللہ آسیب بھاگ جائے گا۔ اگر نہ بھاگے تو باعث کان میں اذان پڑھیں۔  
ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور بھاگ جائے گا۔ اگر پھر بھی نہ بھاگے تو سورہ فاتحہ، چاروں قل، آیت  
الکری، سورہ طارق اور سورہ حشر کا آخری رکوع پڑھ کر آسیب زدہ پر دم کرے اور تین مرتبہ  
ایک بوتل پانی پڑھ کر دیوے اس پانی کو آسیب زدہ ۲۱ روز تک پیئے۔ ان شاء اللہ کتنا ہی سخت اور زبردست آسیب ہو دور ہو گا۔ مجبوب ہے۔

### برائے دفع آسیب و جنات

برائے عامل:

بعد نماز فجر و بعد نماز عشاء، آیت الکری تین مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے

باب: ۳

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
نام جسم پر پھیرے اور ایک مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے دستک دیوے۔ یعنی  
دوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں بجائے ان شاء اللہ تعالیٰ ہر بلیات ہر آفات و جمیع نقصانات و جمیع  
آسیات و جنات و حرفلیات سے محفوظ و مامون رہے گا۔ مجبوب ہے۔

### برائے دفع آسیب و جنات

اگر کسی شخص کو آسیب یا جن آزار دیتا ہو تو اس نقش کو بروز جمعہ بعد نماز فجر یا عصر لکھ کر  
تیار رہیں۔ وقت ضرورت ایک گلے میں باندھیں اور دوسرا ایک بوتل میں ڈال کر رکھیں اور  
بج و شام آسیب زدہ کو اس بوتل میں سے پانی پلا کیں ان شاء اللہ مریض کو شفائے کامل  
ماصل ہو گی۔ نقش مندرجہ ذیل ہے۔

۷۸۲

۳۹۱۱	۳۹۰۳	۳۹۰۹
۳۹۰۲	۳۹۰۸	۳۹۱۰
۳۹۰۷	۳۹۱۲	۳۹۰۵

یا اللہ جمیع آسیب و جنات دور شود

### دفعیہ آسیب

دفعیہ آسیب کے لیے ذیل کا عمل بے حد مفید آزمودہ، کارگر، مجبوب الاجر اور اکسیر  
کا درجہ رکھتا ہے۔

اس مقصد کے لیے ذیل کافتیلہ توے کی کالی سیاہی لے کرتیں عدد فتنے بنائیں۔ اب

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
نوٹ: فلاں بن فلاں کی جگہ مریض اور اس کی ماں کا نام لکھیں۔

### دفعیہ آسیب

آسیب سے نجات کے لیے ذیل کا عمل تیر بہدف اور آزمودہ ہے۔  
اس کے لیے ذیل کا نقش توے کی کالی سیاہی سے سفید کاغذ پر بنائیں اور اس کا فتیلہ  
بنائیں اور مریض کو ہدایت دیں کہ وہ اس بیتی کی روشنی میں عکشی باندھ کر دیکھا رہے جو  
چراغ میں دوسرے فتیلہ کی نئی بیتی بنائیں اور مریض کو بیٹھا کیس میں بعد وبارہ  
بنائیں اور بیتی جل جائے تو اس چراغ کو حفاظت سے رکھیں اور تین دن کے بعد وبارہ  
اب بیٹیا کو راجہ اغ لے کر اس میں روغن کنجد ڈالیں اور اس فتیلہ کی نئی روئی میں بیتی  
بنائیں جلا کیس میں۔ مریض کو ایک گز کے فاصلے پر چراغ کے سامنے بیٹھا کیس اور  
مریض کو ہدایت دیں کہ وہ فتیلہ کی جانب دیکھا رہے۔

### نقش فتیلہ:


شداد	ہامان	ابلیس	فرعون
نمرود	شداد	ہامان	ابلیس
لعین	نمرود	شداد	ہامان
ابلیس	لعین	نمرود	شداد

ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز چراغ کے بھنے کے ساتھ ہی آسیب جل کر راکھ ہو جائے گا۔

نوٹ: چراغ کو باہر ویرانے یا جنگل میں دفن کر دیں۔

آسیبی اثرات جو وجود میں داخل ہو کر بیماری کا باعث بنے ہوں ان کو زائل کرنے  
کے لیے ذیل کا نقش زعفران و گلاب و مشک سے سفید ریشمی پارچہ پر بنائیں اور اس پر سورہ مزمل

بیٹی کا کورا چراغ لے کر اس میں تیل چنبیلی ڈالیں اور اس تیل کے چراغ میں ایک فتیلہ  
تازہ روئی میں بیتی بنائیں اور اس چراغ کو روشن کریں۔ مریض کو اس چراغ کے سامنے  
بیٹھا کیس اور مریض کو ہدایت دیں کہ وہ اس بیتی کی روشنی میں عکشی باندھ کر دیکھا رہے جو  
سازا تیل اور بیتی جل جائے تو اس چراغ کو حفاظت سے رکھیں اور تین دن کے بعد وبارہ  
نئے چراغ میں دوسرے فتیلہ کی نئی بیتی بنائیں اور مریض کو بیٹھا کیس بعد ازا  
چراغ جلنے کے اس چراغ کو بھی سنپھال کر رکھیں اس طریق سے مزید تین دن بعد تمرا  
چراغ روشن کریں۔ بعد ازا عمل تینوں چراغوں کو کسی ویرانے یا جنگل میں دفن کر دیں۔ ان  
شاء اللہ تعالیٰ العزیز اس عمل کی بدولت آسیب جل کر راکھ ہو جائے گا۔ نقش فتیلہ:



مزاحمت نہ رساند

پرچہ آسیب

حاضر شدہ

فلاں این فلاں

وسونتہ گردہ

جادا و اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
سات مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور مریض کے گلے میں خوبیوں کا کرموم جامد کر کے ڈال دیں۔  
ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز اس عمل کی بدولت جواہرات وجود میں داخل ہو گئے جیسے وہ  
ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے نقش یہ ہے۔

### بسم اللہ الرحمن الرحيم

۲۹۲۲۰	۲۹۲۲۳	۲۹۲۲۷	۲۹۲۱۳
۲۹۲۲۶	۲۹۲۱۲	۲۹۲۱۹	۲۹۲۲۴
۲۹۲۱۵	۲۹۲۲۹	۲۹۲۲۱	۲۹۲۱۸
۲۹۲۲۲	۲۹۲۱۷	۲۹۲۱۶	۲۹۲۲۸

## جنات کو جلانے کا عمل

ذیل کا عمل بھی جنات کو جلا کر خاکستر کرنے اور ان سے چھٹکارے کے لئے عجیب تاثیرات کا حامل اور آزمودہ ہے۔

اس مقصد کے لیے ذیل کا نقش تو ے کی کالی سیاہی سے سفید کاغذ پر سات عدد میں تحریر کریں۔ اس نقش کوئی روئی میں لپیٹ کر فتیلہ بنالیں اور اب نیا کورامٹی کا چراغ لے کر اس میں رونگ زرد ڈال کر اس فتیلہ کو اس میں رکھ کر چراغ کو جلانے کا عمل۔

مریض کو چراغ سے ایک گز کے فاصلے پر بٹھائیں۔ سب سے پہلے گیارہ مرتبہ دروازہ شریف پڑھ کر اس کے گرد حصار لو ہے کے چاقو سے باندھیں اور لو ہے کا چاقو حصار کے میں

باہم: ۲۷  
جادا و اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
آئے اس طریق سے رکھیں کہ دستے حصاء کے اندر ہو اور چل کی ٹوک چراغ کی جانب  
رہے۔ مریض کو یہ بدایت دیں کہ وہ چراغ کی جانب گلکنگی باندھ کر دیکھتا رہے۔ عالم خود  
عزمیت ذیل پر ہنی شروع کر دے۔ جیسے جیسے چراغ جتنا جائے گا جن حاضر ہو کر چینی و پکر  
ڈالے گا۔ ایسے میں عامل اور معمول دونوں کو قطعی نہیں گھبراانا چاہیے۔ چراغ جب بخوبی جائے  
ڈالے گا تو وہ جن بھی جل کر خاک ہو جائے گا اور اس کی راکھ چراغ کے نیچے پڑی نظر آئے گی۔  
اس خاک کو اکٹھا کر کے دریا بردا کر دیں۔

### نقش فتیلہ:

سو ختم جملہ دیویان، پریان و کفتاران و جو گیان  
و جنات و جنیات آنچہ در وجود مزاحمت بد بدخاکستر گردد  
و بحرمت علیقا ملیقا طریقا انت تعلم ما فی  
قلوبهم و ما فی انفسهم علیقا ملیقا طریقا انت  
ہر بلا در وجود فلاں بن فلاں باشد سو ختن فتیلہ در آمدہ در  
چراغ حاضر شود و گر در نگ نیا بد سوز و خاکستر گردو۔

نوٹ: فلاں بن فلاں کی جگہ مریض اور اس کی ماں کا نام لکھیں۔ اس کے علاوہ ذیل  
کا نقش زعفران و گلاب و مشک سے بنائیں کہ مریض کے گلے میں موم جامد کر ڈال دیں۔  
نقش اگلے صفحہ پر ہے۔

جاداً وَ جَنَّاتٍ مِّنْ كُلِّ شَرْطٍ يَسِّرْ بِهِنَّجَاتٍ  
جَنَّاتٍ كَيْ أَشَدُ ضَرُورَتٍ هُوَتِيْ هُوَيْهُ اَوْ رَانَ كَيْ فَرِيْدَهُ سِيْهُ تَامَّ مُخْلُوقَ كُحْرُولَ سِيْهُ بِهِجَارَ كَرَ  
بَنَگُولَ مِنْ جَانَزَيْنَ هُوَجَاتِيْ هُوَيْهُ اَوْ رَكْهُرَدَوَ بَارَهُ اَسَ كَحْرَكَارَخَ بَجِيْ نَبِيْسَ كَرَتِيْ.  
ذَيْلَ كَعَلَ مِنْ بَزَرَگَانَ عَظَامَ كَأَزَمُودَهُ سِنَخَ دِيْهُ جَارَ هُوَيْهُ بَيْسَ تَاكَهُ عَلاَجَ مَعَالِيْهِ  
بَيْسَ سِبُوتَ رِهَهُ.

عمل نمبر ۱-  
ذَيْلَ كَعَلَ اَسَ مَعَالِيْهِ مِنْ اَزَحَدَ كَأَرَگَارَنَافَعَ هُوَيْهُ. اَسَ مَقْصِدَ كَلَيْهِ ذَيْلَ كَأَنْقَشَ  
ذَوَّهُ كَيْ كَالِيْ سِيَاَهِيْ سِيْهُ كَوْرِيْ مَنْثِيْ كَيْ هَنْدَيَاَكَهُ كَحْكَنَ پَرَبَنَا سِيْسَ اَوْ رَاسَ كَحْكَنَ كَوْسِنَدَوَرَلَ كَرَ  
كَالِيْ كَپْرَهُ مِنْ لَپِيَتَ كَرَكَهُرَكَيْ حَچَتَ سِيْلَكَادَهِيْ. جَنَّاتَ فِي الْفَوْرَچِنَتَهِ چَلَاتَهِ اَسَ جَكَهُ  
کَوْخَالِيْ كَرَجَانِسِيْسَ گَهُ. اَوْ رَدَوَ بَارَهُ اَسَ طَرَفَ كَارَخَ بَجِيْ نَهَ كَرِيْسَ گَهُ.  
اَسَ كَعَلَادَهُ سَوَرَهُ طَهِيْ تَمِينَ مَرَتَبَهُ اَوْ رَسَورَهُ الطَّارِقَ تَمِينَ مَرَتَبَهُ پَرَهَ كَرَ پَانِيْ بَجِيْ  
بَنَسِيْسَ اَوْ رَگِيَارَهُ دَنَهُ یَهِ پَانِيْ سَارَهُ گَهُرَ مِنْ چَھَرَهُ کَسِيْسَ.



۸۶

لمسو	۸	۶	۲
۲	۲	۱۲	۶
۲	۲	۱۲	۶
۲	۳	۱۸	۲

دَفَعَ شَوَّدَكَلَ جَنَّاتَ وَنَسِيَّثَاتَ وَفَعَ شَوَّدَ

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

۶	۷	۲
۱	۵	یہاں مَرِیضَ اَوْ رَسَورَهُ اَسَ کَانَامَ لَکَھِیں
۸	۳	۳

اَنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی اَعْزِيزُ اَحْكَمْ خَالِمَ تَرِینَ جَنَّ جَلَ كَرَخَاَکَ هُوَجَاتَهُ گَاهُ اَوْ رَاسَ کَهُ  
قَسْمَ کَشَارَضَرَ سِے مُكْمَلَ چَھَکَارَاتَهِیَاتَ مَلَ جَائَهُ گَاهُ.

### جَهَنَّمَ مِنْ اَيْنَثَ رُوْثَهُ گَرَنَا

بعضَ گَهُرَوَنَ مِنْ جَنَّاتَ کَابَهَتَ زِيَادَهُ عَمَلَ دَخَلَ هُوَتَاهُ اَوْ رَجَبَ انَّ کُونَگَ کَیَا جَاتَهُ  
ہے توَانَ مِنْ سِے بَذَاتَ قَسْمَ کَجَنَّاتَ ضَدَ مِنْ آکَرَالِثَهُ سِیدَھَهُ رَحْبَهُ اَغْتِيَارَکَرَتَهُ  
ہیں انَّ مِنْ سِے چَندَ رَحْبَهُ دَرَجَ ذَيْلَ ہیں.-

- ۱۔ اَيْنَثَ، رُوْثَهُ وَغَيْرَوَنَ گَهُرَوَنَ مِنْ چَھِنَکَنَا.
- ۲۔ گَنْدَگَیْ چَھِنَکَنَا.

۳۔ اَشْيَاءَ گَهُرَیْلَوَکَوَآَگَ لَگَانَا.

بَهْرَ حَالَ اَیْسَى صَوَرَتَحَالَ سِنَنَهُ کَلَيْهِ بَهْرَ حَصَلَهُ اَوْ رَصِبَرَ کَيْ ضَرُورَتَهُ هُوَتِيْهُ  
اوَرَ اَسَ مُخْلُوقَ کَادَثَ کَوَمَقَابِلَهُ کَرَنَاضِرَوَرَیْ هُوَتِيْهُ. اللّٰهُ تَعَالٰی عَزَّ وَجَلَ کَیْ ذَاتَ پَرِیَقَنَ کَامَلَ  
رَكْهَتَهُ ہوَئَ کَسِیْ کَامَلَ بَزَرَگَ سِے انَّ کَدَ دَفِعَهُ اَوْ رَانَ بَاتَوَنَ سِنَجَاتَ پَانِیْ کَیْ عَمَلَاسِیْ

عمل نمبر: ۲

اگر کسی گھر میں جنات اینٹ روڑے پھینکتے ہوں اور اپنے اس فعل سے کسی بھی طریقے سے بازنہ آتے ہوں تو ایسے میں ذیل کا عمل از حد نافع اور مجرب ہے۔ اس کے لیے ذیل کا نقش کالی روشنائی سے سفید کاغذ پر بنائیں اس کو نئے کوڑوں میں بھگو دیں حل ہونے پر اس کا پانی گھر میں چھڑ کا گیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز مرتبہ روز کے عمل ملنی سے اس حرکت خبیث سے جنات بازا آ کروہ جگہ خالی کر جائیں گے اور دوبارہ اس طرف کارخ نہیں کریں گے۔

نقش:

۷۸۶

ف	م	اع	دی
ف	م	ک	ے
ک	م	ل	ل
۵۷۱	بدو	بدو	ے


## دفع جنات

جس گھر میں جناتی کارتانی کے ذریعے خوفناک آوازیں آتی ہوں اور ان سے گھروالوں کا سکون ہمہ وقت بر بادر ہے تو ان کے اس شر کو دفع کرنے کے لیے ذیل کا عمل

اور نافع ہے۔

از حصہ مفید اور نافع ہے۔ اس مقصد کے لیے ذیل کا نقش باوضوحالت میں سفید کاغذ پر زعفران گلاب و مشک سے سفید گتہ پر باوضوحالت میں بنائیں اس پر سورہ زلزال گیارہ مرتبہ بمعہ اول و آخر درود شریف تجویناً گیارہ، گیارہ مرتبہ

## حق جبرا ایل یا بد وح



الْحَقُّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْمُحَمَّدُ مُهَمَّدًا سُوْلُ اللَّهِ  
بِحَقِّ اسْرَافِيلِ يَا بَدَوْح

## جنات کے عمل دخل کو ختم کرنا

گھر کو جنات کے عمل دخل سے مکمل پاک کرنے کے لیے ذیل کا عمل از حد کا گراور نافع اور مجرب ہے۔

اس مقصد کیلئے ذیل کا نقش زعفران گلاب و مشک سے سفید گتہ پر باوضوحالت میں بنائیں اس پر سورہ زلزال گیارہ مرتبہ بمعہ اول و آخر درود شریف تجویناً گیارہ، گیارہ مرتبہ

پڑھ کر دم کریں۔ اس کو خوب سوچوں گا میں اور گھر کے اندر قبلہ رخ دیوار پر لٹکا کیں۔ اس نقشہ بھی تین سو پانچ روپے غرباء میں تقسیم کر دیں۔

. ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز اس عمل کی بدولت وہ گھر تمام جنات و آسیب و بحوث پر من سے پاک ہو جائے گا اور ان کے ہمہ اقسام کے تمام شر سے نجات کلیل جائے گی۔

کَهْيَعَصَرْ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا أَرْلَدَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۚ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۖ  
وَقَالَ إِلَيْنَا إِنَّمَا لَهَا يَوْمَئِنْ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۖ بَأَنَّ  
رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ۖ يَوْمَئِنْ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ۖ لَيَرَوْا  
أَعْمَالَهُمْ ۖ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ  
يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الْحَقُّ الْقَيُومُ ۚ لَا تَأْخُذْنَا سَنَةً ۖ وَلَا نُؤْمِنُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ  
وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْنَا ۖ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ  
مَا بَيْنَ أَيْمَانِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ  
عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۖ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَ  
لَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا ۖ وَهُوَ عَلَىٰ الْعَظِيمِ ۝

۳۲۰۱	۳۲۰۵	۳۲۰۸	۳۱۹۳
۳۲۰۷	۳۱۹۵	۳۲۰۰	۳۲۰۲
۳۱۹۶	۳۲۱۰	۳۲۰۳	۳۱۹۹
۳۲۰۳	۳۱۹۸	۳۱۹۷	۳۲۰۹

## جنات، بحوث و آسیب کو بچانا ۴۷

سمیر سے جنات، بحوث و آسیب کو بچانا کے لیے ذیل کا مکمل لذت حدا فتح اور گھر سے اس کے لیے ذیل کے اکیس عدد نقش اتوے کی کامی سیاہی سے سفید کاغذ پر آزمودہ ہے اس کے لیے ایک نقش کا فتیلہ بنایا کرو پر کا لے دھاگ کو لپیٹ دیں اپنے حالت میں بنائیں۔ روزانہ ایک نقش کا فتیلہ بنایا کرو پر کا لے دھاگ کو لپیٹ دیں اس پر نئی روئی لپیٹ کر اس کی باتی بنائیں۔

بعد ازاں اس عدد میں کا کو را چراغ لے کر اس میں کا لے دار کر سے اسی نقش کو بنائیں اور اس ایک عدد میں کا کو را چراغ لے کر اس چراغ کو گھر میں کسی بلند جگہ پر جلا دیں۔ یہ کام بعد ازاں مغرب میں ڈیں ارنہ اور تی ڈال کر اس چراغ کو گھر میں کسی بلند جگہ پر جلا دیں۔ یہ کام بعد ازاں مغرب کرنے ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز اکیس یوم کے عمل مسلسل سے اس گھر سے ہر قدم کے بنا ہے۔ بحوث، بحث، پریت اور آسیب بھاگ جائیں گے اور دوبارہ اس طرف کا رخ بھی نہیں کریں گے۔ نقش یہ ہے۔

مُحَمَّد	مُحَمَّد	مُحَمَّد	مُحَمَّد
۱۹۲	ق	۱۱۹	X
۲۰۳	ق	۲۰۳	X
۲۸۸	ق	۷۹	X

## جنات، بحوث و آسیب کو بھگانا

گھروں کو جنات، آسیب، بحوث، پریت سے پاک کرنے کے لئے ذیل کا عمل بھی از حد آزمودہ اور کارگر ہے۔

اس مقصد کے لیے ذیل کے نقوش پانچ عدد بزرگی کپڑے پر کالے مارکر سے بنائیں ان نقوش کو شیشے کے فریم میں بنوایا کر چار عدد نقوش گھر کی چار دیواروں پر اور پانچ ماں گھر کی مرکزی چھت کے اوپر لٹکا دیں۔ ان نقوش کو لٹکانے سے قبل ان کا ہدایہ ایک ہونہ کر روپے فی نقش غرباء میں تقسیم کر دیں اور سات فقراء کو کھانا بھی کھلا دیں۔

اس کے بعد پانی اور اگر بیتوں پر:

۱۔ اول و آخر درود شریف تجیناً اکتا لیں اکتا لیں مرتبہ۔

۲۔ سورہ مزمل گیارہ مرتبہ۔

۳۔ سورہ ملک گیارہ مرتبہ۔

۴۔ سورہ جن گیارہ مرتبہ۔

۵۔ سورہ کوثر ایک سو گیارہ مرتبہ۔

پڑھ کر دم کریں۔ روزانہ صبح و شام پانی اکیس یوم تک چھڑکا نہیں اور سات اگر بیان رات کو گھر میں سلاگایا کریں۔

یہ کام بھی اکیس روز تک کرنا ہے۔ اس لیے اکیس یوم کے حساب سے ایک، سینتالیس اگر بیان ایک ہی دفعہ دم کر لیں۔ اکیس یوم کے بعد گھر کے سارے فرش اچھی طرح دھو دیں۔ ان شاء اللہ العزیز الحکیم اس عمل کی بدولت گھر ہمہ اقسام کے جنات، بحوث، اشرار، اور آسیب و شیاطین کے ڈیرے سے مکمل خالی ہو جائے گا اور ان میں سے کوئی بھی شے اس گھر میں دوبارہ داخل نہ ہو سکے گی۔

## بخاری

### گھروں میں خون کے چھینٹے پڑنا

بعض حاسدین دوست نما شمن جو اپنے کسی بھائی بند کو بنتا کھیلتا اور خوشحال نہیں دیکھنا پسند کرتے اور وہ گھر کے بھیدی کی حیثیت سے بعض بد اور خبیث لاچی عاملین نہیں دیکھنا پسند کرتے ہیں جس سے سفلی ارواح گھروں میں حکس کر خون کے چھینٹے غلی علم سے ایسا جادو کرواتے ہیں جس سے سفلی ارواح گھروں میں حکس کر خون کے چھینٹے گانی ہیں جو کسی نہ کسی پرندے یا جانور کا ہوتا ہے۔ خون کے چھینٹے لگوانے والے نہ تو کسی فرد کا پتا چلتا ہے اور نہ ہی ان سفلی ارواح کی موجودگی کا علم ہوتا ہے۔

ادھر کمرہ یا گھر کی صفائی کی جاتی ہے ادھر پھر سے خون کے چھینٹے کسی نہ کسی دیوار ذیل یا کپڑوں پر پڑنے والے نظر آتے ہیں جن سے عجیب و غریب بوآ نہ لگتی ہے۔ دل ملنے لگتا ہے اور طبیعت یک دم بگڑ جاتی ہے۔ سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے گردانہ ہیرا چھا جاتا ہے کانوں میں سیٹیاں بنجئے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ایسا گھوس ہوتا ہے کہ کوئی ان دیکھی قوت جان بوجھ کر انسان کا تمسخر اڑا رہی ہے۔ کبھی جانوروں کے رینگنے کی آوازیں اور کبھی مختلف قسم کے پرندوں کے پھٹر پھٹرانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔

نتیجہ میں گھروں اے ایک دوسرے سے مشکوک ہو جاتے ہیں آپس میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ گھر یا صورت حال بگڑ جاتی ہے گھر کا سامان بد صورتی کا منظر پیش کرتا ہے۔ طبیعتوں میں چڑ چڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ کام کاج سے دل اچاث ہو جاتا ہے اور سارا معاملہ بگڑتا چلا جاتا ہے۔ بیزاری کی عجیب سی لہر سارے گھر میں پیدا ہو جاتی ہے جس سے نجات پانابے حد مشکل ہو جاتا ہے۔

بہر حال ایسی صورت حال میں ایمان کی پختگی اور توکل و یقین ذات باری تعالیٰ پر مقبولی سے قائم رہتے ہوئے ایسی صورت حال کا سامنا کرنا چاہیے۔ احکام شرعیہ کی مکمل پابندی کے ساتھ ساتھ ہمہ وقت باوضور ہیں اور نماز پنج وقتے میں اللہ تعالیٰ کے حضور حفظ الہی

## جنات، بھوت و آسیب کو بھگانا

گھروں کو جنات، آسیب، بھوت، پریت سے پاک کرنے کے لئے ذیل و ملک  
از حد آزمودہ اور کارگر ہے۔

اس مقصد کے لیے ذیل کے نقوش پانچ عدد بزرگی کپڑے پر کالے مارکرے  
بنائیں ان نقوش کو شیشے کے فریم میں بناؤ کر چار عدد نقوش گھر کی چاروں یواروں پر اور پانچ ماں  
گھر کی مرکزی چھٹ کے اوپر لٹکا دیں۔ ان نقوش کو لٹکانے سے قبل ان کا ہدیہ ایک سو ہزار  
روپے فی نقش غرباء میں تقسیم کر دیں اور سات فقراء کو لکھانا بھی کھلا دیں۔

اس کے بعد پانی اور اگربنیوں پر:

۱۔ اول و آخر درود شریف تجیناً اکتا لیں اکتا لیں مرتبہ۔

۲۔ سورہ مزمل گیارہ مرتبہ۔

۳۔ سورہ ملک گیارہ مرتبہ۔

۴۔ سورہ جن گیارہ مرتبہ۔

۵۔ سورہ کوثر ایک سو گیارہ مرتبہ۔

پڑھ کر دم کریں۔ روزانہ صبح و شام پانی اکیس یوم تک چھڑکاں کیں اور سات اگربنیاں  
رات کو گھر میں سلگایا کریں۔

یہ کام بھی اکیس روز تک کرنا ہے۔ اس لیے اکیس یوم کے حساب سے ایک ہو  
سینتا لیں اگربنیاں ایک ہی دفعہ دم کر لیں۔ اکیس یوم کے بعد گھر کے سارے فرش اچھی  
طرح دھو دیں۔ ان شاء اللہ العزیز الحکیم اس عمل کی بدولت گھر ہمہ اقسام کے جنات،  
بھوت، اشرار، اور آسیب و شیاطین کے ڈیرے سے مکمل خالی ہو جائے گا اور ان میں سے  
کوئی بھی شے اس گھر میں دوبارہ داخل نہ ہو سکے گی۔

## باب نمبر ۵

ام الصبيان سے متاثرہ بچوں  
کا

محب ترین روحانی علاج


کی دعا گزگز کرنا ضروری ہے تاکہ ایسے حالات سے بآسانی نجات مل سکے۔  
بہر حال بزرگان کا بتلایا ہوا ذیل کا عمل ایسی صورت حال کا شافی اور بخوبی عالی  
ہے۔ بشرط کے تھوڑی سی استقامت سے کام لیا جائے۔  
**عمل:** گھر کو ایسی شیطانی سحری کارروائیوں سے پاک کرنے کے لئے ذیل کا عمل فائدہ  
مند اور کارگر ہے۔  
دریا پر جا کر الٹے بہاؤ کی جانب سے مٹی کا ایک گھڑا پانی سے بھر کر لے آئیں۔  
پھر ذیل کے نقش کو زعفران و گلاب و مشک سے لکھ کر گھڑے کے پانی میں ڈال  
دیں اور گھڑے کو بلکلی آنچ پر رکھ دیں۔ ساری رات پانی بلکلی آنچ پر پکتا رہے۔ صبح کو انہوں  
اس پانی کے چھینٹے مکان نکے چادوں کو نون میں، گھر کی چوکھت میں اور دیواروں پر چھڑک  
دیں۔ بعد ازاں ایک اور نقش بنائیں کہ مکان کی چوکھت پر لگا دیں۔ اس کے علاوہ روزانہ گیارہ  
اگر بھی پر سورہ فلق، سورہ ناس گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کر کے گھر میں سلاگائیں۔  
نوٹ: یہ کام گیارہ روز تک کریں۔  
ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز اس عمل کی بدلت نیہ ساری کارروائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم  
ہو جائے گی۔

۷۸۶

۳۲۹۳	۳۲۹۶	۳۲۹۹	۳۲۸۵
۳۲۹۸	۳۲۸۶	۳۲۹۲	۳۲۹۷
۳۲۸۷	۳۵۰۱	۳۲۹۳	۳۲۹۱
۳۲۹۵	۳۲۹۰	۳۲۸۸	۳۵۰۰

باب نمبر ۵

ام الصبيان سے متاثرہ بچوں  
کا  
محب ترین روحانی علاج



## پیغام شفاء

جسمانی بیماریوں کا روحاںی علاج

ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مندرجہ ذیل جسمانی بیماریوں سے صرف ایک ہی باردم کروانے سے فوراً مکمل پہنچا پایا کہ تمام سرش و شریر جنوں اور شیطانوں کو قید کیا جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام شرطیہ نجات حاصل کر زیں۔

بلڈ پریشر	کالا یرقان	شوگر
بواسیر	دمسہ	ہر قسم کی پتھری

انشاء اللہ تعالیٰ صرف پہلے ہی ہفتے میں رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا ہمارے علاج و طریقہ کار کا پہلے تجربہ کریں اور بعد میں دنیا کو بتائیں۔

ہمارے ہاں مندرجہ بالا جسمانی بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے عملیات و تعویذات بھی سکھائے جاتے ہیں، فوری اثر کرنے والے عملیات و تعویذات سیکھنے کے خواہش مند حضرات رابطہ کریں ہدیہ 4000 ہزار روپے

روحاںی و جسمانی معانج حکیم حافظ عبد الروف

ماہر عملیات و تعویذات

تابعہ یعنی ام الصبيان وہ ڈائسٹ، اجنیہ اور بلاہے جو گھروں کو گراہیتی ہے۔ محلوں کو بر باد کر دیتی ہے۔ رات و دن روزی کو کم کر دیتی ہے اور شرارۃ و مصیبت کو بڑھاتی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت جبریل امین نے اللہ تعالیٰ کا پیغام حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچایا کہ تمام سرش و شریر جنوں اور شیطانوں کو قید کیا جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام قومِ جنات کو حاضر کیا تو تمام اشکر جنات جو کہ زمینوں اور آسمانوں کے درمیان تھے حاضر ہوئے۔ مگر ام الصبيان نہ آئی۔ کچھ جنات کے اشکروں نے عرض کیا۔ یعنی اللہ! آپ نے ام الصبيان کو امان دی ہے؟ حالانکہ بنی نوع انسان کو زیادہ تر تکلیف و مصیبت میں نے ام الصبيان ہی ڈالتی ہے۔ حضرت سلیمان نے آصف بن برخیا کو حکم دیا کہ جلد گرفتار کر کے ام الصبيان کو حاضر کرو۔ چند ساعت میں آصف بن برخیا نے ام الصبيان کو زنجیروں میں جکڑا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار عالی میں آپ کے حضور میں پیش کیا جو کہ بڑی بیت ناک و خطرناک شکل و صورت کی عورت تھی۔ جس کے دانت باہمی کے دانتوں کے مانند تھے۔ اس کے بال کھجور کے ریشوں کی طرح تھے اس کے منہ اور نتوں سے دھواں نکلتا تھا۔ اس کی آواز اگر جدار بادلوں جیسی تھی۔ اس کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی تھیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی ہیئت ناک شکل و صورت دیکھ کر خداوند قدوس کی بارگاہ عالی میں سجدہ ریز ہو گئے پھر سر اٹھا کر اس ملعونہ سے فرمایا کہ بتلاتیر اکیانام ہے؟ اور کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام ہتمہ بنت ہتمہ ہے۔ اور کنیت ام الصبيان ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان ہواؤں میں رہتی ہوں۔ کام یہ ہے کہ گھروں کو خالی کرتی ہوں۔ قبرستانوں کو آباد کرتی ہوں۔ بچوں کو ہلاک کرتی ہوں۔ مادر شکم میں بچوں کو نقصان پہنچا کر ضائع و اسقاط کرتی ہوں اور برے مرد و عورتوں کو مختلف الانواع والا قسم کے او جائے و امراض و مصیبت

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
باہ: ۵  
و بیا و فقر و فاقہ میں مبتلا کرتی ہوں۔ عورتوں کی گودوں کو پچوں سے خالی کر دیتی ہوں۔  
تاجروں کے کاروں بار میں دخل انداز ہو کر تباہ و بر باد کر دیتی ہوں۔ تیز و تندر ہواوں  
میں زہریلا مادہ گھول کر ہرے بھرے کھیتوں کی فصلوں کو بر باد کر دیتی ہوں۔ پچلوں کو  
خراب کرتی ہوں۔ پانی میں زہریلا مادہ پیدا کرتی ہوں اور ہڈیوں کا گودا کھا جاتی ہوں اور  
ان کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ عورتوں و مردوں و پچوں میں سے ان کا انتخاب کرتی ہوں جن  
کی آنکھیں سیاہ و چہرہ سرخ ہوتا ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خبیثہ سے فرمایا ”اے ملعونہ! کیا ان تمام  
وجہات کے موجود ہوتے ہوئے تیرے ساتھ رعایت کی جاسکتی ہے۔ اور کیا عذاب  
میں تھفیف کی جاسکتی ہے۔ ناممکن۔ بلکہ تجھ کو سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا۔  
امت اور بنی نوع انسان کی ہمدردی کے لئے میں تجھ کو قید و بند کی صعوبت

میں ذالوں کا تاکہ بنی نوع انسان تیرے شر سے اور ضرر سے محفوظ و مامون رہے۔ اس پر  
ام الصبیان ملعونہ نے کہا! ”یا نبی اللہ! بیشک آپ مجھے ہر قسم کی سزاوے سکتے ہیں۔ مگر مجھے  
عمر دراز عطا کی کئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مجھ کو بطور عذاب کچھ لوگوں پر مامور کرتا ہے۔ حضرت  
سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: اے خبیثہ: بتاوہ کون لوگ ہیں؟ جن پر تجھ کو مسلط  
کیا جاتا ہے۔ ام الصبیان نے کہا۔ یا نبی اللہ: وہ لوگ ہیں ردی یعنی وہ مرد و عورت جن کے  
پاس اسم ذات و صفات میں سے کوئی اسم نہ ہو اور آیات آسمانی میں سے کوئی آیت نہ ہو اور  
جن کے پاس آپ کی خاتم سلیمانی نہ ہو میں ان لوگوں پر مسلط کی جاتی ہوں۔  
میں مردوں عورتوں اور پچوں کے جسم میں اس طرح سراحت کر جاتی ہوں جس طرح بدن  
کے اندر رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ اور ہزار ہارنگ بدلتی ہوں۔ گدھے کی طرح رینگتی ہوں  
اوٹ کی طرح اکڑتی ہوں، بھیڑیے اور کتے کی طرح بھونکتی ہوں۔ سانپ کی طرح میٹی  
مارتی ہوں اور چیتے کی طرح غراتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کوئی وجہ

باہ: ۵  
جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
نہیں کہ تجھ کو سزا نہ دی جائے۔ اور تیرے ساتھ نزی اور سلوک کا برستاؤ کیا جائے۔  
ام الصبیان ملعونہ نے کہا آپ کیلئے مجھے معاف کر دینا بہتر ہے۔ لہذا میرے ساتھ نزی اور  
رعایت سمجھے۔ میرے پاس ایک خاتم ہے وہ میں آپ کو بتلاتی ہوں اور عہد و میثاق کرتی  
ہوں کہ جس کے پاس یہ خاتم ہو گی میں اس کے پاس نہ جاؤں گی۔ اور کوئی شخص یہ خاتم اپنے  
پاس رکھے گا تو میں اس کے جسم سے، گھر سے نکل جاؤں گی۔ اور پھر اس کے مکان یا جسم  
میں دوبارہ نہیں آؤں گی۔ اور میرے پاس سات عہد اور بیس۔ ان میں سے اگر ایک بھی  
عہد کسی کے پاس ہو گا تو میں اس کو ہرگز کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ بلکہ اس  
شخص سے دور رہوں گی۔ اور میرے بارہ نام ہیں۔

(۱) قلقوش (۲) ملقوش (۳) ہیلوش (۴) قرقوش (۵) عمروش (۶) ایلاقوش  
(۷) قمنظنوش (۸) قوش (۹) مقرر قتوش (۱۰) ام مسلم (۱۱) بہمۃ بنت بہمۃ (۱۲) اور

ام الصبیان۔  
میں آپ سے عہد و میثاق کرتی ہوں کہ یہ عہد و میثاق جس کے پاس ہوں گے اور خاتم  
ہو گی میں ہرگز اس کے پاس سے نہ گزرؤں گی بلکہ دور رہوں گی۔

### عہد اول:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِحَقِّ الَّذِي لَهُ التَّهْلِيلُ  
وَالْتَّكْبِيرُ وَالتَّعْظِيمُ وَالْتَّحْمِيدُ وَالنُّورُ وَالْبَهَاءُ صَادِقُ الْوَعْدِ  
فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ

جس کے پاس یہ عہد ہو گا میں اس کے پاس ہرگز نہ پہنکوں گی۔

### عہد ثانی:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِحَقِّ الَّذِي تَجَلَّ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ  
دَكَّاً وَخَرَّ مُؤْسِى صَعِقاً مِنْ بُرْدَةٍ وَنَظَرَ فَتَدَكَّدَ كِلَالِهِ

بَابٌ: ۵  
يَعْبُدُ بَهِي جِسْ خَصْ كَيْ پَاسْ هُوَگَا انشاء اللَّهَ ام الصَّبِيَانْ مَعْوَنَه کَا اسْ كَيْ پَاسْ لَكَرَزْ هُوَگَا۔

### عبد ثالث:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِحَقِّ الَّذِي أَمْسَكَ السَّمَاوَاتِ  
بِغَيْرِ عَمَدٍ أَلْبِلُكَ الْقُدُوسُ الْمُهِينِتُ بَاعِثُ النُّفُوسِ۔

يَعْبُدُ بَهِي جِسْ خَصْ كَيْ پَاسْ هُوَگَا انشاء اللَّهَ ام الصَّبِيَانْ اسْ سَدِورْ هُوَجاَے گی۔

### عبد رابع:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِحَقِّ الظُّلُمِ وَكِتَابٍ مَسْتُورٍ  
وَبَخْرٍ مَسْجُورٍ وَحَقِّ خَالِقِ النُّورِ وَبَاعِثٍ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ۔

يَعْبُدُ بَهِي جِسْ خَصْ كَيْ پَاسْ هُوَگَا انشاء اللَّهَ وَهَا مِنْ الصَّبِيَانْ کَيْ ضَرَرْ سَهْفَهْ هُوَگَا۔

### عبد خامس:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِحَقِّ مَنْ هُوَ نُورٌ فَوْقَ نُورٍ آنُورٍ  
وَنُورٌ يُظْهِرُ مَنْ نُورٌ وَبِحَقِّ عَرْشِ الرَّحْمَنِ الْمَلِكِ الدَّيَانِ  
الْمُهَمَّيْنِ الْعَزِيزِ الْجَبَارِ الَّذِي هُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ۔

يَعْبُدُ بَهِي جِسْ خَصْ كَيْ پَاسْ هُوَگَا گلے میں یا بازو میں وَهَا انشاء اللَّهَ تَعَالَى رَتَّ اَحْمَرْ دَاءْ اَكْبَرْ، ام الصَّبِيَانْ کَيْ اثْرَاتْ وَشَرَارْ ضَرَرْ سَهْفَهْ هُوَگَا۔

### عبد سادس:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِحَقِّ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ طَبَاقًا  
بِغَيْرِ عَمَدٍ وَلَا مِقْلَاقَ وَأَبْرَأَ ذِمَّةَ النِّفَاقِ وَيَسَّرَ الرِّزْقَ  
لِلْخَلَائِقِ ذَالِكَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ۔

### عبد شامن:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حِجَابٌ مَنَ اللَّعِينَةَ الْمَلْعُونَةَ أَمْ

بَابٌ: ۶  
جَادُو اور جنات سے عمل شرطیہ نجات  
یَعْبُدُ سَادِسْ بَهِي جِسْ خَصْ کَيْ بازو یا گلے میں ہوگا وَهَا انشاء اللَّهَ تَعَالَى مَعْوَنَه  
ام الصَّبِيَانْ کَيْ ہَر شَرَارْ ضَرَرْ سَهْفَهْ مَحْفُوظَ وَمَامُونَ رَهِيْ گا اور اسْ خَصْ کَيْ پَاسْ ام الصَّبِيَانْ  
اپنی جملہ حرکتوں اور تمام ترویجیوں کے ساتھ رسانی حاصل نہیں کر سکے گی۔

### عبد سابع:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِحَقِّ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ  
الْبَيْنِ وَمَا هُوَ أَخْفَى وَحَقِّ كُنْسِيَّتِكَ وَعَزَّ اِمَكَ وَنُبُوتِكَ وَخَاتِمِكَ  
مَلَكُتِ بِهِ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَالظَّيْرَ الصَّافَاتِ وَالرِّيْحِ العَاصِفَاتِ۔

یَعْبُدُ سَابِعْ بَهِي جِسْ خَصْ کَيْ پَاسْ هُوَگَا وَهَا انشاء اللَّهَ تَعَالَى جَنْ وَآسِبَ اور ام الصَّبِيَانْ  
بُوگیان، کلبیان، شمریان، کفتاران، و بیابان، عفریت و چڑیلان و مژیلان و دیو، پری وغیرہ  
کے اثرات بد سے محفوظ رہے گا۔ ہر طرح سے اللَّهَ تَعَالَیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔  
پھر ام الصَّبِيَانْ نے رو ب رو حضرت سلیمان علیہ السلام قسم کھائی کہ میں اسْ خَصْ کَيْ  
پاس نہ جاؤں گی جِسْ کَيْ پَاسْ انْ عَبَدَوْں میں سے کوئی بَهِي عبد ہوگا۔

### باب الْفِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وزیر آصف بن برخیا کو بلا یا اور فرمایا کہ اس عبد کو  
لکھو۔ آپ کے ارشاد کے بموجب آصف بن برخیا نے لکھ دیا۔ یَعْبُدُ شامن جامع ہے یہ  
عبد جِسْ خَصْ کَيْ پَاسْ ہوگا وَهَا خَصْ انشاء اللَّهَ تَعَالَیٰ ہر قسم کے جَنْ وَشَيَاطِینَ وَآسِبَ وَدِیو،  
پری وغیرہ کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ اور ام الصَّبِيَانْ کا گذر اسْ خَصْ پر نہ ہوگا۔ جِسْ  
مکان میں یَعْبُدُ جامع ہوگا اس مکان میں ام الصَّبِيَانْ مال کو، اولاد کو، نیز کارو بار کو کوئی  
نقسان نہ پہنچا سکے گی۔

### عبد شامن:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حِجَابٌ مَنَ اللَّعِينَةَ الْمَلْعُونَةَ أَمْ

الصَّيْبَيَانَ وَجَمِيعِ عَفَارِيْتَهَا وَالْأَعْوَانِ وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مِنْ  
البَخْرِ وَالرَّمَالِ وَالْكَهْوْفِ وَالْغَيْقَانِ وَالْأَوْدِيَةِ وَالشِّعْبَانِ  
وَالظُّرْقَاتِ وَالْمَوَارِدِ وَالْبَيْوَارِيِّ وَالْقَفَارِيِّ وَالْطَّائِرِيِّ فِي الْهَوَاءِ  
وَالْمُسْتَرِقِيِّنَ السَّمْعَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْغَوَاصِيْنَ وَالْغَطَامِيْنَ  
وَالْغَيْلَانِ وَالْتَّوَابِعِ وَجَمِيعِ الْجِنِّ وَالْطَّاغِيْنَ أَجْمَعِيْنَ - مِنْ  
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ أَعْزَمُ عَلَيْكُمْ بِعَزَائِيمِ  
سُلَيْمَيْنِ بْنِ دَاؤِدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَجَمِيعُ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ وَالْعُهُودِ  
وَحَجَبْتُكُمْ وَطَرَدْتُكُمْ وَأَبْعَدْتُكُمْ عَنْ حَامِلِ هَذَا كِتَابِيِّ  
وَعَنْ أَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَقُعُودِهِ وَمَقَامِهِ وَنُومِهِ وَيَقْظَتِهِ حَجَبْتُكُمْ  
بِاسْمِ اللَّهِ الْعَظِيْمِ الْأَعْظَمِ وَبِخَاتِيمِ سُلَيْمَيْنِ بْنِ دَاؤِدَ  
عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ  
لِلْمُؤْمِنِيْنَ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ إِنَّهُ مِنْ  
سُلَيْمَيْنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ الْأَتَعْلُوْا عَلَيَّ وَأَتُوْنَيْ  
مُسْلِمِيْنَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ  
تَسْلِيْمًا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَأَخْرُدَ عُونَا أَنِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ -

اب طریقہ علاج تحریر کرتا ہوں۔ عقیم مرد و عقیمہ عورت کے بارے میں جو کہ حدو  
ام الصیبان، جوگیان، شرہان، کفتاران، بیابان کی ایڈارسانی سے عقیم و عقیمہ ہو جاتے ہیں  
یا سحر کے ذریعہ بستہ کر دیا جاتا ہے۔ مختصر مگر جامع الفاظ میں۔

آزمودہ ہے۔

## برائے عقیم مرد

اگر کوئی شخص ام الصیبان یا رجع احمد ردا اکبر یا سحر کی وجہ سے عقیم ہو گیا ہو تو اس کے  
امضی انہیں لاوے اور ہر انہیں پر یہ اسم سات مرتبہ لکھے اور مرد عقیم کو بھلاے  
و اسے سات انہیں کھلائے انشاء اللہ مرد عقیم بستہ کھل جائے گا۔ خواہ ام الصیبان زدہ  
سات روز تک سات انہیں کھلائے انشاء اللہ مرد عقیم بستہ کھل جائے گا۔ خواہ ام الصیبان زدہ  
ہو یا سحر زدہ ہو۔ وہ اسماء یہ ہیں۔

## لہ ص سیاہ کلوغہ عمر عادہ

## برائے عقیم مرد

سحر زدہ یا ام الصیبان زدہ مرد بستہ کیلئے مندرجہ بالا جو اسماء لکھے گئے ہیں ان کو  
صف فولاد کے نکڑے پر لکھے اور آگ میں تپائے اور سرخ ہونے پر پانی میں بجھائے۔  
سات روز تک اس طرح کر کے پئے انشاء اللہ تعالیٰ مرد بستہ کھل جائے گا اور قوت مردانگی  
ماں ہو گی۔ اور صاحب اولاد ہو گا۔

## برائے زن عقیمہ

اگر کوئی عورت جسمانی طریقہ سے عقیمہ ہو یعنی رحم کے منہ پر چربی کی تہہ جنم گئی ہو  
تو اس عقیمہ کیلئے لچھمنا بوٹی (سفید کٹبلی) کو صاف کر کے دودھ میں پکا کر عورت عقیمہ کو بعد  
از فراغت حیض تین روز تک پلاۓ۔ صرف ایک کٹبلی روپانہ۔ انشاء اللہ تعالیٰ زن عقیمہ  
بار آور ہو گی۔ اور چربی زائل ہو کر نطفہ قرار پائے گا۔ اور صاحب اولاد ہو گی۔ مجرب و  
آزمودہ ہے۔

## برائے زن عقیمہ



مندرجہ ذیل طریقہ بھی اسی عقیمہ کیلئے سودمند ہے۔ جس کے رحم پر چربی کا جسا وہ یا بدن (رحم) نیڑھا ہو گیا ہو تو اس شافہ کو استعمال میں لائے۔ طریقہ یہ ہے کہ ایک مرغی کا انڈا لے، انڈے کو توڑ کر اس کی سفید جدا کرے۔ پھر گائے کا دودھ پاؤ بھر خوب گرم کر کے انڈے کی سفیدی دودھ میں ڈالے اور پکاتا رہے۔ کچھ دیر بعد یعنی دودھ کا زخم ہو جانے کے بعد روٹی کے تین نکلے ڈالے اور ایک تولہ شہد اصلی ڈالے اور پکاتا رہے یہاں تک کہ دودھ، شہد، سفیدی اور روٹی میں جذب ہو جائے۔ پھر نیچے اتار کر سرد کرے ایک شافہ روز صبح کو اندا姆 نہانی میں رکھے۔ شام کو اسے نکال کر طہارت کرے تین دن اسی طرح کرے اور روزانہ ہمبستر ہو دے اور قبل ہمبستری کے تھوڑی افیم پانی میں گھول کر انداام نہانی پر لیپ کرے بعدہ ہمبستر ہوا کرے انشاء اللہ تعالیٰ زن عقیمہ حاملہ ہو دے اور اگر پلے مہینے حمل قرار نہ پائے تو تین ماہ تک اسی طرح کرے۔ مجرب و آزمودہ ہے۔

## برائے زن عقیمہ




ایک تولہ افیون لے کر اس کو روٹی کے دو پھایوں کے درمیان رکھے اور گائے کے دودھ میں خوب تر کرے اور مقام محفوظ پر رکھے۔ خشک ہونے پر باہم ملا کر بیر کے برابر چار گولی تیار کرے۔ حیض سے فراغت کے بعد ایک گولی روزانہ رات کو زن عقیمہ بطور شافہ تیار کرے۔ پانچویں روز سے شوہر سے ہمبستر ہوا کرے۔ اول ہی ماہ ورنہ تیسرے ماہ تک زن عقیمہ انشاء اللہ حاملہ ہو اور اولاً دنرینہ پیدا ہو۔ مجرب و آزمودہ ہے۔

## برائے زن عقیمہ استقرار حمل



ان ہی عوارضات میں سے ایک عارضہ یہ بھی ہے کہ بہت سی عورتوں کو بوقت ہمبستری میں پانی بہت چھوٹا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ بعد صحبت کے پہلو میں درد ہوتا ہے۔ رحم میں کوئی لطف اندوڑی نہیں ہوتی۔ بلکہ نفرت ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے۔ اور صحبت میں کوئی لطف اندوڑی نہیں ہوتی۔ پس اس کی سفید جدا کرے۔ پھر گائے کا دودھ پاؤ بھر خوب گرم کر کے انڈے کی سفیدی دودھ میں ڈالے اور پکاتا رہے۔ کچھ دیر بعد یعنی دودھ کا زخم ہو جانے کے بعد روٹی کے تین نکلے ڈالے اور ایک تولہ شہد اصلی ڈالے اور پکاتا رہے یہاں تک کہ دودھ، شہد، سفیدی اور روٹی میں جذب ہو جائے۔ پھر نیچے اتار کر سرد کرے ایک شافہ روز صبح کو انداام نہانی میں رکھے۔ شام کو اسے نکال کر طہارت کرے تین دن اسی طرح کرے اور روزانہ ہمبستر ہو دے اور قبل ہمبستری کے تھوڑی افیم پانی میں گھول کر انداام نہانی پر لیپ کرے تو تین ماہ تک اسی طرح کرے۔ مجرب و آزمودہ ہے۔

## برائے زن عقیمہ و استقرار حمل



ان ہی عوارضات میں سے ایک عارضہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سی عورتوں کا رحم باہر لکھنے لگتا ہے ایسا ان عورتوں کو ہوتا ہے جن عورتوں کے ساتھ مختلف شکلوں میں جنات ہمبستری کرتے ہیں۔ ان کا علاج یہ ہے۔ تج، مجیٹھ، گل فوفل، مازو بیز، گل دھاوا، کھانڈ ۱۵، ۵ کو توڑے اول سب ادویہ کو کوٹ پیس کر باریک کریں اور پھر کھانڈ ملا کر رکھیں، سخوف تیار کرے۔ خوراک صبح و شام ۲، ۲ ماشہ ہمراہ دودھ، دوسرا نئہ شافہ کا یہ ہے۔ شب یمانی گداخت ایک تولہ، چینیا گوند ۳ ماشہ، گل دھاوا ۲۱ ماشہ، ان تینوں دواؤں کو باریک پیس کر پانی میں ملا کر شافہ تیار کر کے انداام نہانی میں رکھے۔ اسی طرح تین ہفتہ کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ رحم کا باہر نکلنا بند ہو جائے گا۔ اور رحم میں استقرار حمل کی صلاحیت ہو جائے گی مجرب ہے۔

## برائے زن عقیمہ واستقر ارجمند

حمل کے قرار پانے میں ذیل کا یہ نسخہ بھی تاثیر رکھتا ہے فقیر کے تجربہ اور معمول مطب بھی ہے۔ اس نسخہ کی گولیاں تیار کر کے رکھے۔ صبح و شام ہمراہ دو دفعہ تین ماہ سکر کھلائیں انشاء اللہ تعالیٰ زن عقیمہ حاملہ ہوگی۔ تجربہ شاہد ہے کتنی ہی جگہ ایک ہی ماہ میں کامیابی ہو گئی اور ایسا بھی ہوا کہ دو ماہ میں کامیابی ہوئی۔ تیسرا مہ تو نوے فی صدی کامیابی ہوتی ہے۔ وہ نسخہ پر تاثیر یہ ہے بچ، فلفل دراز، ناگر متوجہ، دانہ الاچھی کلاں، کاکز، سینگی، ایک ایک تولہ، شہد اصلی حسب ضرورت، سب ادویہ کو کوٹ چھان کر چنے کے برادر گولی بنالیں۔ خوراک ایک گولی صبح و رات کو دو دفعہ سے لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زن عقیمہ کے شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ صبح و رات کو تین گری بادام شیریں، تین دانے منقشی، ایک بچ شونگل کا ہے۔ سرکھائے انشاء اللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔

## برائے زن عقیمہ واستقرار حمل

اس ضمن میں یہ نسخہ بھی تیر بہدف ہے۔ استعمال کریں اور قدرت خداوندی کا کریں دیکھیں۔ بارہا کا آزمودہ ہے۔

نسخہ: میمعہ سائلہ ۲ ماشہ، برادہ دندان فیل ۳ ماشہ، حب الفار ۲ ماشہ، کوت چھان  
سور کے دانہ کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک: ایک ایک گولی صبح و رات کو دو دو  
کھلانیں۔ ایک ہی ماہ میں مراد پوری ہو گی اور گوہر تمنا سے گود بھر جائے گی ورنہ تین ماہ  
چار میں رکھیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ کامیابی حاصل ہو گی۔ اور حمل قائم رہنے پر استغاثت کے نظر  
سے بھی محفوظ رہے گا۔

برائے زن عقیمہ واستقر ارجمند

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ - فِيهِ فِيهِ فِيهِ  
فِيهِ فِيهِ فِيهِ ذَرَّةٌ ذَرَّةٌ ذَرَّةٌ ذَرَّةٌ ذَرَّةٌ ذَرَّةٌ - إِلَّا إِلَّا إِلَّا  
إِلَّا إِلَّا إِلَّا - حَقٌّ حَقٌّ حَقٌّ حَقٌّ حَقٌّ حَقٌّ - أَهْيَا أَشْرَاهِيَا أَذْوَنِي أَهْيَا  
قُدْسٌ قُدْسٌ قُدْسٌ رَبُّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ بِرَحْمَتِكَ  
تَآزَّ حَمَّ الرَّاحِمِينَ -

یا از حمادہ رہیں  
بالاعزیمت کی ترکیب یہ ہے کہ بعد ایام حیض کے مندرجہ بالاعزیمت کے  
مندرجہ بالاعزیمت کی ترکیب یہ ہے کہ بعد ایام حیض کے مندرجہ بالاعزیمت کے  
آنکہ تعویذ لکھے۔ تین تعویذ تین دن تک زن عقیمه صحیح نہار منہ پئے اور تین ہی تعویذ زن عقیمه کا  
ٹوہر رات کو بعد نماز عشاء پئے۔ ایک تعویذ زن عقیمه کے گلے میں باندھیں اور ایک تعویذ  
مردا جنی کر میں باندھے۔ اور تینوں رات متواتر ہم صحبت ہوں۔ انشاء اللہ حمل قرار پائے  
گا۔ اول تو پہلے ہی مہینہ ورنہ تین ماہ اسی ترکیب کو کام میں لائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ حمل قرار  
پائے گا۔

# برائے زن عقیمہ واستقر ارجمند

مندرجہ ذیل عزیمت کے عروج ماہ میں بروز اتوار سورج نکلنے سے پہلے دس تھویں  
لکھ۔ ایک عورت کے گلے میں باندھے۔ دوسرا تھویں ناف پر باندھے اور تیسرا تھویں زان  
لکھ۔ کاشوہ راپنی کمر میں باندھے۔ باقی سات تھویں ایک روز صبح نہار منہ عورت پالی میں دھو  
کر پئے۔ انشاء اللہ تعالیٰ حمل قرار پائے گا۔ اگر اول ماہ کامیابی نہ ہو تو تمن ماہ اسی  
طرح کرے انشاء اللہ کامیابی ہوگی مجبوب ہے۔ وہ عزیمت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى هُوَ هُوَ  
هُوَ هُوَ هُوَ دَدَ دَدَ دَدَ دَدَ شَهَ شَهَ شَهَ شَهَ شَهَ شَهَ شَهَ

السَّاعَةُ حَالٌ.

هودہ هودہ هو هدہ هو هنا الْعَجْلُ الْعَجْلُ الْوَحَا الْوَحَا السَّاعَةُ

### برائے زن عقیمہ واستقرار حمل

مندرجہ ذیل عزیمت کے پانچ تعویذ بروز اتوار صبح سورج نکلنے سے پہلے لکھے۔ ایک تعویذ عورت کے گلے میں باندھے۔ دوسرا تعویذ مرد کی کمر میں باندھے۔ اور تین تعویذ عورت روز تک پہننے کے لیے دیں۔ اور تینوں رات مواصات کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ حمل قرار پائے گا۔ اگر پہلے مہینے حمل قرار نہ پائے تو تین ماہ اسی طرح کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ کامیاب ہوگی۔ وہ عزیمت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى إِلَّا إِلَّا  
إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا دَدَدَدَدَدَدَدَدَدَدَدَهُ هُوَ هُوَ هُوَ  
هُوَ هُوَ هُوَ هُوَ الْكَرِيمُ

### برائے زن عقیمہ واستقرار حمل

مندرجہ ذیل عزیمت کو عروج ماہ میں بروز جمعرات لکھ کر تیار کرے۔ جب زن عقیمہ ایام حیض سے فارغ ہو تو اس عزیمت کا لکھا ہو۔ تعویذ ایک زن عقیمہ کے گلے میں باندھے اور دوسرا تعویذ زن عقیمہ کا شوہر اپنی کمر میں باندھے۔

اور تین تعویذ تین دن تک روز صبح نہار منہ زن عقیمہ پئے۔ اور تینوں شب تہائی اغفار کریں۔ اور مواصات کریں انشاء اللہ تعالیٰ حمل قرار پائے گا۔ اگر اول ماہ حمل قرار نہ پائے تو تین ماہ اسی طرح کریں انشاء اللہ تعالیٰ کامیاب ہوگی اور اولاً ورزینہ پیدا ہوگی۔ عزیمت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْطَةِ  
مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُظْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ  
عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظِيمًا فَكَسَوْنَا

بَادُ وَأَرْجَنَاتٌ مَّا أَنْشَأَنَّهُ خَلْقًا أَخْرَى فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَكْبَرُ كُلُّ الْخَلْقِينَ  
الْعَظِيمَ لَحْمَانَهُ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ

### برائے زن عقیمہ واستقرار حمل

مندرجہ ذیل نقش کو بروز اتوار صبح ۲ تائے بجے کے درمیان لکھ کر تیار کرے اور عقیمہ مندرجہ ذیل عزیمت سے فارغ ہو تو ایک نقش عقیمہ کی کرمیں باندھے۔ دوسرا عقیمہ کے عورت جب ایام حیض سے فارغ ہو تو ایک نقش روزانہ ایک نقش صبح نہار منہ پلاتے رہیں اور ہبستر شوہر کی کرمیں باندھے۔ اور سات نقش روزانہ ایک نقش صبح نہار منہ پلاتے رہیں اور ہبستر ہوئے رہیں انشاء اللہ تعالیٰ ایک ہفتہ کے عرصہ میں حمل قرار پائے گا۔ ورنہ تین ماہ اسی طرح کریں۔ انشاء اللہ کا میابی ہوگی۔ محرب ہے اور معمول مطب ہے۔

۷۸۶

۸	۱۱	۳۱۵۱	۱
۳۱۵۰	۲	۷	۱۲
۳	۳۱۵۳	۹	۶
۱۰	۵	۳	۳۱۵۲

### برائے زن عقیمہ واستقرار حمل

اگر کوئی بے اولاد شخص کتنے ہی طریقے علاج کے اپنا چکا ہو اور کسی صورت بھی کامیاب حاصل نہ ہو رہی ہو تو وہ اس طریقہ علاج سے فائدہ اٹھائے۔ عجیب التاثیر ہے۔ طریقہ یہ

جاداً وَ اور جناتٍ سے مکمل شرطیہ نجات  
ہے کہ اول تو زن عقیبہ اور اس کا شوہر جمعہ کے روز روزہ رکھیں۔ شکر اور بادام میں گریوں سے  
روزہ افطار کریں۔ پانی بالکل نہ پیئیں۔ اگر مرد و عورت پڑھے ہوئے ہوں تو خود وہ نہ عالی  
اس کام کو انجام دے یعنی بعد مغرب مندرجہ ذیل آیت کو چینی کی لپ پلیٹ میں لکھ کر (شہر  
سے) پانی سے دھو کر ایک ہانڈی میں اس پانی کو ڈالیں اور چوبیس دانے مٹر کے لے کر ہر ایک  
مٹر پر بھی ایک ایک مرتبہ وہی آیت پڑھی جائے جو پلیٹ پر لکھی ہے۔ اب ان مٹر کے تمام  
دانوں کو اس ہانڈی میں ڈال کر پکائیں جس میں پلیٹ کا پانی ہے یہاں تک کہ مٹر کل  
جائے۔ پھر ایک مرتبہ سورہ مریم ان دانوں پر پڑھ کر دم کر کے عورت و مرد و دنوں کو بعد نماز  
عشاء کھانے کیلئے دے۔ آدھا، آدھا دنوں کھائیں اور سو جا بھیں اسات رات اسی طرح  
کریں اور آپس میں ہبستر بھی ہوتے رہیں۔ روزہ صرف پہلے دن ہی رکھنا ہے۔ باقی چھ  
رات طشتہ کے پانی میں پکا ہوا مٹر کھاتے رہیں انشاء اللہ تعالیٰ حمل قائم ہو گا۔ اور محفوظ  
سلامت رہے گا۔ مجرب و آزمودہ ہے۔ وہ آیت یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ إِنِّيٰ خِفْتُ الْمَوَالِيَّ مِنْ وَرَائِيْ وَ كَانَتْ  
أَمْرَأَقِيْ عَاقِرَّا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ وَ لِيْتَا يَرِثُنِيْ وَ يَرِثُ مِنْ  
أَلِيْغَقُوبَ وَ أَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّاً۔

### برائے زن عقیمه واستقرار حمل

یہ عمل مندرجہ بالا عمل سے زیادہ زود اثر ہے۔ اگر سابقہ عمل سے بھی ناکامی ہو  
جائے۔ تو اس عمل سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر کسی عورت کو حمل نہ رہتا ہو تو جمعرات و جمعہ کو دن  
میں روزہ رکھیں۔ مرد و عورت دنوں روزہ رکھیں۔ شام کو شکر، بادام اور پانی باہم ملاکر  
شربت تیار کر کے اس سے روزہ افطار کریں۔ بعد نماز عشاء چودہ گری بادام پر ایک ایس مرتبہ  
مندرجہ ذیل آیت پڑھ کر دم کریں اور سات گری عورت کو اور سات گری مرد کو کھانے کو دیں

باجا دا اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
جنات کا کچھ حصہ گزرنے پر ہبستر ہوں انشاء اللہ تعالیٰ حمل قرار پائے گا۔  
دنوں سو جائیں۔ رات کا کچھ حصہ گزرنے پر ہبستر ہوں انشاء اللہ تعالیٰ حمل قرار پائے گا۔  
اور اولاً دنریتہ پیدا ہو گی۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الْمُصَوَّرُ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُ كُلَّمَا فِي  
الْأَرْضِ حَمِيرٌ كَنْفَ يَشَاءُ۔

### برائے زن عقیمه واستقرار حمل

اگر کوئی عورت عقیمہ ہو اور کسی صورت بھی کامیابی حاصل نہ ہو رہی ہو تو اس عمل سے  
فائدہ اٹھائیں۔ ڈھانی تو لہ دیسی اجوائے لے کر صاف کرے اور اس پر یہ آیت  
لَهُمْ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا  
الْمُضْغَةَ عِظِيمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا  
آخَرَ فَتَبَرَّكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَلْقِينَ۔

ایس مرتبہ پڑھے۔ اے مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھے۔ پھر قل  
یا ایها الکفرون لے مرتبہ پڑھے۔ پھر سورہ مزل شریف گیارہ مرتبہ پڑھے اور یہ مرتبہ  
الم نشرح پڑھے اور اجوائے پر دم کر دے۔ اور اسی طرح اتنی ہی مقدار یعنی ۲ تولہ کا لی  
مرج پر پڑھ کر دم کرے۔

خوارک: ۲ دانہ اجوائے اور ایک دانہ کا لی مرچ روز کھاوے۔ متواتر تین ماہ تک  
کھاتے رہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ حمل قرار پائے گا۔ اور اولاً دنریتہ پیدا ہو گی۔

### جس عورت کو حمل قرار نہ پاتا ہو

جس عورت کو حمل قرار نہ پاتا ہو تو اس عزیمت کے گیارہ تعویذ لکھ کر تیار کر کے رکھے۔  
بعد فراغت حیض ایک تعویذ پانی میں دھو کر دو دھی میں ڈال کر پلاۓ۔ بعد نماز مغرب کے گیارہ

باداً وَ أَوْرَجَنَاتٍ مَكِّل قَرْارِيَّة حَلَّتْ رِزْقَنَاهُ بِهِ  
رِوزَتْكَ اِشَاء اللَّهُ تَعَالَى حَلَّ قَرْارِيَّة حَلَّتْ رِزْقَنَاهُ بِهِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ إِنِّي أَنَّكَ أَنْتَ  
الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ  
وَ لَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ۔ إِلَهِي بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَيْهِ  
وَ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ۔

### اگر کسی عقیمه عورت کو حمل نہ ٹھہرتا ہو

اگر کسی عقیمه عورت کو حمل نہ ٹھہرتا ہو تو عروج ماہ میں بروز جمعرات ۲۳ تعویذ لکھ کر تباہ کرے۔ ایام حیض سے فارغ ہونے کے بعد ایک تعویذ عozت اپنے گلے میں باندھے اور ایک تعویذ شوہر اپنی کمر میں باندھے۔ اور ایک تعویذ روزانہ صبح نہار منہ پانی میں دھوکر عورت پیتی رہے۔ ۲۱ دن تک۔ اور گاہے گاہے مردوں عورت ہمستر ہوتے رہا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ اکیس روز میں حمل قرار پائے گا۔ وہ تعویذ یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - هُوَ هُوَ هُوَ هُوَ هُوَ  
هُوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ حَمْ حَمْ حَمْ  
حَمْ حَمْ حَمْ حَمْ حَمْ حَمْ حَمْ حَمْ حَمْ حَمْ حَمْ حَمْ حَمْ حَمْ حَمْ حَمْ حَمْ حَمْ  
قَيْوَمْ قَيْوَمْ قَيْوَمْ قَيْوَمْ قَيْوَمْ قَيْوَمْ قَيْوَمْ

### برائے زن عقیمه واستقرار حمل

عمل بہل الحصول اور آسان مگر مجرب اور زود اثر ہے۔ فقیر کا بارہا کا آزمایا ہوا ہے۔ فقیر کا مشاہدہ ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی بھی خالی گودیں بھر دی ہیں۔ اور بے اولادوں کو صاحب اولاد بنادیا ہے۔

ترکیب یہ ہے۔ کہ جب زن عقیمه حیض کے ایام سے فارغ ہووے تو اس آیت کو

باداً وَ أَوْرَجَنَاتٍ مَكِّل شَرْطِيَّة نُجَاتٍ  
بَابٌ: ۵  
بَعْدَ نَهَارَ مَغْرِبِ زَانِ عَقِيمَةِ اِسْكَنِيِّ بَوْلَى كَوْحَانَكَ تَمَنَّ  
تَمَنَّ رَوْلَى مِيَثَمَى يَكَانَى چَبَى۔ اُور تَمَنَّ دَنْ تَكَ رَاتِ مِسْ شُوَهَرَ سَمَاسَتَ كَرَے۔  
دَنْ تَكَ رَوْلَى مِيَثَمَى يَكَانَى چَبَى۔ اُگر پَلَيْهِ مِهِينَةَ كَمِيَابِيَّ نَهَ، تو تَمَنَّ مَاهَ تَكَ اِسْ تَرْكِيبَ كَوْكَامَ  
اِشَاء اللَّهُ تَعَالَى حَلَّ قَرْارِيَّة حَلَّتْ رِزْقَنَاهُ بِهِ۔ اِشَاء اللَّهُ كَمِيَابِيَّ ہوَگِي۔ وَهَا آیَتُ شَرِيفَہ یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا ذَالْعَزِيزَ وَالْمُلِكَ الْعَظِيمِ  
يَا رَحْمَنَ يَا سَتَارِيَّا غَفَارِيَّا اَحَدُ يَا صَمَدُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ  
خَلْقِهِ مُحَمَّدٌ وَآلِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

### برائے زن عقیمه واستقرار حمل

اَمْ يَا مُصَوِّرَ كَنْقَشَ عَدَدِيَ اُور عَرَبِيَ لَكَھے بِرَوْز جَمِعَرَاتِ مِیں لَكَھے۔ ۲۳ نَقْشَ عَدَدِيَ  
لَكَھے اُرَایِکَ نَقْشَ عَرَبِيَ لَكَھے۔ جَب زَنْ عَقِيمَهِ حِيْضَ کے ایام سے فَارْغَ ہو جائے تو ایک نَقْشَ  
عَدَدِيَ زَنْ عَقِيمَهَ کے گلے میں بَانَدھے باقی نَقْشَ عَدَدِیکَ رَوْز شَامَ کو دَوْدَھِ میں گَھوْلَ کر پئے  
اوْر چَھوَارَے پَر ۳۳۶ مَرْتَبَهِ يَا مُصَوِّرَ پُڑھَ کر دَمَ کر کے مَرْدَ کو كھلَائے۔ اُور رَاتِ  
مِیں دُونُوں مَرْدَوْنَ عَوْرَتَ ہَمِسْتَرَ ہُوُں۔ پَانِچَ رَوْزَیِّیِّ عَمَلِ جَارِیِّ رَحْمَیِّ۔ بَعْدَهُ ایک نَقْشَ عَرَبِيَ جَوَ  
پَلَیْهِ سے تَيَارَ ہُو، اَسَے زَنْ عَقِيمَهَ کَنَافَ کَنَافَ کَنَافَ کَنَافَ کَنَافَ کَنَافَ کَنَافَ کَنَافَ کَنَافَ  
مَلْثُ عَرَبِيَ یہ ہے۔

مُصَوِّر	مُصَوِّر	مُصَوِّر
مُصَوِّر	مُصَوِّر	مُصَوِّر
مُصَوِّر	مُصَوِّر	مُصَوِّر

باداً وَ اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات 314  
اگر پہلے مہینہ کامیابی نہ ہو تو تین ماہ تک یہ عمل جاری رکھیں۔ عربی نقش میں، مم، مل،  
کے منہ کھلنے رکھنا چاہیے۔ انشاء اللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی اور نقش عددی اگلے صفحہ پر ملاحظہ  
فرمائیں۔

۷۸۶

۸۳	۸۷	۹۰	۷۶
۸۹	۷۷	۸۲	۸۸
۷۸	۹۲	۸۵	۸۱
۸۶	۸۰	۷۹	۹۱

### برائے زن عقیمه واستقرار حمل

اگر کوئی شخص اولاد سے بالکل ہی مایوس ہو چکا ہو اور میاں بیوی علاج معالجہ کرائے  
تھک چکے ہوں تو وہ لوگ تین دن تک اس عمل کو کریں۔ انشاء اللہ قسمت بار آور ہوگی۔ بحکم  
اللہی اولاد نصیب ہوگی۔ طریقہ عمل یہ ہے کہ مندرجہ ذیل آیت شریفہ کو زن عقیمه اپنے نام  
کے اعداد کے مطابق پڑھئے۔ اور اس کا شوہر بھی اپنے نام کے اعداد کے مطابق پڑھئے۔  
انشاء اللہ تعالیٰ عرصہ تین دن کے اندر حمل قرار پائے گا۔ اور انشاء اللہ اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَ  
إِنَّا لَمُؤْسِعُونَ طَوَ الْأَرْضَ فَرَشَنَهَا فَنِعْمَ الْمِهْدُونَ۔

### برائے زن عقیمه واستقرار حمل

مندرجہ بالا آیت کی دوسری ترکیب یہ ہے کہ ۲ انڈے لیوے، ایساں کر چیل کر  
ٹھاف کرے اور ایک انڈے پر وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُؤْسِعُونَ لکھے  
اور یہ انڈا بعد نماز عشاء مرد کھائے اور دوسرے انڈے پر یہ آیت وَالْأَرْضَ فَرَشَنَهَا  
فَنِعْمَ الْمِهْدُونَ۔ لکھے اور اس دوسرے انڈے کو بعد نماز عشاء عورت کھائے یہ مل  
نہن ماہ تک جاری رکھیں۔ اس دوران گاہ بگاہ ہبستر بھی ہوتے رہیں انشاء اللہ مایوسی خوشی  
میں بدل جائے گی اور حمل قرار پائے گا اور صاحب اولاد ہوں گے۔

### برائے زن عقیمه واستقرار حمل

یہ ایک نادر و نایاب عمل ہے جو کہ استاد بکرم کا خاص عطا یہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک انار  
کے دانے نکال لے۔ ان کو سامنے رکھ کر سورہ یسین شریف پڑھئے اور ہر نہیں  
پڑانار کے دانوں پر دم کرتا رہے۔ پوری سورۃ کے پڑھنے کے بعد ایک پاؤ کشمکش اور پاؤ  
بھر جنے ہوئے چنے لے کر بچوں کو تقسیم کرے اور ایصال ثواب کرے۔ اور وہ انار کے  
دانے مرد و عورت تین دن تک صبح و شام۔۔۔۔۔ دانہ روز کھائیں۔ تیرے دن بعد نماز  
مغرب باقی دانے آدھے آدھے مرد و عورت دونوں کھالیں۔ اور تینوں رات ہبستر  
ہوں۔ انشاء اللہ تعالیٰ حمل قرار پائے گا۔ مجبوب ہے۔

### برائے زن عقیمه واستقرار حمل

مندرجہ ذیل نقش معظم کو بروز جمعراتے عدد لکھ کر تیار کرے۔ ایک نقش عورت کے  
گلے میں باندھے اور دوسرنقش مرد اپنی کمر میں باندھے، باقی پانچ عدد روزانہ ایک نقش

دودھ میں دھوکر آدھا، آدھا مرد و عورت دونوں پیسیں۔ اور متواتر پانچ رات تک ہم مجرم ہوتے رہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ حمل قرار پائے گا۔ مجبوب ہے۔

### برائے زن عقیمه واستقرار حمل

۷۸۶

یا کافی	یا علیٰ	یا منان
یا قوی	یا مصور	یادیان
یا حنان	یا براہان	یاباق

### برائے زن عقیمه واستقرار حمل

یہ عمل عقیمه عورتوں اور عقیم مردوں کیلئے نعمت غیر مترقبہ اور فوائد عظیمہ کا حامل ہے۔ مندرجہ ذیل آیت کو میدے کی مٹھائی پر لکھے اور تہائی میں بیٹھ کر لکھے تاکہ سوائے زن عقیمہ، زن عقیمہ کے شوہر عقیم مرد، کے کسی اور کسی نظر نہ پڑے۔ روزانہ تازہ مٹھائی پر لکھے۔ تین دن تک۔ اگر بھی ہوئی مٹھائی میسر نہ ہو تو اس آیت کو کاغذ پر لکھ کر دودھ میں گھول کر پیسیں۔ تعویذ جمعہ کی رات کو لکھے اور ایام حیض سے فارغ ہونے کے بعد دیں۔ دونوں مرد و عورت پیسیں۔ تین روز تک اور روز رات کو جماع بھی کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ حمل قرار پائے گا۔ مجبوب ہے۔ آیت یہ ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

باب: ۵

جارد اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَّ  
 اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ طِإِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ پوری۔ وَبِحَقِّ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔  
آخرنک۔

چھ ماہ گزرنے کے بعد اس آیت کو لکھ کر موم جامہ کر کے حاملہ کی کمر میں باندھیں اور پورے وقت تک بندھا رہنے دیں۔ جب درہ زہ شروع ہو تو کھول کر الگ رکھیں۔ اور پھر کے گلے میں باندھ دیں۔ بحکم ربی و برکت اس آیت کریمہ اولاد زینہ پیدا ہو اور آفات و بیلیات سے محفوظ رہے۔ مجبوب و آزمودہ ہے۔ وہ آیات یہ ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَوْ أَنْزَلْنَا هُذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ  
لَرَأَيْتَهُ خَائِشًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ  
الرَّحِيمِ وَلَوْاَنَ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ  
كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ۔ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ  
خَلْقِهِ مُحَمَّدٌ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔

### عقیمه عورتوں کے واسطے

ان آیات کو ہر کی جھلی پر لکھئے۔ عروج ماہ میں یا نوچندی جمعرات کو یاد و مری جمعرات کو لکھ کر زن عقیمه کے گلے میں باندھے اور بچوں کو شیرینی تقسیم کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ تھوڑے ہی عرصہ میں زن عقیمه حاملہ ہو جائے۔ مجبوب ہے۔ وہ آیات یہ ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَوْاَنَ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ  
قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ۔ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔

### اولاد سے مایوس افراد کیلئے

اگر کوئی شخص اولاد کی طرف سے بالکل ہی مایوس ہو چکا ہو اور تنگ آ کر علاج وغیرہ

جادواورجنات سے مکمل شرطیہ نجات  
بھی ترک کر چکا ہو۔ تو دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ مندرجہ ذیل آیت عروج ماہ میں بروز پہنچنے بعد نماز عشاء شروع کریں۔ اول و آخر ۱۱۔ ۱۱ مرتبہ درود شریف پڑھیں اور آیت ۵ سو پچاس مرتبہ مرد اور ۵ سو پچاس مرتبہ عورت یعنی دونوں گیارہ سو مرتبہ پڑھیں۔ یعنی دونوں اس مرتبہ مرد اور ۵ سو پچاس مرتبہ عورت یعنی دونوں گیارہ سو مرتبہ پڑھیں۔ متوالہ سانچھے دن تک پڑھنا ہے۔ وقتاً فوچتاً جو بستر بھی ہوتے رہیں۔ انشاء اللہ اس عرصہ میں طالبین اولاد کو کامیابی ہو گی۔ اور زن عقیمه حاملہ ہو گی۔ وہ آیت شریف یہ ہے۔

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ  
ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ۔**

### برائے زن عقیمه واستقرار حمل

اس نقش اسیروں کو چاندی کے پترے پر کنڈہ کر کے کپڑے کی تھیلی میں بند کر کے زن عقیمه کے گلے میں باندھیں اور روزانہ صبح و شام تھیلی سے نکال کر دھو کر زن عقیمه پتی رہے تین ماہ تک باندھ کر رکھے اور روزانہ صبح شام پانی پتی رہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ زن عقیمه کو حمل فرار پائے گا۔ اور زن عقیمه صاحب اولاد ہو گی۔ مجبوب ہے۔

۷۸۶

ب	۱۲	۳	م
۲	۳۱	۱	۱۳
۲۲	۵	۱۰	۱
۴	۰	۳۳	و

یا مُبْدِی عِلَّتِ فَلَاسِ بَنْتِ فَلَاسِ کو صاحب اولاد کر دے

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاسْتَقْرِ اِرْ حَمْلٍ

مندرجہ ذیل آیت کو عروج ماہ میں بروز جمعرات شروع کرے روزانہ ۱۷۵ مرجب پڑھ۔ ۹۰ دن تک انشاء اللہ انہی دنوں میں زن عقیمه کو حمل قرار پائے گا۔ طالبین اولاد کو کامیابی ہوگی۔ وہ آیتہ کریمہ یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ لَا تَذَرْ فِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ (پارہ ۱۴۔ رکوع)

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاسْتَقْرِ اِرْ حَمْلٍ

جو حضرات طالب اولاد ہوئی اور مایوس ہو چکے ہوں وہ اس عمل کو کام میں لا بھی اور فائدہ اٹھائیں۔ چالیس عدد لوگوں کو پی دائے لے کر ہر لوگ پرسات مرتبہ مندرجہ ذیل آیت پڑھ کر زن عقیمه کو دے کہ وہ روزِ راث میں ایک لوگ کھائے اور شوہر سے ہبستر ہوتی رہے۔ انشاء اللہ اس عرصہ میں حمل قرار پائے گا۔ اگر حمل ہو جائے تو لوگ کھانی بند کر دے باقی ماندہ لوگوں کو انگور کی درخت کی جڑ میں گاڑ دے۔ اور حفاظت حمل کے نقش استعمال کرے۔ انشاء اللہ طالب اولاد کو کامیابی حاصل ہوگی۔ وہ آیت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَوْ كَلْمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِيَ يَغْشَاهُ مِنْ فُوقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُنْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٌ۔

## عقیمه عورتوں کے واسطے

مندرجہ ذیل عمل طالبین اولاد کیلئے عجیب و غریب ہے عقیمه عورت ایک ہفتہ تک روزہ

بازار اور جنات سے افطار کرے اور دن میں روزانہ ایک ہزار مرتبہ آنباری شکر اور بادام ونگی سے افطار کرے۔ ایک جلسہ میں اپوری تعداد پڑھے یا کئی جلسوں میں۔ اور سماں روز بھکر اور رات میں شوہرنامدار سے مواصلت کرے۔ انشاء اللہ حمل قرار پائے۔

رزور کجھ اور رات میں عمليات تحریر ہو چکے ہیں۔ اللہ جل شان اپنی رحمت کا مل پیاس تک استقر ار حمل کے عمليات تحریر کرے اور جملہ خرافات کو دور فرمائے۔ آئین۔ اب ایک مل زن کے ان عمليات کو کامیاب کرے اور جملہ خرافات کو دور فرمائے۔ آئین۔ اب ایک مل زن پہنچ کی شناخت کا تحریر کرتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ یا نہیں

پڑھا۔

## شاخت برائے زن عقیمه

شاخت برائے زن عقیمه کہ صاحب اولاد ہوگی یا نہیں۔ زن عقیمه سے جمعرات کے دن روزہ رکھاں ہیں۔ اور دودھ سے روزہ افطار کرائیں۔ زن عقیمه جتنا دودھ پی سکتی ہو اتنا دودھ کے لئے کراس پر سورہ مزمل شریف کے مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ اس دودھ سے روزہ افطار کرائیں۔ اگر دودھ ہضم ہو گیا تو انشاء اللہ تعالیٰ زن عقیمه حاملہ ہو سکتی ہے۔ علاج کرائیں۔ اگر دودھ ہضم نہ ہو تو خدا کی مرضی۔ زن عقیمه صبر کرے اور کسی معجزہ صاحب اولاد ہوگی۔ اور اگر دودھ ہضم نہ ہو تو خدا کی مرضی۔ زن عقیمه صبر کرے اور کسی معجزہ کا انتظار کرے۔ قدرت خداوندی سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ وہ دینے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ نہ ہے تو کسی کا اس پر زور نہیں ہے۔

## دفع بانجھ پن اور استقطاب حمل

اسم یا صبور کے نقش اور عمل کے سلسلے میں عالمین و کاملین سے دو طریقے منسوب ہیں اور یہ دونوں طریقے ہی اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی مؤثر اور مفید ثابت ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ عورت کے قد کا ڈورانا پا جائے۔ ڈورا سرخ رنگ

کا ہو۔ اس کے بعد اس ڈوڑے کے برابر چھ ڈوڑے اور بھی شامل کر لیے جائیں۔ کل سات ڈوڑوں پر سات گردہ لگائی جائیں۔ ہر ڈوڑے کے دائرے میں **الصَّبُورُ لِإِلَهٖه** عورت کی کمر پر باندھ دیا جائے۔ اور پا کی تاپا کی ہر حالت میں یہ ڈوڑا بندہ رہنا چاہیے۔ ان شاء اللہ تین ماہ کے اندر حمل قرار پائے گا۔

بھی عمل ان عورتوں کے لیے بھی کارگر ہے جن کے حمل بھرنے کے بعد بار بار استھانا ہو جاتا ہو۔ اس عمل کے بعد ان شاء اللہ استھانیں ہو گا۔ کئی دفعہ کا مجبوب ہے۔

الصبور کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کا نقش مریع ذوالکتاب تحریر کر کے عورت کے گلے میں ڈال دیں۔ اور مشاث گیارہ عدد لکھ کر گیارہ روز تک عورت کو عشاء کے بعد ایک نقش پانی میں گھول کر پینے کی ہدایت کریں۔ ان شاء اللہ تین ماہ کے اندر اندر حمل قرار پائے گا۔ اور استھانہ ہو گا۔

نقش یہ ہے۔

ر	و	ب	ص
۱	۹۱	۱۹۹	۷
۹۲	۳	۳	۱۹۸
۵	۱۹۷	۹۳	۳

اولاً و نرینہ پیدا ہو۔

حمل کے پہلے یادوسرے یا تیرے مہینے میں اس آیت کو لکھ کر عورت کی کمر میں

پینے کا نقش یہ ہے۔

۱۰۰	۹۵	۱۰۳
۱۰۲	۹۹	۹۷
۹۶	۱۰۳	۹۸

## برائے اولاً و نرینہ

جو عورت سوائے لڑکی کے لڑکا ن جنتی ہو تو حمل پر تین مہینے گزرنے سے پہلے ہر کی جلی پر زعفران اور گلاب سے ان آیات کو لکھے اور حاملہ کے گلے میں باندھے۔

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغْيِضُ الْأَرْضَ حَمْدٌ وَمَا تَزَدَّدُ  
وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِيُقْدَارٍ ۝ عَالِمٌ الْغَيْبٌ وَالشَّهَادَةُ الْكَبِيرُ  
الْمُتَعَالٌ ۝ يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ نِاسُمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ  
لَهُ مِنْ قَبْلٍ سَمِيًّا ۝ بِحَقِّ مَرْيَمَ وَعِنْسِيٍّ ابْنَنَا صَالِحًا طَوِيلًا

الْعُمُرُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
جب حمل اڑھائی ماہ کے قریب ہو اور تین ماہ کامل ن گزرے ہوں تو صبح کی نماز کے بعد باضواں درود شریف پھر سورہ فاتحہ پھر سورہ بقرہ اللہ ذلیک الکتاب لاریب فیہ تک پڑھیں اور نئے مٹی کے آبنوارہ میں پانی لے کر اس پر دم کر کے حاملہ کو پلا دیں سات دن تک نہ غسل کریں ان شاء اللہ لڑکا پیدا ہو گا۔

شرطیہ حمل میں اگر عورت کی واہنی پسلی پر سورۃ علی (پ ۳۰) لکھ دیں تو ان شاء اللہ

باندھیں ان شاء اللہ کا پیدا ہوگا۔


فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوا لَا تَخْفُ وَبَشِّرُوهُ بِغُلَامٍ  
عَلَيْهِ فَاقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجَزُ  
عَقِيمٌ<sup>۰</sup> قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ<sup>۰</sup>  
سورہ یوسف اس طرح لکھے کہ کوئی حرف مٹا ہوانہ ہو تو یہ بنا کر عورت کے گھر میں  
ڈالے ان شاء اللہ کا ہی پیدا ہوگا۔

### حصولِ اولاً دریشہ

سات عدد لوگ سالم لے کر ہر ایک اونگ پر ایک ایک مرتبہ سورہ یسین شریف من  
بسم اللہ اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر دم کریں۔ اور عورت کو حمل کے تیرے میں  
کے شروع میں روزانہ ایک اونگ کپسول یا ملائی میں نہار منہ کھلانے کی ہدایت کریں۔  
سات یوم بنانگہ اونگ کھائے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ کا پیدا ہوگا۔

### عورتوں کے لیے حفاظت حمل کے مجرب ترین روحانی علاج

#### باب نمبر 6



## پیغام شفاء

جسمانی یہماریوں کا روحانی علاج

ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مندرجہ ذیل جسمانی یہماریوں سے صرف ایک ہی باردم کروانے سے فوراً مکمل شرطیہ نجات حاصل کریں۔

بلڈ پریشر

کالا یرقان

شوگر

بواسیر

دمسہ

ہر قسم کی پتھری

انشاء اللہ تعالیٰ صرف پہلے ہی ہفتے میں رزلٹ آپ کے سامنے ہو گا ہمارے علاج و طریقہ کار کا پہلے تجربہ کریں اور بعد میں دنیا کو بتائیں۔

ہمارے ہاں مندرجہ بالا جسمانی یہماریوں سے نجات حاصل کرنے کے عملیات و تعویذات بھی سکھائے جاتے ہیں، فوری اثر کرنے والے عملیات و تعویذات سکھنے کے خواہش مند حضرات رابطہ کریں ہدیہ 4000 ہزار روپے

روحانی و جسمانی معانج حکیم حافظ عبد الرؤف ماہر عملیات و تعویذات

مرکز طبی و روحانی دارالشفاء تو حید پارک نزد گول مسجد امامیہ کالونی شاہدرہ لاہور

0300-4347214-0345-4190427

## برائے حفاظتِ حمل

جن عورتوں کا حمل خام گر جاتا ہو یعنی دوسرے، تیسرا یا پانچوں میں سماں مہینہ نئے ہو جاتا ہو تو اس کے لئے لال دھاگہ لاوے اور سات تار کا گندہ بناؤے، اس میں سات گردہ لگاؤے اور ہر گردہ پر سورہ طارق سات مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور دوسرے مہینے کی کمر میں باندھے۔ تا وضع حمل کر میں بندھار بھئے دیں۔ جب پیدائش کا وقت قریب آئے۔ گندہ کھول کر رکھیں۔ بعد ولادت کے بچے کے گلے میں باندھیں۔ چاہیں روز کے زچہ و بچہ کے واسطے دوسرے نقوش حفاظت وغیرہ کے لکھ کر مجھے میں ڈالیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ زچہ و بچہ دونوں ام الصبيان وغیرہ سے محفوظ و مامون رہیں گے۔

## برائے حفاظتِ حمل

۷۸۲

۱۰۳۰	۱۰۲۲	۱۰۱۰	۱۰۳۶
۱۰۱۲	۱۰۳۲	۱۰۳۲	۱۰۲۲
۱۰۳۰	۱۰۱۲	۱۰۲۰	۱۰۳۲
۱۰۱۸	۱۰۲۸	۱۰۳۸	۱۰۱۲

حفظت ازم الصبيان و کفتار ان و ثمرہ ان و جو گیان و مسان خام و پختہ کیلئے اس نقش کو لکھ کر مومن جامہ کر کے حاملہ کی کمر میں باندھے تا وضع حمل بندھار بھئے دیں۔ بعد ولادت

بِارَادُ اور جناتٍ مَكْمُلٍ شرطیہ نجات  
 تَعْبُدُونَ وَ لَا آتَتُمْ لِعِبِيدَوْنَ مَا أَغْبَدُ وَ لَا آتَيْتُمْ مَا عَبَدْتُمْ وَ  
 لَا آتَتُمْ لِعِبِيدَوْنَ مَا أَعْبَدُ تَلْكُمْ دِينِكُمْ وَ لِي دِينِي۔ الیہی بخیرت اس  
 ایجھا آنچہ مسان و مسانی کہ در بدن فلاں طفل بن فلانہ باشد دور شود  
 فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔

### برائے حفاظتِ حمل

اگر کسی عورت کا خام حمل گر جاتا ہو یا حمل ٹھہر تانہ ہو تو حفاظتِ حمل کے واسطے ان آیات کو  
 لکھ کر تعویذ بنا کر ڈوری میں سی کر عورت کے پیٹ پر ناف کے نیچے باندھے۔ ان شاء اللہ  
 تعالیٰ حمل کی حفاظت ہو گی اور تاوضع حمل اور آئندہ بعد ولادت بھی محفوظ و مامون رہے گا۔  
 تعالیٰ حمل کی حفاظت ہو گئی میں باندھ دیں۔ بعد چالیس روز حفاظتِ جان  
 بعد ولادت اس تعویذ کو کھول کر بچہ کے گلے میں باندھ دیں۔ بحکم ربی بچہ عمر دراز کو پہنچے گا۔ وہ آیات یہ  
 کہ نقوش لکھ کر زچہ و بچہ کے گلے میں باندھ دیں۔ بحکم ربی بچہ عمر دراز کو پہنچے گا۔ وہ آیات یہ  
 ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ أَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَ مَا  
 تَغْيِضُ الْأَرْحَامُ وَ مَا تَرْدَادُ كُلَّ شَنِي عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ يِلَيْهَا  
 النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَنِي عَظِيمٌ۔

اور ان ہی آیات کو حاملہ کو حفظ یاد کرو ایس ہر نماز کے بعد تم مرتباً پڑھتی رہے اور  
 اگر حاملہ کو یاد نہ ہو سکیں تو اس کا شوہر پڑھتا رہے ان شاء اللہ تعالیٰ حمل محفوظ رہے گا۔

### برائے حفاظتِ حمل

عامل کے پاس ہر قسم کے طالب اور حاجت مند آتے ہیں اور ان میں مسلمان اور

جادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
 بچے کے گلے میں باندھ دیں۔ اور مٹی کے چار کورے کٹوروں پر اس نقش کو لکھ کر آنکھ پر  
 پتاۓ تاکہ سرخ ہو جائیں۔ پھر جس چار پاتی پر بچہ کو سلاتے ہوں اس کے چاروں پا پر  
 کے نیچے ایک ایک سکورہ رکھے۔ ان شاء اللہ زچہ و بچہ محفوظ رہیں۔ چالیس روز کے بعد  
 حفاظتِ جان کے واسطے تعویذات لکھ کر گلے میں ڈالیں۔ ان شاء اللہ زچہ و بچہ دنوں  
 حفاظت میں رہیں گے اور مامون رہیں گے۔

### برائے حفاظتِ حمل

یہ تعویذ حفاظتِ حمل کے بارے میں اکیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اور عجیب التاثیر ہے۔  
 ایک سفید کاغذ پر ان آیات کو بروز جمعرات، جمعہ، اتوار، یا سوموار کو لکھ کر رکھے اور سمات  
 سویاں لا کر ہر سوئی پرے۔ مرتباً مندرجہ ذیل عزیمت پڑھ کر دم کرے اور تعویذ میں چھید  
 کرتا جائے۔ پھر تعویذ بنا کر موم جامہ کر کے حاملہ کے گلے میں باندھے۔ تعویذ زیر ناف  
 تک لیکارہنا چاہیے۔ تاوضع حمل حاملہ کے گلے میں رہے گا۔ بعد ولادت بچے کے گلے  
 میں باندھ دیں۔ چالیس روز کے بعد دوسرے تعویذات حفاظت والے زچہ و بچہ کے گلے  
 میں باندھ دیں۔ ان شاء اللہ زچہ و بچہ ہر طرح کے مسان خام و پختہ سے محفوظ رہیں گے۔ وہ  
 آیات یہ ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةٌ عِمْرَانَ رَبِّي إِنِّي نَذَرْتُ  
 لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔  
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ سُورَةِ يُونُسِ إِلَهِي بِحُرْمَةِ سُورَةِ هُودِ إِلَهِي بِحُرْمَةِ  
 سُورَةِ يُوسُفَ إِلَهِي بِحُرْمَةِ سُورَةِ يَسِيلِنَ إِلَهِي بِحُرْمَةِ سُورَةِ  
 مُزَمِّلِ إِلَهِي بِحُرْمَةِ سُورَةِ وَالضَّحْيَ إِلَهِي بِحُرْمَةِ سُورَةِ الْمُ  
 نَشَرَخِ إِلَهِي بِحُرْمَةِ سُورَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكُفَّارُ لَا أَعْبُدُ مَا

بَابٌ: ۶  
اہل ہند بھی ہوتے ہیں اہل ہند کے لیے یہ نقش استعمال میں لاکھیں یا کوئی بھی گندہ بن کر باندھیں۔ تاکہ کلام الہی کی بے ادبی اور نیحہ مرتی نہ ہو۔ یہ نقش ہر اہل ہند کو دیا جاسکتا ہے۔ اس کو لکھ کر مومن جامہ کر کے دھونی دے کر ڈوری میں سی کر حاملہ عورت کے دوسرا یا تیرے میں باندھا جائے اور وضع حمل تک بندھارہنے دیں۔ درمیان میں نہ کھولیں بعد ولادت بچہ کے گلے میں باندھ دیں۔ پھر چالیس روز کے بعد حفاظت جان و سلامتی والے نقش لکھ کر زچ و بچہ کے گلے میں باندھیں ان شاء اللہ تعالیٰ زچ و بچہ دونوں محفوظ و مامون رہیں گے۔ مجرب ہے۔

۷۸۶

۱۷۷۱	۱۷۷۲	۱۷۷۳	۱۷۷۴
۱۷۷۶	۱۷۶۵	۱۷۷۰	۱۷۷۵
۱۷۶۶	۱۷۷۹	۱۷۷۲	۱۷۶۹
۱۷۳۷	۱۷۶۸	۱۷۶۷	۱۷۷۸

## برائے حفاظتِ حمل

اگر کسی عورت کو دوسرے میں حمل ضائع ہونے کا عارضہ ہو تو عامل کو چاہیے کہ ان آیات کو بروز جمعرات، جمعہ یا سوموار کو لکھ کر تعویذ بن کر حاملہ کی کمر میں باندھے۔ ان شاء اللہ حمل محفوظ رہے گا۔ اور اس قاطع نہ ہوگا۔ وہ آیات یہ ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّهَا عَلَيْهَا حَافِظٌ

باب: ۶

فَلَيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَآءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالثَّرَائِبِ۔ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرَحَمُ الرَّاحِمِينَ

اگر کسی عورت کا حمل خام گر جاتا ہو

اگر کسی عورت کا حمل خام گر جاتا ہو یا دوران حمل مصائب و تکالیف کا سامنا رہتا ہو اسی کے بچے نہ جیتے ہوں پیدا ہوتے ہی سوکھ کر مر جاتے ہوں یا کچھ دن کے بعد سوکھ جاتے ہوں یا بچے تدرست پیدا ہوتے ہوں مگر کچھ دن کے بعد سوکھنے شروع ہو جاتے ہوں یہاں تک کہ مر جاتے ہوں ایسی تمام عورتوں کیلئے مندرجہ ذیل نقش کو لکھ کر حاملہ کی کمر و گلے میں ایک ایک تعویذ باندھیں اور تاوضع حمل بندھارہنے دیں۔ بعد ولادت کے بچے کے گلے میں باندھ دیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ حمل کی حفاظت رہے گی۔ اور بچہ بھی صحیح و سلامت پیدا ہوگا۔ اور آئندہ بھی سلامت و محفوظ رہے گا۔ عمر دراز کو پہنچے گا۔ چھ سال تک یہ تعویذ بچے کے گلے میں رہنا چاہیے۔

حَمْ عَسْقَ	كَهْيَعَصَ	حَمْ عَسْقَ	حَمْ عَسْقَ
۲۲	۲۷	۳۰	۱۷
۲۹	۱۸	۲۳	۲۸
۱۹	۲۳	۲۵	۲۲
۳۶	۲۱	۲۰	۳۱

حَمْ عَسْقَ مسان و پختہ دور شود كَهْيَعَصَ

باب: ۲

جاوہ اور جنات سے مکمل شرطیہ بحثات  
جن عورتوں کو ایامِ میل کے دوران پستانوں میں خارش اور دودھ پکنے کا عارضہ ہوتا ہے  
یادو دو دو سوکھ جاتا ہواں عورتوں کے واسطے سورہ الحجرات کا نقش لکھ کر ایک عدد حاملہ کے لئے  
میں باندھیں اور ایک حاملہ کی کمر میں باندھیں اور اکیس نقش لکھ کر صبح نہار میں پانی میں دھوکر  
پالیں ان شاء اللہ تعالیٰ خارش دودھ پکنے کی اور سوکھ جانے کی ملت ختم ہوگی اور حاملہ  
مددست و توانار ہے گی۔ اور بچہ بھی الحمد للہ صحیح تولد ہو گا۔ میرب ہے۔ نقش اپر مندرجہ ہے۔

## برائے حفاظتِ حمل

سورۃ الحلقہ (پارہ ۲۹۵) کا نقش لکھ کر زچہ خانہ کی دیوار پر چسپاں کریں۔ ان شاء اللہ  
تعالیٰ زچہ و بچہ محفوظ و سالم رہیں۔ اور حاملہ کی کمر میں باندھنے سے حمل کی حفاظت ہر  
آفات و بلیات سے رہے۔ ایک مرتبہ پوری سورت پڑھ کر پانی پر دم کر کے رکھے۔ اور بچہ  
کو دن میں کئی بار پاٹاں کیں۔ یار و غنی زیتون پر پڑھ کر دم کریں اور تمام بدن پر ملیں۔ ان شاء  
الله تعالیٰ ہر قسم کے مرض سے بچہ محفوظ رہے۔ اور تمام حشرات الارض نیز موزی جانوروں  
سے امن میں رہے۔ اور یہ تیل جسم کے کل اعضا کے دردوں میں بھی نافع اور مفید ہے خواہ  
در کسی کو بھی ہو یا کسی بھی قسم کا درد ہو۔ ان شاء اللہ تعالیٰ دور ہو گا۔ میرب ہے۔

۷۸۲

۲۰۳۲۹	۲۰۳۳۲	۲۰۳۳۶	۲۰۳۲۲
۲۰۳۳۵	۲۰۳۲۳	۲۰۳۲۸	۲۰۳۳۳
۲۰۳۲۲	۲۰۳۳۸	۲۰۳۳۰	۲۰۳۲۷
۲۰۳۳۱	۲۰۳۲۶	۲۰۳۲۵	۲۰۳۲۷

باب: ۱

## برائے حفاظتِ حمل

جن عورتوں کو دوسرے، تیسرا میں اسقاط کا عارضہ ہوان کے والے یہ آیات  
ہرن کی بھلی یا کاغذ پر بروز سو موار، جمعرات یا جمعہ کو لکھ کو تعویذ بنا کر حاملہ کی کمر میں  
باندھنے۔ تاوضع حمل کریں بندھا رہے۔ بعد ولادت پسے کے لگتے میں باندھو دیں۔ ان  
شاء اللہ تعالیٰ بچہ و زچہ دونوں محفوظ رہیں گے۔ وہ آیات یہ ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْقَيْقَى أَخْصَصَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا  
فِيهَا مِنْ رُؤْجَنَاهَا جَعَلْنَاهَا أَبْنَاهَا آيَةً لِلْعَلَمِينَ إِنَّ هَذِهِ أَمْثَالُكُمْ  
أَمَّةٌ وَإِنَّهُمْ وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَاغْبُدُوْنَ وَتَقْطَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ  
إِلَيْنَا رَجْعُونَ۔ (پارہ ۱۱۔ رکو ۴)

## برائے حفاظتِ حمل

۷۸۲

۲۵۷۲۲	۲۵۷۲۶	۲۵۷۲۹	۲۵۷۱۵
۲۵۷۲۸	۲۵۷۱۶	۲۵۷۲۱	۲۵۷۲۷
۲۵۷۱۷	۲۵۷۳۱	۲۵۷۲۳	۲۵۷۲۰
۲۵۷۲۵	۲۵۷۱۹	۲۵۷۱۸	۲۵۷۳۰
سَلِيْقًا	طَلِيْقًا	مَلِيْقًا	عَلِيْقًا

## اگر کسی عورت کا حمل خام گر جاتا ہو

اگر کسی عورت کا حمل خام گر جاتا ہو تو اس کے داہنے پیر کے انگوٹھے سے پیشانی کے بالوں کی جڑ تک لال دھاگہ ناپے اور اس کے برابر سات تار کا ایک گندہ تیار کرے اور گندہ میں سات گردہ لگائے۔ اور ہر گردہ پرسات سات مرتبہ مندرجہ ذیل آیت پڑھ کر دم کرے اور دھونی دے کر حاملہ کے گلے میں دوسرے ہی ماہ باندھے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ حاملہ استقطاب سے محفوظ رہے گی۔ اور گندہ تا وضع حمل باندھے رہے بعد ولادت بچے کے گلے میں باندھیں بعد چالیس روز کے کھول کر دریا میں بہائے اور زچہ بچے کے گلے میں دیگر نقوش حفاظت کے گلے میں ڈالے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ محفوظ و سلامت رہیں گے۔ وہ آیات یہ ہیں۔

وَاصْبِرْ وَمَا صَبَرْكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ  
مِّنَ الْيَمْرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

## برائے حفاظتِ حمل

یہ ذیل کا عمل بھی ان عورتوں کے واسطے مجرب ہے جن کو استقطاب کا عارضہ لاحق ہوا اور بارہائی بچے ضائع و ساقط ہو چکے ہوں۔ تو اس آیت کو لکھ کر حاملہ کی کمر میں دوسرے مینے سے ہی باندھ دیا جائے اور تا وضع حمل بندھا رہنے دیں۔ بعد ولادت کے بچے کے گلے میں باندھ دیں۔ بعد چالیس روز کے وہ تعویذ کسی قبر یا دریا میں ڈال دیں۔ اور حفاظت کے دیگر نقوش لکھ کر زچہ و بچہ کے گلے میں باندھیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ زچہ و بچہ ہر قسم کے آسیب و جنات و مسان خام و پختہ اور جو گیاں و ثمرہاں کی نظر بد سے محفوظ و سلامت رہے۔ بارہا کا آزمایا ہوا ہے۔ پر تاثیر ہے۔ وہ آیات یہ ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ  
إِنْ تَرْدُوا لَا - وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَفْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
حَلِيلًا غَفُورًا - وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِينُ  
الْعَلِيُّمُ - وَلَيَثُو فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا -  
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ -

## جن عورتوں کو بار بار استقطاب کی شکایت ہوتی ہو

جن عورتوں کو بار بار استقطاب کی شکایت ہوتی ہو۔ اور کئی بچے ضائع ہو چکے ہوں تو ان کے واسطے اس نقش کو بروز سو موار میں لکھے۔ اور چالیس پرانے درختوں کے چالیس پتے لاوے اور ایک کورے گھرے میں یا بڑی باندھی میں ڈالے اور دریا کا پانی اور نقش ڈالے پھر باندھی کامنہ بند کر کے خوب پکائے۔ بروز شنبہ کو یہ عمل کرے۔ اور زن حاملہ کو غسل کرائے کسی بڑی شب میں تاکہ پانی زمین پر نہ گرے۔ اسی طرح سات دو شنبہ غسل کرائے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ حمل محفوظ رہے گا اور تا وضع حمل کوئی ضرر نہ ہو گا۔ مجرب ہے نقش مندرجہ ذیل ہے۔

۱۱۵ + ۱۱۶

۲	۳	۱۰
۱۱	۷	۳
۳	۹	۸

## برائے حفاظتِ حمل

جن عورتوں کو پہلے ماہ یا دوسرے، تیسرا ماه اسقاط ہو جاتا ہو یا جن عورتوں کو پانچویں مہینے اسقاط کا خطرہ رہتا ہو۔ چونکہ شرہبان کے اثرات میں پانچواں مہینہ حاملہ کیلئے گراں ہوتا ہے۔ یا جن عورتوں کو ساتویں مہینے اسقاط کا خطرہ رہتا ہو تو ان کیلئے یہ عزیمت سفید کاغذ پر لکھ کر زعفران سے تین تعویذ تیار کریں۔ ایک تعویذ حاملہ کے لگے میں باندھیں دوسرا زن حاملہ کی کمر میں باندھیں اور تیسرا زن حاملہ کی رہنے کی جگہ چوکھت میں اور لگا کمیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ حاملہ تاوضع حمل بحفاظت رہے اور حمل کو کسی طرح کا ضرر نہ ہو بلکہ پوری مدت ہونے پر بچھ سلامت تولد ہوے۔

بعد ولادت حاملہ کی کمر والا تعویذ نومولود بچہ کے لگے میں باندھیں۔ چالیس روز کے بعد دیگر نقش حفاظت بچہ وزچہ کے لگے میں ڈالے ان شاء اللہ تعالیٰ ہر قسم کے خطرات سے محفوظ و مامون رہیں۔ اور بچہ عمر دراز پاؤ۔ مجرب ہے۔ وہ عزیمت یہ ہے۔

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَعُوذُ بِالْوَاحِدِ الصَّادِيقِ وَشَرِّ  
كُلِّ طَارِقٍ بِسْمِ اللَّهِ الشَّافِيِّ بِسْمِ اللَّهِ كَافِيِّ بِسْمِ اللَّهِ مَعَافِيِّ بِسْمِ  
اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ بِمَعَاصِيهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَهُوَ  
السَّمِينُ الْعَلِيمُ وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّفِيعِ وَاللَّهُ يَشْفِي فِيکَ وَفِيکَ وَبِلَا  
يُؤَذِّنِیکَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ  
وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بِرَحْمَتِكَ يَا أَزَحَمَ الرَّاحِمِينَ۔**

## برائے حفاظتِ حمل

بادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات باب: ۲  
پوکے۔ عجیب التاثیر ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ کالے اڑا اور کیکر کے درخت کی چھال رونوں ہموزن لے اور دونوں کا وزن گیارہ تولہ ہونا چاہیے۔ پھر اڑاڑوں پر مندرجہ ذیل عزیمت ۱۱ مرتبہ پڑھ کر دم کرے پھر بروز منگل، بدھ یا ہفتہ نقش لکھے اور تیار کر کے رکھے۔ اور اڑاڑ کے دانوں کو کیکر کی چھال کو ایک منی کی ہانڈی میں ڈالے مریض کے پانچویں پر لکھی ڈالے۔ اور خوب پکاؤ۔ ان شاء اللہ جو بھی آسیب و جنات، خبیث، بدن پر لکھیں پڑیاں، ہری، مری، پری، دیو، کفتاراں، جو گیاں، وغیرہ کا جو بھی اثر ہو گا وہ ان پڑیاں و مژریاں دفع ہو گا۔ اور زن حاملہ کی تکالیف کا دفعیہ ہو گا۔ تمام اثرات جل کر خاک ہوں گے۔ اور زن حاملہ بخیر و عافیت و بحفاظت رہے گی۔ وہ عزیمت یہ ہے۔

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَنْجِقْتُمْ دِيُو، بَجُوتَ، پَرِيتَ، چِرِيلَ، مِزِيلَ،  
لَفِرِيلَ جُو گِيَانَ وَكَفَتَارَانَ وَبَلِيَاتَ وَبَزِيرَى، وَسَرِخَ پَرِى مَسَانَ بَخْتَةَ وَخَامَ وَپَلِيلَ مَسَانَ وَنِيلَانَ  
سَانَ وَأَرِيَانَ مَسَانَ وَسُوكَهَ مَسَانَ وَاسَانَى لَسَانَى جَادُوْنَهَ اَبَدَالَ حَرَفَلِيَ وَعَلَوِيَ كَيَا كَرَايَا هُوَا  
هُوَا هُوَا كَيَا هُوَا۔ آگَ میں جلا یا ہو۔ زیر آب، زیر آتش، گاڑا ہو، ہو میں لٹکا یا ہو۔ بحکم ربِ  
اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ بِمَعَاصِيهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَهُوَ  
السَّمِينُ الْعَلِيمُ وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّفِيعِ وَاللَّهُ يَشْفِي فِيکَ وَفِيکَ وَبِلَا  
يُؤَذِّنِیکَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ  
وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بِرَحْمَتِكَ يَا أَزَحَمَ الرَّاحِمِينَ۔**

۷۸۲

۱۲	۸	۱	۱۳
۲	۱۲ جیرائل سوئیم سوئیم سوئیم میکائل میکائل میکائل	۹	
۱۱	۳ سوئیت آسیب، جن پری و مری و دیو مس ان خام بخت سوئیت گرد بخت خاتم سلیمان عایا اسلام	۷	
۵	۱۰	۱۵	۳

جن عورتوں کو مسان خام یا بختہ ہووے یا کلیان جو گیاں، شرہبان، چڑیاں و دیو پریاں، آسیب و جنات کا خلل ہو اور وہ مانع حمل یا اسقاط کا موجب ہو تو اس نقش سے کام

اگر کسی حاملہ کو اثراتِ سحر کا خلل ہو وے تو اس عزیمت کو لکھ کر فتنہ بنائے اور چنان نو میں جلائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ کامیابی و کامرانی ہو گی۔ یہ فتنے تیار کرے۔ بروز پہنچنے لئے ان شاء اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر و ضرر سے حفاظت رہے گی۔ وہ عزیمت یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الْعَجَلُ الْعَجَلُ الْعَجَلُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ عَلَيْنَا مَلِيْقًا كَلِيْنِيْقًا أَنْتَ تَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ خَلِيْقًا فَكُبِيْرُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاؤُونَ وَجُنُودُ ابْلِيسِ أَجْمَعُونَ۔

اگر کسی عورت کو دورانِ حملِ خون کی شکایت ہو یا درد وغیرہ کی پیٹ میں شدت ہو تو اس نقش کو لکھ کر صبح دوپہر شام پلائے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ پیڑ و کادر دوڑ اور خون کی شکایت بھی دور ہو گی اور حمل کی حفاظت ہو گی۔

و	ج	ح
ط	ه	ا
ب	ز	و

بِاللّٰهِ دُرُدْ دُورْ وَخُونْ بَسْتَهْ شُودْ

اگر کسی عورت کو سابقہ نقش سے خون نہ کے اور حمل گرجانے کا خطرہ ہو تو اس نقش کو لکھ کر ایک کمر میں باندھے اور چند نقش صبح، دوپہر، شام پانی میں دھوکر پلائے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ خون اور درد پیڑ وغیرہ بند ہو گا۔ اور حمل محفوظ رہے گا۔ مجبوب ہے۔

قَابِض	قَابِض	قَابِض

یا قَابِض درد اور خون بستہ شود

جن عورتوں کو دورانِ حمل استھان ہو جاتا ہو یا بار بار خون کے داغ دھبے کی شکایت ہوتی ہو تو اس نقش کو اعداد لکھیں بروز سو موارن صبح بعد فجر ایک نقش کر میں باندھیں۔ دوسرا زن حاملہ کے گلے میں باندھیں۔ باقی ہر تین گھنٹے کے بعد ایک ایک نقش پانی میں دھوکر پلائیں۔ ان شاء اللہ درد اور خون بند ہو گا۔ اور حمل بھی محفوظ و سلامت رہے گا۔

۷۸۶

ض	ا	ب	ق
ض	ا	ب	ض
ا	ق	ض	ب
ب	ض	ق	ا
ا	ب	ض	ض

یاقاً بض در دخون بستہ شود

### برائے حفاظتِ حمل

اسقط حمل والی عورتوں اور خام حمل کے گرجانے والی عورتوں کیلئے اس نقش کو لکھے ایصال ثواب کرے اور شیرینی تقسیم کرے۔ یہ نقش زن حاملہ کی کمر میں باندھے۔ ان شاء اللہ حمل ساقط نہیں ہوگا۔ بلکہ قائم وسلامت رہے گا۔

ابو بکر صدیق

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

عثمان غنی

علی حیدر

### برائے حفاظتِ حمل

جن عورتوں کو اسقاط کی شکایت ہو تو سورہ اخلاص پوری پڑھے اور ساتھ اسی طرح آیارہ مرتبہ قفل ہو اللہ شریف پڑھ کر پانی پر دم کرے اور ۱۱ مرتبہ درود شریف بھی پڑھ کر دم کرے۔ اور پانی ۲۔ ۲ گھنٹے کے بعد پلاۓ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اسقاط کی شکایت کر دم کرے۔ اور حمل محفوظ رہے گا۔ بارہا کا آزمودہ عمل ہے۔ یہی عمل ملکفتند پر بھی پڑھ کر دیا جا سکتا ہے۔

### برائے حفاظتِ حمل

اگر کسی حاملہ کو بغیر کسی درد کے خون جاری ہو جائے تو اس کیلئے سات تار کا ایک گنڈہ بنائے اور ڈوری لال رنگ کی ہو۔ اور سات گرہ کا گنڈہ بنائے اور ہر گرہ پر مندرجہ ذیل آیتے مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور گنڈہ زن حاملہ کی کمر میں باندھے۔ اور ۲۱ مرتبہ پڑھ کر دم کر کے پلاسیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ حمل محفوظ رہے گا۔ وہ عزیمت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - أَصْبُورُ الدِّينِ عَفْوُهُ عَظِيمُ كَرْمُهُ  
اللَّهُ حِلَ ساقط نہیں ہوگا۔ بلکہ قائم وسلامت رہے گا۔

اللَّهُمَّ إِنِّي لَيْسُ كَمِيلٌ شَفِعْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْعَلِيمُ -  
قَدِيمُ الدِّينِ إِنِّي لَيْسُ كَمِيلٌ شَفِعْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْعَلِيمُ -  
غُفرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمُعْصِيرُ - وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ -  
مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ سَيِّدُ الصَّادِقِ الْمُصَدِّقُ الْأُقْرَبُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى  
عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ -

### برائے حفاظتِ حمل

جن عورتوں کو دوران ایامِ حمل میں خون جاری ہو جائے تو آیت الکرسی ۱۱ مرتبہ

بِابٌ ۚ جادوا و رجنات میں شرطیہ نجات 342

اور چاروں قل ۱۱ مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلاۓ ان شاء اللہ تعالیٰ خون بند ہو گا اور سلامت رہے گا۔

## برائے حفاظتِ حمل

اگر کسی عورت کا خون کسی بھی صورت بند نہ ہوتا ہو تو اس عمل سے کام لے۔ پہلے سرخ ریشم کا دھاگہ لے اور ۲۱ تار کا گندہ تیار کرے اور اس میں ۲۱ ہی گردہ لگائے۔ اور ہر گردہ پر تین تین مرتبہ مندرجہ ذیل عزیمت پڑھ کر گردہ لگائے اور زن حاملہ کے گلے میں باندھے اور تا وضع حمل کر میں بندھا رہے بعد ولادت بچے کے گلے میں باندھے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ زچ و بچ محفوظ و سلامت رہیں گے۔ مجرب ہے عزیمت یہ ہے۔

عَلَيْقَا مَدِينَقَا طَلِينَقَا حَالِقَا مَخْلُونَقَا كَافِيَا سَخِيَا اَرْتَضِي مُرْتَضِي  
بَحْقِ يَابْدُدْخُ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ  
لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔

## اگر کسی عورت کو بار بار اسقاطِ حمل ہوتا ہو

اگر کسی عورت کو بار بار اسقاطِ حمل ہوتا ہو تو مندرجہ ذیل آیت حاملہ عورت کے شکم پر شہادت کی انگلی سے تین مرتبہ لکھے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اسقاط نہ ہو گا۔ اور حمل محفوظ رہے گا وہ آیت یہ ہے۔

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا  
بعصورت دیگر اگر دوسری آیت کو شہادت کی انگلی سے تین مرتبہ حاملہ کے شکم پر لکھ دے تو فوراً بچہ ضائع ہو جائے یعنی حمل گر جائے۔ وہ آیت یہ ہے۔  
فَمَهِلِ الْكُفَّارِ يُنَأِمُهُمْ رُوَيْدًا۔

## برائے حفاظتِ حمل

اگر کسی عورت کو کئی بار اسقاط ہو چکا ہو تو سورہ والیل ۱۰۱ مرتبہ شیرین یعنی مخالفی پر دم رکے حاملہ کو کھلائے۔ اکیس روز تک۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اسقاط نہ ہو گا۔ اور حمل محفوظ رہے گا۔

## برائے حفاظتِ حمل

اگر کسی عورت کے شکم میں بچہ کمزور ہو یا سوکھ رہا ہو یا سوکھ گیا ہو۔ تو مندرجہ ذیل کو بروز جمعہ لکھ کر تیار کر کے رکھے اور بروز اتوار عورت حاملہ کی کمر میں باندھے اسات عدو تعلیم کا نسی کی پلیٹ میں لکھ کر سات روز تک پلاۓ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ سوکھا اور سات عدو تعلیم کا نسی کی پلیٹ میں حرکت پیدا ہو گی۔ وہ آیت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا  
فَتَقْبَلْ مِنِّي اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

## برائے حفاظتِ حمل

۲۷	۳۰	۳۳	۳۰
۳۲	۲۱	۲۶	۳۱
۲۲	۳۵	۲۸	۲۵
۲۹	۲۴	۳۳	۳۴

بِرَاءَ حفاظتِ جمل

اگر کسی عورت کے پہیٹ میں بچپے سوکھ کر گرتک ہو گیا ہو تو اس عزیمت کو ایک سو اسی  
مرتبہ پڑھ کر میدہ پر دم کرے۔ جمعہ کی رات کو دم کیا جائے اور میدہ کا حلواہ بننا کر کھائے  
تو ان شاء اللہ تعالیٰ سوکھا ہو۔ بچپے ماں کے پہیٹ میں حرکت کرے گا۔ اور تاوضع حمل بچپے بخیر و  
بے آہو گا۔ وہ عزیمت یہ ہے۔

سَمِعَ - يَسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّهُمَّ أَنْتَ الْفَتَّاحُ وَأَنَا الْمَتْجُوعُ  
فَئِنْ يَدْعُونِي الْمَتْجُوعُ لَا الْفَتَّاحُ يَأْرِبُ -

# برائے حفاظتِ حمل

اگر کسی حاملہ کے شکم میں بچپہ سوکھ کر کر گنگ بن گیا ہو تو اس نقش کو بروز جمعہ ایک تعویذ بنائے کر حاملہ کے گلے میں باندھیں اور ایک ہفتہ تک ایک تعویذ روز لکھ کر حاملہ کو پلاسیس ان شاء اللہ کرنگ میں جان آئے گی اور بچپہ جو کہ سوکھا ہوا تھا وہ سر سبز ہو گا مجبوب ہے۔

۷۸۴

یا اللہ کرنگ کو سبز کر دے اور حمل کی حفاظت فرما

جاداً وَ اُرْجَنَاتٍ سَمِّيَّتْ بِهِ  
اگر کسی عورت کو حمل ہو مگر وہ زیادہ دنوں کا ہونے پر بھی کم دنوں کا معلوم ہوتا ہو تو وہ نہ  
کر کے شیرینی تقسیم کر دیں اور بروز سو موادر کو اس بالانقش کو تیار کر کر اس اور مریضہ کی چولی میں  
بائندھیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ حمل محفوظ رہے گا اور بچہ تند رست پیدا ہو گا۔ بارہا کا آزمایا ہوا

جن عورتوں کا حمل ساقط ہو جاتا ہو

جن عورتوں کا حمل ساقط ہو جاتا ہوا اور اتفاقاً حمل پورا بھی ہوتا ہو تو لڑکی ہوتی ہوا ایک عورتوں کیلئے اس آیت کے تعویذ کو بروز جمعرات تیار کریں۔ اور زن حاملہ کے لگے میں باندھیں اور اکیس روز تک ایک تعویذ روزگھول کر پیتی رہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ حمل کی حفاظت رہے گی۔ اور اگر حمل دختر کا بھی ہوگا تو ان شاء اللہ تعالیٰ فہرزندار حمند پیدا ہوگا۔ وہ آیت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا  
مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

# برائے حفاظتِ حمل

اگر کسی عورت کا حمل دوسرے تیرے، چوتھے یا پانچویں مہینے گر جاتا ہو تو اس عزیمت کو بروز اتوار صبح بعد نماز فجر لکھ کر تیار کرے۔ آٹھ تعویذ لکھے۔ ایک حاملہ کی کمیں باندھے اور ایک تعویذ روز صبح کو پانی میں دھو کر ایک ہی تعویذ کا پانی روز، صبح دوپہر، شام کو پلاۓ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ حمل برقرار رہے گا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا حَمْدُكَ يَا قَيْوَمُ يَا بُدُّفُحُ شَحِيه  
بِيْكَوْئِي مَا هِيه سَحْدَدْ دَسْهَ سَهْ وَحَى وَقَيْوَمْ

اگر کسی عورت کے شکم میں بچہ سوکھ گیا ہو

اگر کسی عورت کے شکم میں بچہ سوکھ گیا ہو تو سورہ مزمل شریف ۱۱ مرتبہ پڑھ کر دو دو پردم کر کے چالیس روز تک پلاٹے روانہ پڑھ کر پلاتا رہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ کرنگ میں بحکمہ بُجا جان آئے گی۔ اور حمل محفوظ رہے گا۔

### برائے حفاظتِ حمل

اگر کسی عورت کے شکم میں سوکھا بچہ جو کرنگ ہو چکا ہو تو سوہہ مزمل شریف اکتا لیں مرتبہ پڑھ کر رسولوں کے تیل پردم کر کے حاملہ کے پیٹ پر ملنے کے لیے دے۔ ان شاء اللہ کرنگ جانبر ہو گا اور پوری مدت میں بچہ تولید ہو گا۔ یہ عزیمت بھی ساتھ میں پڑھے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَوْ أَمْرَهَا أَمْرَهَا كَهْلًا كَهْلًا كَهْنِيَّا  
بَرِّ حَمَّا أَوْ مَتْ وَبَهَثْ سِوَ هَمَّا

### برائے حفاظتِ حمل

اگر کسی عورت کا لڑکی کا حمل صحیح سلامت رہتا ہے اور کسی قسم کی پریشانی لاحق نہ ہوتی ہو اور لڑکی صحیح وقت پر پیدا ہوتی ہو مگر جب لڑکے کی امید ہو تو دوسرے تیسرا میں مینے انواع و اقسام کی بیماریاں لاحق ہو کر حمل گر جاتا ہو تو ان عورتوں کیلئے اس عزیمت کو لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں ڈالیں۔ اور دوسرہ تعویذ لکھ کر حاملہ کی کمر میں باندھیں اور پوری مدت یعنی تا پیدائش ایک تعویذ پانی میں دھو کر پلاتے رہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ حمل محفوظ اور ما مون رہے گا۔ اور لڑکا بحمد اللہ صحیح و سلامت پیدا ہو گا۔ اگر لڑکی کا حمل بھی ہو گا تو ان شاء اللہ بحکم ربی لڑکا ہتھی صحیح و سلامت پیدا ہو گا۔ عزیمت یہ ہے۔

بادا و رجنات سے مکمل شرطیہ نجات  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَنْتَ الْمَلِكُ وَأَنَا الْمَمْلُوكُ  
فَهُنَّ يَدْعُونَ رَبَّهُنَّ إِلَّا إِلَيْكَ يَأْتُونَ

### برائے حفاظتِ حمل

بن عورتوں کو اسقاط اور حمل ضائع ہونے کی بار بار شکایت ہو تو اس نقش کو لکھ کر بروز پہنچہ بیار کر کے تعویذ بنا کر گلے میں ایک کمر میں باندھے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ہر قسم کے اڑات و حرم و ام الصبيان جو گیاں شربان و کلبیاں و غیریت کے اثرات سے حاملہ محفوظ ہیں۔ اور بچہ بفضلِ کریم صحیح وقت پر تولد ہو گا۔ مجرب و آزمودہ ہے۔

۷۸۶

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَوْ أَمْرَهَا أَمْرَهَا كَهْلًا كَهْلًا كَهْنِيَّا

۱۲	۱	۲۰	۶
۱۹	۷	۱۳	۱۸
۸	۲۲	۱۵	۱۲
۱۶	۱۱	۹	۲۱

### برائے حفاظتِ حمل

یہ زندہ حفاظتِ حمل کیلئے بہت مفید ہے بلکہ حفاظتِ حمل کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے اور دنیو اضفال کیلئے لا جواب ہے۔ اس لئے اس کو یہاں لکھنا مناسب ہی نہیں بلکہ مفید ترین

بادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
پڑھے اور گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے۔ گندہ تیار ہو گیا۔ بروز اتوار بچوں کو شیر سنی  
ہے۔ تاکہ شائین عملیات اور معالجین اس سے فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کی خدمت کر سکے  
نہیں مندرجہ ذیل ہے۔

### برائے حفاظتِ حمل

جن عقیمہ و حاملہ عورتوں کو حمل گرانے کا ڈر لگا رہتا ہو تو ایک چھٹانک سیاہ مرچ  
آہی چھٹانک دیسی اجوائیں لے کر بعد نماز ظہر ۱۳ مرتبہ سورہ واشمس اور واٹھی پڑھ کر دم  
کریں اور تاوضع حمل ایک دانہ سیاہ مرچ کا اور ۲ دانہ اجوائیں کے روزانہ بعد نماز عشاء  
کھائیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ حمل محفوظ وسلامت رہے گا۔

### اگر کسی عورت کا حمل خام گرنے کا اندیشہ ہو

اگر کسی عورت کا حمل خام گرنے کا اندیشہ ہو تو اس نقش کو لکھ کر گلے میں باندھیں اور  
دوسرے کریں باندھیں اور ایک تعویذ ایک پانی کی بھری بوتل میں ڈال کر کھیں اور صبح،  
دوپہر، شام وہ پانی پینا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ حاملہ اور مولود محفوظ رہیں گے اور حمل بھی  
محفوظ و مامون رہے گا اور ہر قسم کے اثرات مسان خام و پختہ کی نخوسیت سے بخیر وسلامت  
رہے گا۔ مجرب ہے۔

يَا اللَّهُ أَحَدُ أَحَدٍ يَصَدِّقُ مِنْ عِنْدِكَ مَدْدِيُّ وَالْيُكَ مَسْتَوْدِيُّ  
يَا غَائِبَ عَنِي يَا مُنْتَهِيَ الْلَّيْبِ يَا خُدَّا مَرَ هُنْدِهُ الْإِسْمَاءُ إِذْفَعُوا  
إِذْفَعُوا بِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

بادو اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
ہے۔ تاکہ شائین عملیات اور معالجین اس سے فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کی خدمت کر سکے  
نہیں مندرجہ ذیل ہے۔

حوالشافی: عود صلیب، ا تو لہ، جددار خطائی، ا تو لہ۔ دانہ الاجھی سفید۔ ۹ ماشہ مفر  
کرنجوہ، ۹ ماشہ۔ خاکی ۳ تو لہ۔ نمک سیاہ، ا تو لہ۔ برگ کیگر ۱۲ تو لہ۔  
سب ادویہ کو کوت کر دو طرح کی گولیاں بنائیں۔ چنے کے برابر اور دانہ مسوارے  
برابر۔

خوراک: حاملہ کو صبح ورات ہمراہ دو دھنے ایک گولی چنے کے برابر والی بچ کو میں،  
رات کو گائے یا بھینس، یا بکری کے دو دھنے میں گھس کر مسور کے دانہ کے برابر والی گولی  
پلا کیں۔

### عقیمہ عورتوں کیلئے:

ایام حیض سے فارغ ہونے کے بعد صبح ورات کو دو دھنے سے کھائیں۔ ان شاء اللہ  
تعالیٰ تین ماہ میں بفضل رب کریم امید حمل قائم ہو۔ بعدہ حفاظت حمل کیلئے نومینے تک  
استعمال کرتے رہیں۔ بعد ولادت بچے کو دو سال تک کھائیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ عقیمہ کی  
آرزو پوری ہو گی۔ حمل قرار پائے گا۔ اور حاملہ کا حمل حفاظت سے رہے گا اور بچے بھی جموگا،  
ڈبوگا، ام الصبیان و پرسوت وغیرہ امراض سے محفوظ رہے گا۔ مجرب ہے۔

### برائے حفاظتِ حمل

جن عورتوں کو اسقاط ہوتا ہو یا حمل خام ضائع ہو جاتا ہو تو ان عورتوں کیلئے سورہ یسین  
شریف کا یہ گندہ بنادے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ اول گیارہ مرتبہ درود شریف پھر گیارہ مرتبہ  
الحمد شریف پڑھے۔ پھر سورہ یسین شروع کرے اور ہر میں پر ایک گردہ لگاتار ہے اور دم  
گرتا رہے۔ اسی طرح سات میں پر دم کر کے سات گردہ لگادے۔ پھر الحمد شریف گیارہ  
گرتا رہے۔ اسی طرح سات میں پر دم کر کے سات گردہ لگادے۔ پھر الحمد شریف گیارہ

باب:

باداً وَ أَرْجَنَاتٍ مُّكَلَّمٌ شَرْطِيَّة نِجَاتٍ  
جَادَ وَ أَرْجَنَاتٍ هَذِهِ أَوْرَكَيَارَه مَرْتَبَه درود شریف پڑھے۔ گندھ تیار ہو گیا۔ بروز اتوار پچوں کوشیری  
مرتبہ پڑھے اور گندھ زن حاملہ کی کرمیں باندھے۔ نومہینہ ہونے پر گندھ کھول دے اور بعد  
نقیم کرے اور گندھ کا لے کپڑے میں آئی کر بچپکے گلے میں باندھیں ان شاء اللہ تعالیٰ بچپکت  
بنجھل وہ گندھ کا لے کپڑے میں آئی کر بچپکے گلے میں باندھیں ان شاء اللہ تعالیٰ بچپکت  
بانے اور عمر دراز کو پہنچے۔

### برائے حفاظتِ حمل

ہن عقیمہ و حاملہ عورتوں کو حمل گرجانے کا ذرگا رہتا ہو تو ایک چھٹانک سیاہ مرچ  
خوارک: حاملہ کو صبح و رات ہمراہ دودھ ایک گولی چنے کے برابر والی بچپکو صبح  
آہی چھٹانک دیسی اجوائیں لے کر بعد نماز ظہر ۲۳ مرتبہ سورہ واشمس اور واٹھی پڑھ کر دم  
رات کو گائے یا بھینس، یا بکری کے دودھ میں گھس کر مسور کے دانہ کے برابر والی گولی  
پلا کیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ حمل محفوظ و سلامت رہے گا۔

### اگر کسی عورت کا حمل خام گرنے کا اندیشہ ہو

اگر کسی عورت کا حمل خام گرنے کا اندیشہ ہو تو اس نقش کو لکھ کر گلے میں باندھیں اور  
دوسرے کمر میں باندھیں اور ایک تعویذ ایک پانی کی بھری بوتل میں ڈال کر کھیں اور صبح،  
دوپہر، شام وہ پانی پینا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ حاملہ اور مولود محفوظ رہیں گے اور حمل بھی  
محفوظ و مامون رہے گا اور ہر قسم کے اثرات مسان خام و پختہ کی نجاست سے بخیر و سلامت  
رہے گا۔ مجبوب ہے۔

يَا اللَّهُ أَحَدُ أَحَدٍ صَمَدٌ مِّنْ عِنْدِكَ مَدَدٌ هُنَّ الَّذِينَ مَسْتَوْدِعُونَ  
يَا غَائِبٍ عَنِي يَا مُنْتَهِي طَلَبِي يَا خُدَّا هَمَ هُنَّ الْإِنْسَانُ إِذْ فَعَوْا  
إِذْ فَعُوا بِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

باداً وَ أَرْجَنَاتٍ مُّكَلَّمٌ شَرْطِيَّة نِجَاتٍ  
جادَ وَ أَرْجَنَاتٍ هَذِهِ أَوْرَكَيَارَه مَرْتَبَه درود شریف پڑھے۔ گندھ تیار ہو گیا۔ بروز اتوار پچوں کوشیری  
ہے۔ تاکہ شائقین عملیات اور معالجین اس سے فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کی خدمت کریں  
نہیں مندرجہ ذیل ہے۔

ہواشافی: عود صلیب، ا تو لہ، جددار خطائی، ا تو لہ۔ دانہ الائچی سفید۔ ۹ ماشہ مفر  
کرنجھو، ۹ ماشہ۔ خاکسی ۳ تو لہ۔ نمک سیاہ، ا تو لہ۔ برگ کیکر ۱۲ تو لہ۔

سب ادویہ کو کوت کر دو طرح کی گولیاں بنائیں۔ چنے کے برابر اور دانہ مسور کے  
برابر۔

خوراک: حاملہ کو صبح و رات ہمراہ دودھ ایک گولی چنے کے برابر والی بچپکو صبح  
رات کو گائے یا بھینس، یا بکری کے دودھ میں گھس کر مسور کے دانہ کے برابر والی گولی  
پلا کیں۔

### عقیمہ عورتوں کیلئے:


ایامِ حیض سے فارغ ہونے کے بعد صبح و رات کو دودھ سے کھلائیں۔ ان شاء اللہ  
تعالیٰ تین ماہ میں بفضل رب کریم امید حمل قائم ہو۔ بعدہ حفاظت حمل کیلئے نومہینے تک  
استعمال کرتے رہیں۔ بعد ولادت بچے کو دوسال تک کھلائیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ عقیمہ کی  
آرزو پوری ہو گی۔ حمل قرار پائے گا۔ اور حاملہ کا حمل حفاظت سے رہے گا اور بچہ بھی جموہا،  
ڈبوگا، ام الصبيان و پڑسوت وغیرہ امراض سے محفوظ رہے گا۔ مجبوب ہے۔

### برائے حفاظتِ حمل

جن عورتوں کو استقطاب ہوتا ہو یا حمل خام ضائع ہو جاتا ہو تو ان عورتوں کیلئے سورہ یسین  
شریف کا یہ گندھ بنادے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ اول گیارہ مرتبہ درود شریف پھر گیارہ مرتبہ  
الحمد شریف پڑھے۔ پھر سورہ یسین شروع کرے اور ہر میں پر ایک گردہ لگاتار ہے اور دم  
کرتا رہے۔ اسی طرح سات میں پر دم کر کے سات گردہ لگادے۔ پھر الحمد شریف گیارہ

## یا جبرایل

بَابٌ ۖ يَا مِيكَائِيلَ



یا اسرائیل

برائے حفاظتِ حمل

اگر کسی عورت کو حمل کے گر جانے کا خطرہ ہو یا سابقہ حمل چکا ہو تو اس نقش کو سو موڑ کو  
۲۲ نقش لکھے ایک تعویذ گلے میں باندھے اور ایک کمر میں باندھے۔ باقی روز ایک تعویذ  
پانی میں دھو کر پلاۓ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ حمل محفوظ رہے گا۔

۸	۵۴	۵۶	۱
۵۵	۲	۷	۵۳
۳	۵۸	۵۱	۶
۵۲	۵	۳	۵۷

## برائے حفاظتِ حمل

مندرجہ ذیل آیت متبہ کہ کو بروز جمعرات لکھ کر رکھے اور یوقت نصرورت جب کسی  
عورت کو حمل ۲ یا ۳ ماہ کا ہو جائے تو اس آیت کو لکھ کر گلے میں باندھے تو ان شاء اللہ تعالیٰ  
حمل محفوظ رہے گا اور آسیب و جنات، خوبیات، چڑیل مزیل، ہری، پری کے شر و ضر سے  
محفوظ و سلامت رہے۔ مجرب ہے۔ وہ آیات یہ ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ مَا تُنَوْا وَ هُمْ  
كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ  
خَلِدِيْنَ فِيهَا لَا يُخَفَّ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ يُنْظَرُونَ قَدْ  
أَتَيْتُنَّی مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَمْتُنَّی مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيْنَ  
فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ أَنْتَ وَ لَتُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ تَوَفَّنِي  
مُسْلِمًا وَ الْجِنْوَنِ بِالصَّالِحِيْنَ

## برائے قرارِ حمل و حفاظتِ حمل

اول زن عقیمه جب حیض سے فارغ ہووے تو اس آیت کو لکھ کر تین روز تک زان  
عقیہ کو دودھ میں پلاۓ۔ اور دودھ گائے کا ہو۔ پوتھے روز اپنے شوہر سے ہمسٹر ہووے  
ان شاء اللہ حمل قرار پائے گا۔ وہ آیت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ اللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَ لَكِنَّ  
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

اور جب حمل کا دوسرا مہینہ ہو جائے تو ان اسماء کو لکھ کر تعویذ بنا کر لال رنگ کی ڈوری  
میں سی کر حاملہ کی کمر میں باندھیں۔ تعویذ ناف کے نیچے ہے۔ ان شاء اللہ حمل محفوظ

وَمَا مُونَ رِبْهُ گا۔ وہ اسماء اصحاب کھف یہ ہیں۔

یمیلیخا۔ مکسلیبینا۔ کشفو طط۔ اذر قطیونس۔ تبیونس۔  
بوانس۔ بوس۔ کلبهم قطمیر۔

### اگر کسی شخص کوتپ لرزہ ہو

اگر کسی شخص کوتپ لرزہ ہو یا اختلاج قلب کا عارضہ ہو وے غرض کہ تمام دردوں کو  
مفید ہے۔ قونخ، درد ریاحی، تبخر، وساوس شیطانی، خفغان، مرگی، کمیر یہ، ہستریا، جموہا،  
ڈیوگا، ام الصبیان، مسان خام و پختہ، نظر بد، نظر کفتاران، ونظر ڈائن، نظر شمرہان، نظر  
آدمیان، نظر بد عورتوں سے، آسیب و جنات، چڑیل، مری، پری، ہری سے محفوظ و مامون و  
سلامت رہنے کیلئے اس نقش کو بروز جمعہ لکھ کر تیار کر کے رکھیں اور کل امراض کیلئے گلے میں  
باندھنا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ صحت کی حاصل ہوگی۔ مجرب و آزمودہ ہے۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

ز	و	ع	ح	و	ز
ط	و			و	ط
و	و	و	و	و	و
ھو		ی	ی		ھو
ما	ی	ح	ی	ی	ما

یا اللہ کل سحر و اثرات کو دور فرمایا

### براۓ قرار حمل

من درجہ ذیل آیۃ شریفہ کوئی کے کوئے پیالے میں لکھ کر دردھ سے دھو کر زن عنقرہ  
کو پلاٹے سات اتوار تک ان شاء اللہ تعالیٰ حمل قرار پائے گا۔ وہ آیت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ  
فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَخْسَنُ الْخَالِقِينَ۔

### براۓ حفاظت حمل

قَضَى	ثُمَّ	مِنْ	طِينٍ	الَّذِي	خَلَقْتُمْ	هُوَ
أَجَلًا	ثُمَّ	مِنْ	طِينٍ	الَّذِي	خَلَقْتُمْ	قَضَى أَجَلًا
وَأَجَلٌ	ثُمَّ	قَضَى	طِينٍ	مِنْ	خَلَقْتُمْ	أَجَلًا وَأَجَلٌ
مُسَسَّى	أَجَلًا	وَأَجَلٌ	مُسَسَّى	مِنْ	طِينٍ	مُسَسَّى أَجَلًا وَأَجَلٌ
عِنْدَهُ	أَجَلًا	وَأَجَلٌ	مُسَسَّى	طِينٍ	ثُمَّ	مُسَسَّى عِنْدَهُ أَجَلًا
عِنْدَهُ	أَجَلًا	وَأَجَلٌ	مُسَسَّى	ثُمَّ	قَضَى	أَجَلًا وَأَجَلٌ
أَنْتُمْ	أَنْتُمْ	عِنْدَهُ	مُسَسَّى	عِنْدَهُ	أَجَلًا	أَجَلًا وَأَجَلٌ
تَمَتَّرُونَ	أَنْتُمْ	عِنْدَهُ	مُسَسَّى	عِنْدَهُ	قَضَى	أَنْتُمْ

بَابٌ: ۴  
دوسرے یا تیسرا مہینہ اس نقش کو لکھ کر حاملہ کے گلے میں باندھے اور ایک نقش تعویذ بنائ کر میں باندھے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ حمل محفوظ رہے گا۔ بعد ولادت کے نیچے کر گلے میں باندھے وہ نقش متذکرہ بالا ہے۔

### برائے قرارِ حمل نزیرینہ

مندرجہ ذیل نقش کے دو عدد نقش بروز سو مواریا جمعرات لکھے ایام حیض سے فراغت کے بعد ایک زن عقیمه کی کمر میں باندھے اور دوسرا گلے میں باندھے اور آپس میں مجامعت بھی کرتے رہیں ان شاء اللہ اولاد زینہ پیدا ہو یعنی لڑکا ہو۔ تعویذ یہ ہے

اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ  
هُوَ هُوَ هُوَ هُوَ هُوَ هُوَ  
غَفُورٌ غَفُورٌ غَفُورٌ غَفُورٌ غَفُورٌ غَفُورٌ

### برائے قرارِ حمل

ایام حیض سے فراغت کے بعد مندرجہ ذیل آیت شریفہ کو بروز بدھ لکھ کر زن عقیمه کے دامنے بازو میں باندھیں۔ اور سات تعویذ لکھ کر ایک عدد تعویذ روز دو دھن میں پلاٹیں۔ اور شوہر مجامعت بھی کرتا رہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ حمل قرار پائے گا۔ وہ آیت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ  
لَّرَأَيْتَهُ خَاسِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ تِلْكَ الْأُمَثَالُ  
نَضَرِ بُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔

### برائے قرارِ حمل

جب زن عقیمه ایام حیض سے فارغ ہو جائے تو مندرجہ ذیل نقش کو بروز جمعہ پانچ عدد آپکے زن عقیمه کے تکیے میں رکھیں دوسرا زن عقیمه کے گلے میں باندھیں اور تمیں تعویذ لئے آپکے زن عقیمه میں دھوکر شیر پکا کر دونوں مردوں کی عورت بعد مغرب کے کھاویں رات روزانہ ایک تعویذ دو دھن میں دھوکر شیر پکا کر دونوں مردوں کی عورت بعد مغرب کے کھاویں رات میں دونوں کوئی نہیں چیز نہ کھائیں۔ رات کو ہمبستر ہوں۔ تمیں رات اسی طرح کریں ان شاء اللہ تعالیٰ حمل قرار پائے گا۔ اور تمام بلیات سے حفاظت رہے گی۔ وہ نقش مجرب یہ ہے۔

۷۸۶

التاء	سلموس	مرلوش	طلبوس
بر ما باد دیا	مطبوس	فروس	جلوس
یلدولم یولد	الصلالم	احدا لله	قل هو الله
احد	کفوًا	له	ولم يكن

### برائے حفاظتِ حمل

جب حمل ۲ ماہ کا ہو تو سفید زیرہ اور سیاہ دونوں لے کر درود شریف حاملہ کے نام کے انداز کے مطابق بعد نماز ظہر پڑھ کر دم کرنے اور ۳ دنہ روز بعد نماز ظہر کھاتے رہیں۔ ان

شاء اللہ تعالیٰ حمل ہر صورت ہر طرح سے محفوظ رہے گا مجرب ہے درود شریف یہ ہے۔  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَهُ مَنْ  
صَدَقَ وَصَلَّى بَعْدَهُ الْأَسْمَاءُ الشَّرِيفَةُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَزْلَمَ  
الرَّاحِيمُونَ۔

### برائے حفاظتِ حمل

جب عورت کو دو تین ماہ کا حمل ہو جائے تو کالی مرچ اور دلی کی اجوائے ۵۔ ۵۔ تولہ ۷  
کر بعد نماز ظہر سات مرتبہ واشنس پڑھ کر کالی مرچ پردم کرے۔ اور سات ہی مرتبہ دلی  
اجوان پردم کرے۔ اور روزانہ بعد نماز ظہر ایک دانہ کالی مرچ کا اور دو دانہ دلی کی اجوائے  
کے حاملہ کو تاوضع حمل کھلاتے رہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ حمل محفوظ رہے گا۔ بعد ولادت کے  
ایک دانہ اجوائے کا بچہ کو کھلاتے رہیں۔ ان شاء اللہ بچہ بھی جمیع امراض سے محفوظ رہے گا۔ اور  
عمر دراز کو پہنچے گا۔ مجرب ہے۔

### اگر کسی عورت کا بار بار حمل گر جاتا ہو

اگر کسی عورت کا بار بار حمل گر جاتا ہو تو دوسرے، تیسرا مہینے ہی یہ گندہ تیار کر کے  
باندھے۔ اگر کسی حاملہ کو خون جاری ہو جائے تو بھی اس گندہ کو تیار کر کے حاملہ کی کمر  
میں باندھے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ حمل رک جائے گا۔ اور ہر گز نہ گرے گا۔ مجرب و آزمودہ  
ہے۔ ترکیب گندہ تیار کرنے کی اس طرح ہے کہ لال رنگ کا دھاگہ لیں اور حاملہ کے  
دانہنے پیر کے انگوٹھے کے ناخن سے لے کر پیشانی کے بالوں کی جڑ تک ناپے اس کے برابر  
تار کرے۔ اور سات گرہ کا گندہ بناؤے اور ہر گرہ پرسات مرتبہ عزیمت پڑھ کردم  
کرے اور دھونی دے کر کمر میں باندھے۔ وہ عزیمت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْدَهُ مَنْ  
عَزَّلَهُ اللَّهُ۔

### جن عورتوں کو لڑ کے کا حمل گر جاتا ہو


جن عورتوں کو لڑ کے کا حمل صحیح سالم رہتا ہو ان  
عورتوں کیلئے یہ نقش لکھ کر بروز اتوار تین تعودیہ تیار کرے اور جمعرات کو دھو کر دو دھمیں مل کر  
مرد عورت دونوں پہیں۔ تین روز تک اور رات کو موافقات کریں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ حمل  
فرار پائے گا۔ اور حمل صحیح سالم رہے گا۔ بارہا کا آزمایا ہوا ہے اور عجیب  
الاثمہ ہے۔ نقش درج ذیل ہے۔

کھیعص	کھیعص	کھیعص
حمس	حمس	حمس
۳۵	۳۶	۳۷
۳۸	۳۱	۳۲
۳۸	۳۹	۳۲
۳۸	۴۰	۳۲

### جن عورتوں کا حمل بار بار گر جاتا ہو

جن عورتوں کا حمل بار بار گر جاتا ہو ایسی عورتوں کیلئے اس نقش کو بروز جمعرات لکھ کر

حاملہ عورت کی کمر میں باندھے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ حمل محفوظ رہے گا۔ اور بکرم اللہ تعالیٰ ہرگز نہ گرے گا۔ مجرب ہے۔



جن عورتوں کو اس قاطِ حمل کی شکایت ہو

جن عورتوں کو اس قاطِ حمل کی شکایت ہوتی ان کیلئے اس نقش کو بروز اتوار لکھ کر حاملہ کے گلے میں باندھے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ حمل محفوظ رہے گا۔

۷۶	۷۹	۸۲	۶۹
۸۱	۷۰	۷۵	۸۰
۷۱	۸۳	۷۷	۷۳
۷۸	۷۳	۷۲	۸۳

یا اللہ حمل کی حفاظت فرمائیں

## برائے حفاظتِ حمل

کلمہ طیبہ کا نقش عربی حفاظتِ حمل میں اکیرہ ہے۔ اس نقش کو بروز جمعرات، جمعہ، ہمارے بعد نماز فجر لکھ کر تیار کر کے۔ جب طالب آئے اس کو یہ نقش دیوئے۔ موم جامد کر کے ہماری لوبان کی دھونی وے کر کر میں باندھے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ حمل ہرگز نہ گرے گا۔  
یہ حفظہ رہے گا۔ مجرب ہے۔

۷۸۶

الله	محمد	رسول	الله
الله	محمد	رسول	الله
الله	محمد	رسول	الله
الله	محمد	رسول	الله
الله	محمد	رسول	الله
الله	محمد	رسول	الله
الله	محمد	رسول	الله
الله	محمد	رسول	الله

یا اللہ خون مدرکور و کدے حمل کی حفاظت فرمائیں۔

## حفاظتِ حمل کے واسطے

حفاظتِ حمل کے واسطے اس نقش کو بروز اتوار لکھ کر حاملہ کی کمر میں باندھے۔ ان شاء

جادا اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات 360  
اللہ تعالیٰ حمل حفظ کرے گا۔ اس قاطع ہرگز نہ ہوگا۔ مجبوب ہے۔

۷۸۶

۱۳	۱۶	۱۹	۶
۱۸	۷	۱۲	۱۷
۸	۲۱	۱۳	۱۱
۱۵	۱۰	۹	۲۰

یا اللہ حمل کی حفاظت فرماء

برائے حفاظتِ حمل

اس نقش کو بروز اتوار لکھ کر زن حاملہ کی کرمیں باندھے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ حمل محفوظ رہے گا۔ نقش لیا ہے۔

۷۸۶

۲۷	۳۰	۳۳	۲۰
۳۲	۲۱	۲۶	۳۱
۲۲	۳۵	۲۸	۲۵
۲۹	۲۲	۲۳	۳۲

یا اللہ حمل کی حفاظت فرماء

باب: ۲: مکمل شرطیہ نجات 361

بادا اور جنات سے مکمل شرطیہ نجات  
جس عورت کا حمل بار بار گر جاتا ہو

جس عورت کا حمل بار بار گر جاتا ہو اس نقش کو بروز جمعرات لکھ کر حاملہ کی کرمیں باندھے گے۔ حمل محفوظ رہے گا۔

۷۸۶

۱۵۸۱	۱۵۷۶	۱۵۸۳	حافظ
۱۵۸۲	۱۵۸۰	۱۵۷۸	حفیظ
۱۵۷۷	۱۵۸۲	۱۵۷۹	ناصر
منعم	وکیل	رقیب	نصریم

برائے حفاظتِ حمل

۷۸۶

۳۴۶	۳۵۰	۳۵۳	۳۳۹
۳۵۲	۳۴۰	۳۴۵	۳۵۱
۳۴۱	۳۵۵	۳۴۸	۳۴۴
۳۴۹	۳۴۳	۳۴۴	۳۵۴

یا اللہ ام الصیبان، جو گیان، کلبیان، شمریان، مسان خام و پختہ سے محفوظ فرماء۔

مندرجہ بالا نقش عجیب التاثیر ہے خاص کرام الصبيان، جو گیان، کلمیان، شربان، کفتاران، بیابان، مسان خام و پختہ کیلئے زود اثر ہے۔ اس نقش کو بعد نماز ظہر بروز دو شنبہ لکھ کر رکھے اور جب کوئی سائل آئے تو اس کو تعلیم بنا کر دیوے۔ مریضہ کے گلے میں باندھے۔ ان شاء اللہ جمع ام الصبيان کے اثرات سے محفوظ و مامون رہے۔ مجبوب ہے۔

### برائے حفاظتِ حمل

جب کسی عورت کو ۳ ماہ کا حمل ہو جائے تو اس نقش کو حاملہ کی کمر میں باندھیں آتویز پہچے کمر پر یعنی ریڑھ کی ہڈی پر رہے ان شاء اللہ تعالیٰ حمل محفوظ رہے گا۔ مجبوب ہے۔

قابض ۷۸۶

عہ	عہ	عہ	عہ
۱۹	۱۹	۱۹	۱۹
۹	۹	۹	۹
۔	۔	۔	۔

قابض درد و خون بند شود قابض حمل کی حفاظت فرمائیں۔ اس ذاتی کے اعداد کے مطابق استقرار حمل، حفاظت حمل و ام الصبيان و مسان وغیرہ کے عملیات و نقوش وغیرہ لکھے۔ شاید ان عملیات و نقوش سے خود بھی مستفیض ہوں اور خدمتِ خلق بھی انجام دیں۔ نیز فقیر کو بھی دعائے خیر میں یاد رکھیں۔

وَمَا تَوَفَّيْقٌ إِلَّا بِاللَّهِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانَ۔

### بچوں کے مسائل کا روحانی علاج

عملیات و تعویذات سیکھنے کے خواہش مند حضرات متوجہ ہوں  
ہم آپ کو سچا ماہر عملیات و تعویذات بناسکتے ہیں

پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں عملیات و تعویذات کے ماہر ہونے کے دعویٰ دار  
ایک بڑی تعداد میں سامنے آ رہے ہیں لیکن وہ جو حقیقت کے متناسی ہیں ان  
کو دعویٰ نہیں علم چاہیے ہوتا ہے۔ جو درود کی تھوکریں کھانے کے باوجود نہیں ملتے۔ اگر  
آپ بھی بڑے دعویٰ داروں کے شرطیہ کمالات آزمائچے ہیں اور تلاش حق  
کی راہ میں مارے مارے پھر رہے ہیں تو پھر ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ مرکز طبی و  
روحانی دارالشفاء میں تشریف لا سکیں اور دعویٰ نہیں حقیقت جانیے۔ جس میں ہم

☆ ساعات، تشییث، تدیس، قران، تربیع، مقابلہ، معلوم کرنے کا آسان  
طریقہ کار یعنی یہ وقت کب شروع ہوگا اور کس وقت ختم ہوگا۔

☆ عشق و محبت و حاضری مطلوب کے مجرب ترین اعمال

☆ عداوت و بغض کے مجرب ترین اعمال

☆ جادو و جنات سے فوراً نجات حاصل کرنے کے مجرب ترین اعمال

☆ ان عملیات و تعویذات میں چلہ کشی کی ضرورت نہیں، محض وقت اور ترکیب سے  
ہی عملیات و تعویذات میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔

## روحانی و جسمانی معانع حکیم حافظ عبد الرؤوف میاہر عملیات و تعویذات

مرکز طبی و روحانی دارالشفاء توحید پارک نزد گول مسجد امامیہ کالونی شاہدرہ لاہور

0300-4347214-0345-4190427

## نا فرمان اولاد کے لیے

اگر گھر کے آٹے پر سورۃ یسین تین (۳) بار سورہ مزمل (۷) بار سورۃ فاتحہ کے بار  
پاروں قل ۲۳ بار آیت اکری ۳ بار آیت کریمہ ۱۱ بار روزانہ پڑھیں پھر اسی آٹے کو  
پاروں قل اور روٹی پکا سیں، گھر میں کھلانیں۔ جو روٹی بچے، پرندوں کو ڈالیں گھر کے  
گوندھیں اور اولاد کی نافرمانی کے لیے آزمودہ ہے۔ (یہ عمل روزانہ کریں)  
جھر کے اور اولاد کی نافرمانی کے لیے آزمودہ ہے۔ (یہ عمل روزانہ کریں)

## بیٹا نافرمان ہو جائے

جب بچہ سورہ ہوتواں وقت بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَلْ هُوَ قُرْآن  
مجید فِي لَوْحٍ مَخْفُوظٍ ۖ ۲۱ بار کچھ او بچی آواز سے پڑھیں کہ بچے کی نیند خراب نہ ہو  
اور اے دم کر دیں اس طرح ۲۱ دن یہ عمل کریں۔ ان شاء اللہ بیٹا نافرمان بردار اور مطلع  
ہو جائے گا۔

## جو بچہ ماں کا دودھ نہ پئے اس کا علاج

یہ آیت لکھ کر اس کے گلے میں باندھیں۔  
شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلِكُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَاتِلًا  
بِالْقُسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ  
الْإِسْلَامُ۔ (سورہ عمران) بِرَحْمَتِك یا آز حمہ الرَّاجِیْمِین

## بچے کا رونا دھونا

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

أَفَيْنَ هَذَا الْحَدِيثُ تَعْجَمُونَ وَتَضَعُكُونَ وَلَا تَبْكُونَ.  
وَأَنْتُمْ سَمِدُونَ فَاسْجُدُوا إِلَيَّ وَاعْبُدُوا (سورة النجم پ ۲۷)  
الَّهُ تَرَى إِلَى رِتْكَ كَيْفَ مَدَ الظَّلَّ جَ وَلُؤْشَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا جَ ثُمَّ  
جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا (سورة الفرقان پ ۱۹ ع ۳)  
جو بچے غیر معمولی طور پر روتا ہواں کے لیے یہ دعا ایک کاغذ پر لکھ کر گلے میں موم جامہ  
کر کے باندھی جائے۔

### بچوں کا نیند میں بڑبڑا نے کا اعلان

اسماء الہیہ میں یہ چودہ نام لکھ کر گلے میں باندھ دیں۔ ان شاء اللہ خواب اور نیند میں  
بکواس اور بڑبڑا نے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ وہ نام یہ ہیں۔  
الْفَقَارُ. الْوَهَابُ. الْقَهَّارُ. الْفَتَّاحُ. الْقُدُوسُ. الرَّحْمَنُ. الرَّحِيمُ.  
الْشَّهِيدُ. الصَّمَدُ. الْتَّلِكُ. الْعَظِيمُ. الْكَرِيمُ. الْأَنْكَرُ.

### بچے کی حفاظت کے لیے تعویذ

اس سے بچے ہر بلا سے محفوظ رہیں گے۔ اس تعویذ کو لکھ کر موم جامہ کر کے بچوں کے  
گلے میں ڈال دیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ كُلَّهَا  
مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بِسْمِ اللَّهِ خَيْرَ الْأَسْمَاءِ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْأَرْضِ  
وَرَبِّ السَّمَاوَاتِ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ  
وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

### بچے کی حفاظت کے لیے تعویذ

بس عورت سے بچے ام الصبيان کے مرض میں مر جاتے ہوں شروع حمل سے وضع  
حل تک روزانہ تین مرتبہ حاملہ کو کسی روٹی کے نکڑے پر ”سَلَّمُ قَوْلًا مِنْ رَتِّ  
ه، لَكُمْ كَرَكَلَا يَا جَاءَ—اللَّهُ تَعَالَى كَفُولُ وَكَرْمٍ سَعَانَ شَاءَ اللَّهُ بچے ہر مرض سے محفوظ  
زَيْنَهُ كَأَوْرَابِنِي طَبِيعِي عَمَرٍ كَوْپَهْنَجَ گا۔

### بچوں کے لیے سوکھایا مسان کے لیے عمل

آدھ کلو یا کلوٹل لے کر اس کو دھلوائیں۔ بچہ راس کا تیل نکلوائیں اور اس پر مندرجہ  
بکواس اور بڑبڑا کر پھونک ماریں۔

ذیل آیات باوضو پڑھ کر پھونک ماریں۔  
سورۃ فاتحة مع بسم اللہ آخر تک تین مرتبہ، آیت الکرسی تین مرتبہ، والصفت سے من  
طین لاذب تک (پ ۲۳) تین مرتبہ سورہ جن شروع سے شططا تک (پ ۲۹) تین مرتبہ  
پاروں قل تین تین مرتبہ اس کے بعد بچہ کا سر منڈا کر روزانہ یہ پڑھا ہو اتیل سر سے لے کر  
پڑھ تک تمام جسم پر ملا کریں۔ کوئی جگہ تیل سے خالی نہ رہے۔ ملنے کے بعد چاہیں تو بچہ  
کو سابن سے نہلا دیں یا اتیل بدن پر لگا رہنے دیں۔ عمل چالیس دن تک بلا ناغہ کیا جائے  
اثنا اللہ مکمل فائدہ ہو گا۔

### بچوں کے حفظ کیلئے

بچوں کے حفظ کے لیے ایک روٹی پر باوضو بروز جمعرات سات جگہ نیچے لکھی ہوئی  
آیت کو اس طرح لکھا جائے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِي سَمِعَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ  
پھر ہر روز نہار منہ اس کو ایک نکڑا کھلا یا جائے۔ عمل سات جمعرات تک کرنا ہے۔

### اغواشدہ لڑکی یا لڑکے کی بازیابی کیلئے

يَا حَفِيظَا إِيْكَ سُوانِيس (۱۱۹) مرتبہ پھر:  
يَعْلَمُ إِنَّهَا إِنْ تَكْ مَفْقَالَ حَبَّةٍ فَنَحْرَدِلْ فَتَكْنُونَ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي  
الشَّمُوتِ أَذْ في الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ حَبِيبٌ

(سورہ نعمان رکوع ۲)  
ایک سوانیس (۱۱۹) مرتبہ پڑھا کریں۔ ان شاء اللہ اغواشدہ لڑکی یا لڑکا واپس  
آجائے گا۔

### گم شدہ لڑکی یا لڑکے کی بازیابی کے لیے

أَمْسَيْتُ فِي آمَانِ اللَّهِ وَأَصْبَحْتُ فِي جَوَارِ اللَّهِ  
سوالاً کھ مرتبہ پڑھیں ان شاء اللہ ضرور کامیابی ہوگی۔

### دانست جلد اور بآسانی نکلنے کا نسخہ

بچے کے مسروں پر روزانہ دو تین مرتبہ شہمل دیا کریں تو انشاء اللہ دانست جلد اور  
بآسانی ظاہر ہو جائیں گے۔

### نظر بد کے ازالہ کے لیے

يَا آیت پڑھ کر بچے پر دم کیا جائے یا زعفران سے لکھ کر گلے میں ڈالا جائے۔  
وَمَا أَغْنَى عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَإِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا بِلِلَّهِ عَلَيْهِ  
تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلَيَتَوَكَّلَ الْمُتَوَكِّلُونَ (سورہ بعثہ پ ۲۳ رکوع ۲)

### بچوں کے رونے کیلئے آیت الکرسی کا نقش

بِنْحِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . يَوْمَيْدِ يَتَبَعَّونَ الدَّاعِيَ لَا يَعْوِجُ لَهُ  
وَخَشَقَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هُمْ سَا

۷۸۲

۱۱۵۹	۱۱۲۲	۱۱۲۵	۱۱۵۱
۱۱۲۳	۱۱۵۲	۱۱۵۸	۱۱۲۳
۱۱۵۳	۱۱۲۷	۱۱۲۰	۱۱۵۷
۱۱۲۱	۱۱۵۶	۱۱۵۳	۱۱۲۶

### بچے کا رونا

مندرجہ ذیل نقش چار عدد لکھیں۔ ایک بچے کے گلے میں ڈالیں اور تین نقش تین دن  
تک پانی یا ماء کے دودھ میں گھول کر پانیں چپ ہو جائے گا۔ نیز آسیب جادو اور نظر بد  
سے محفوظ رہے گا نقش یہ ہے۔

۸	۱۹	۲۲	۱
۲۱	۳	۷	۲۰
۳	۲۲	۱۷	۶
۱۸	۵	۳	۲۳

## دانت پاسانی نکلنے کا تعویذ

باب:



چور دانت جو بچوں کو نکلتا ہے اور بہت تکلیف دیتا ہے اور بچوں کو ہرے پیلے درت آنے لگتے ہیں اس کے لیے:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اللَّهُمَّ اسْفَ

عبدک و صدق رسولک.

سیاہ روشنائی یا زعفران سے لکھ کر بچے کے گلے میں تعویذ کی طرح ڈال دیں۔ ان

شاء اللہ فائدہ ہوگا۔

## نظر بد کے لیے

دو تین ہلکی کی گرہ پر تین تین مرتبہ یہ لکھ پڑھ کر چھونکے اور پھر آگ میں ڈال کر اس کی دھونی اس بچے کو دیں جسے نظر بد لگی ہے۔ ان شاء اللہ اچھا ہو جائے گا۔

الإِسْلَامُ حَقٌّ وَالْكُفْرُ باطِلٌ

## بچوں کی بد تمیزی کا سبب اور اس کا علاج

بچوں کی بد تمیزی اور نافرمانی کا سبب عموماً الدین کے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کریں اور تین بار سورۃ فاتحہ پانی پر دم کر کے بچے کو پلا یا کریں۔ (آپ کے مسائل اور ان کا حل حضرت لدھیانوی شہید)

## قوت حافظہ بڑھانے کیلئے وظائف و دعائیں

۱۔ ہر نماز کے بعد سر پر باتھ رکھ کر (۱۱) مرتبہ یا قویٰ پڑھیں ان شاء اللہ حافظہ قوی

## سبق یاد کرنے کے آسان عمل

اگر سبق مشکل سے یاد ہوتا ہو تو صرف (۷) دن سورہ پیغمبر ﷺ کے کسی برتن میں لکھ کر پی لیں۔ ان شاء اللہ سبق آسانی سے یاد ہوگا۔

باب:

جادو اور جنات سے ہو جائے گا۔

فہری نماز کے بعد (۱۱۵) مرتبہ یا علیہم پڑھ کر دل پر دم کرنا قوت حافظہ بڑھانے کے لیے بہت مفید ہے۔

جو طالب علم یا طالب فہری نماز کے بعد درج ذیل آیت (۱۱۱) مرتبہ پڑھ لے تو اس کا مانع نہ ہے توی ہو جائے گا اور سابق آسانی سے یاد ہوں گے۔

فَمَنْ يُرِدَ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَ يَسْرَخْ صَدَرَةً (سورہ انعام)

## پڑھائی میں دل لگانے کا وظیفہ

جن طلباء و طالبات کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو وہ ہر نماز کے بعد پوری توجہ سے (۷)

باری پڑھ لیا کریں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھائی میں دل لگے گا۔

یَا حَافِظُ يَا عَلِيِّمُ يَا قَادِرُ يَا شَافِعٍ

## ذہن تیز کرنے کے لیے وظائف اور دعائیں

جن طلباء و طالبات کا ذہن کمزور ہو وہ روزانہ (۱۰۱) مرتبہ الہادی پڑھیں ان شاء اللہ ذہن بہت تیز ہو جائے گا۔

۲۔ (۳۰) دن روزانہ سورہ فاتحہ ایک بسکٹ پر لکھ کر کھانے سے ذہن خوب تیز ہو جائے گا۔

## سبق یاد کرنے کے آسان عمل

اگر سبق مشکل سے یاد ہوتا ہو تو صرف (۷) دن سورہ پیغمبر ﷺ کے کسی برتن میں لکھ کر پی لیں۔ ان شاء اللہ سبق آسانی سے یاد ہوگا۔

### مشکل پر چہ حل کرنے کے لیے وظیفہ

اگر امتحان میں پر چہ مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ کو قادر اور اپنے آپ کو متحان سمجھ کر پر چہ حل کرنے سے پہلے (۳) مرتبہ درج ذیل دعا پڑھیں ان شاء اللہ پر چہ آسانی سے حل ہوگا۔

اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي هَذِهِ الْوَرَقَةَ الصَّعْبَةَ

### اعلیٰ پوزیشن کے لیے وظیفہ

امتحان میں اعلیٰ پوزیشن حاصل کرنے کے لیے خواہش مند طلباء و طالبات ہر فرض نماز کے بعد (۷) مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔

يَا قَادِرُ قَدِيرُ لِي الدَّرَجَةَ الْعُلْيَا بِفَقْلِكَ الْعَظِيمِ

### امراض اطفال

اگر کوئی بچہ شیر خوار نہایت ذمہ ہو جیسے اکثرام الصبيان کی وجہ سے بچوں کو سوکھاگد جاتا ہے تو آدھ کلوسرسوں کا تیل لے کر سامنے رکھا جائے اور قبلہ رو باوضو ہو کر ایک ہزار مرتبہ "یاقہار" پڑھ کر دم کر دیا جائے۔ وہ تیل صبح و شام اکیس روز تک بچے کے جسم پر ماش کیا جائے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ بچے جلد تندرست ہو جائے گا۔

### سلامتی اولاد

جس عورت کے بچے مرجاتے ہوں۔ اس کو ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحيم (۶۱) مرتبہ لکھ کر دی جائے کہ اپنے پاس بطور تعویذ رکھے ان شاء اللہ اس کی اولاد ہر آفت سے محفوظ اور زندہ و سلامت رہے گی۔

### بچہ کو امام الصبيان (مرگ) سے محفوظ رکھتا ہے

جس دن بچہ پیدا ہو مشکل سے لکھ کر اس آیت کو بچہ کے گلے میں ڈالنا امام الصبيان (مرگ) سے محفوظ رکھتا ہے۔ آیت یہ ہے۔

﴿مَنْ وَرَأَهُ جَهَنَّمُ وَيُسْقِي مِنْ مَاءً وَحَابَ كُلُّ جَهَابٍ عَنِّيْدٌ﴾ مِنْ وَرَأَهُ جَهَنَّمُ وَيُسْقِي مِنْ مَاءً وَحَابَ كُلُّ جَهَابٍ عَنِّيْدٌ ﴿۱۵۱﴾  
صَدِيْنِيْدٌ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكُوْدُ يُسْيِغُهُ وَيَا تَبَّيْهُ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمُتَّيِّتٍ وَمِنْ وَرَأَهُ عَذَابٌ غَلِيْظٌ﴾ (سورہ ابراہیم آیت نمبر ۱۵۱)

تجربہ سے نہایت مفید ثابت ہوا ہے۔

### بچوں کو نظر بد اور ہر بیماری سے حفاظت کے لیے

یہ دعا لکھ کر بچے کے گلے میں ڈالیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَةٍ وَّعَدِينَ لَا مَةٌ تَحْصَنُ أَلْفِ أَلْفِ لَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

### چیچک کا علاج

نیلی ڈور لے کر اس پر سورہ رحمٰن پڑھیں اور ہر فبائی الاء ربکماں کذبان پر گردہ لگا کر چھونک ماریں اور بچہ کے گلے میں باندھیں۔ اس سورہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ بچے کو شفا عطا فرمائیں گے۔

## پچ کی تمام آفتوں سے بچاؤ کیلئے

سورہ مریم کی آیت نمبر ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ لکھ کر پچ کے گلے میں تعویذ بنانے کا راستہ  
ہر ہفتہ میں تین روز چینی کی پلیٹ پر لکھ کر پلانا، پچ کو والدین کی نافرمانی سے اور خود پچ  
کے لئے بھی تمام آفتوں سے بچانے اور ذہن اور حافظہ زیادہ کرنے کے لیے بڑا کسیر پاک حکم  
رکھتا ہے۔ آیتیں یہ ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِمَنْ حَلَّتِ الْكِتَابُ بِقُوَّةٍ وَّ اتَّيَنَاهُ  
الْحُكْمَ صَبِيَّاً وَ حَنَانًا قَنْ لَدُنَّا وَ زَكُوَّةٍ وَ كَانَ تَقْيَّاً وَ بَرَّبُو الدَّيْنِ  
وَ لَمْ يَكُنْ جَبَارًا عَصِيًّا وَ سَلَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ فُلَدَ وَ يَوْمَ يَمُوتُ وَ  
يَوْمَ يُنْعَثُ حَيَّاً

## تابعداری کے لیے

یَا أَنْحَنِنْ كُلِّ شَئِيْءٍ وَرَاجِهَةٌ

بیوی، شوہر، اولاد یا حکام بالا کسی کو بھی تابع کرنے کے لیے (۳) یوم ہر روز ۵۰۰  
مرتبہ پڑھے۔ چوتھے دن غسل کر کے (۱۰۰۰) مرتبہ پڑھے اور پھر اسے اپنی ہتھیں پر لکھیں  
اور جس کو مسخر کرنا ہے اس کے سامنے (۱۵) مرتبہ پڑھ کر پھونکیں۔ وہ آپ کا تابعدار ہو گا  
اور عزت کرے گا۔

## دماغی طاقت کیلئے

دِمَاغِي طاقت میں اضافے کیلئے یا وَاسِعُ الْعَطَاءِ وَ الْكَرْمِ روزانہ ایک تسبیح  
پڑھیں۔

## مسان سوکھا

۲۶

سورہ الحلق کی آیت:

(ا) پارہ نمبر ۲۶ سورہ الحلق کی آیت:  
آدَ لَهُ يَرَدُوا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ لَهُ يَعْلَمُ  
بِعَلْقُوْنَ يُقْدِيرُ عَلَى أَنْ يُعْلَمَ تَمَنُّهُ تَمَنُّهُ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَئِيْءٍ قَدِيرٌ  
خالص رسول کے تیل پر ایک ہزار (۱۰۰۰) بار دم کریں اور اکیس (۲۱) روز  
نکھل و شام مالش کریں۔

(ب) پارہ نمبر ۳۰ کو سورہ الحلق کیا رہ (۱۱) روز تک گیارہ بار روزانہ دم کر کے پانی پلاںایا  
جائے۔

(ج) صح کی سنت اور فرض کے درمیان سورہ فاتحہ اکتا لیں (۲۱) بار مع بِسْمِ اللَّهِ  
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ یعنی اس طرح بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ  
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پڑھیں اور شرینی پر دم کر کے دیتے رہیں۔

## اولاد کی نافرمانی اور شرارت سے حفاظت

اولاد اگر نافرمان ہو تو گھر کا سارا نظام بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح نافرمانی کے ساتھ  
شرارت بھی شامل ہو جائے تو ایسی اولاد والدین کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ ایسے  
پچ جب سو جائیں تو باوضو بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ پڑھتین بار داںیں کان  
میں دم کریں اور اسی طرح تین بار پڑھ کر بائیں کان میں دم کریں۔ چند دن یہ عمل کرنے  
سے ان شاء اللہ اولاد فرماں بردار اور نیک عادت بن جائے گی۔ اور شرارت چھوڑ کر اچھے  
اچھے کام کرے گی۔ وہ آیت یہ ہے۔

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَنْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ

پسند میں پیشہ کرنا

جس بچے کو بستر میں پیشاب کرنے کی عادت ہواں کے لیے ۰۰ (۲) ٹلسٹم لکھیں  
اک سرہانے رکھ دیں اور دوسرا اس کی جیب میں رکھ دیں۔ یا ہاتھ میں باندھ دیں۔ ان شاء  
الله خطا نہیں ہوگا۔

الله تعالى بسرورٍ ذي  
الحمد لله لا إله إلا هو رب العالمين

سو تے میں پچے کا ڈرنا

اگر کوئی بچے سوتے میں ڈر کر اٹھ جاتا ہو یا اسے سوتے وقت ڈر لگتا ہو۔ تو اس کے لئے باوضو اول تین بار درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد تمیں بار سورۃ النزلزال (مکمل سورہ) پڑھیں۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل آیت تمیں بار پڑھیں۔ آخر میں تمیں بار درود شریف پڑھ کر ایک گلاس پانی پر دم کر کے وہ پانی بچے کو پلا دیں اور اس کے بستر پر جسمی چھڑک دیں۔ ان شاء اللہ تمیں دن یا سات دن عمل کرنے سے ڈر خوف ختم ہو جائے گا۔ وہ آت ہے۔

آیت یہ ہے۔  
 وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالْعُّ أَمْرٍ ۖ قَدْ جَعَلَ  
 اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝ (سورہ طلاق پ ۲۸)

## بچوں کو بُری عادت سے بچانا

بعض بچے بہت سی بڑی عادتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثلًا بعض بچے ہر وقت انگوٹھی چوستے رہتے ہیں یا بعض بچے ہر وقت چینی پھانکتے رہتے ہیں یا بعض بچے مخیکری اور مٹی کھاتے ہیں اور اپنی ان عادتوں سے بازنہیں آتے۔ مارپیٹ اس سلسلے میں بیکار ہے۔ کیوں کہ بچہ تھوڑی دیر بعد وہی کام کرے گا۔ ایسے بچوں کو غلط عادت چھڑانے کے لئے روزانہ باوضوایک سوائیں (۱۳۱) مرتبہ "یا سلام" پڑھ کر بچے پردم کر دیا کریں اور یہ عمل اس وقت تک جاری رکھیں جب تک بچہ اس عادت سے بازنہ آجائے اور اس بڑی عادت کو نہ چھوڑ دے۔ ان شاء اللہ اس عمل کی برکت سے جلد ہی بچہ رک جائے اور بڑی عادت چھوڑ دے گا۔

دودھ نہ پینے والے بچے کیلئے

جو بچے کسی وجہ سے دودھ نہ پیتے ہوں۔ ان کے لیے نہایت مجرب علاج یہ تعلیم ہے  
یہ تعلیم روزانہ سات (۷) دن تک کاغذ پر لکھ کر اس کے حروف پانی سے دھو کر ذرا سا بچے کو  
اور اس کی ماں کو پلایا جائے۔ تھوڑے پانی سے چھاتی (پستان) ماں کی دھویا کریں پانی  
دھونے کا برتن میں نہ گرے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ بچے جلد دودھ میں لگے گا نقش یہ ہے۔

عطـا	مـعـرـفـت
لـوـء	ضـامـن
يـاقـيـوـمـ	يـاحـى